



عام عربی بول چال - گفتگو اور مکالمات  
 نیز فارسی وارد و ادب میں استعمال ہونے والے دس ہزار  
 عربی الفاظ ان کے تین ہزار مادہ و مأخذ کل تیرہ ہزار الفاظ کی  
**BASIC ARABIC DICTIONARY**  
 عجیب و غریب عربی اردو لغات

# تَلَخِيصُ الْعَرَبِيَّةِ

## يَا خُلَاصَةُ الْمُنْجِدِ ارْدُو

حسب ہدایت وحید العصر، فرید الدہر عالی جناب پروفیسر ابو الفتح سید عبد القادر  
 صاحب ایم اے (علیگ) مولوی فاضل پنجاب - فاضل علوم عربی و فارسی  
 بنگال سابق ممبر سینٹ و سنڈیکٹ و لیکچرار تاریخ اسلام کلکتہ یونیورسٹی و ممتحن  
 ایم۔ اے کلاس کلکتہ و پینہ یونیورسٹی

طابع و ناشر حکیم عبداللطیف شامذوق فضل الشیخہ قیہ میتم مکتبہ تعلیم القرآن العربیہ من بازار گولنڈی ۱۳۱۰  
 قیمت مع محصول ڈاک بین روپے

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi  
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ  
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ



# کتاب شروع کرنے سے پہلے اسے ضرور پڑھیے

ہزاروں روپیہ کی کتابیں سالے اور اخبارات ڈی کی ٹو کری میں۔

3993

آپ کی نظروں کے سامنے روزانہ ہزار ہا روپیہ کی کتابیں مثلاً ناول، قصہ جات وغیرہ رسالے اور اخبارات صبح پڑھ کر شام کو روٹی کی ٹو کری میں ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر روٹی فروشوں کی دکانوں پر چنڈا نے سر کے حساب سے فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ ان تمام رسالوں، اخباروں اور کتابوں کے مضامین ہنگامی، وقتی، آتی، اور معمولی موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ نہ ہی ان کتابوں، اخباروں اور رسالوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے لیکن جو کتاب اہمیت آپ کے موقر ہاتھوں میں ہے یہ متذکرہ بالا تمام قسم کے لڑکچہ سے بالکل انوکھی چیز ہے اس کا حرف اور لفظ لفظ اور اس کے تمام مضامین آپ کے لئے آپ کے خاندان کے لئے آپ کے اہل و عیال کے لئے آپ کے بال بچوں کے لئے بلکہ آپ کی آئندہ نسلوں کے لئے نہ صرف چند روز نہ صرف چند ماہ یا چند سال کے لئے بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے کارآمد نفع رسالی اور فائدہ بخش ثابت ہوتے رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور جب تک اس کتاب کے مندرجات کی آپ حفاظت کرتے چلے جاویں گے اس کے مضامین سے علمی، دینی، مذہبی، اسلامی، قرآنی، صرفی، نحوی، لغوی، عربی و احادیث شریف کے علوم و معارف سے پر فوائد و منافع حاصل کرتے چلے جاویں گے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہمیشہ آپ اور آپ کے متوسلین و متعلقین کے لئے ایک شفیق استاد، ایک ہمدرد معلم اور خیر خواہ مدرس کا کام دیتی رہے گی اور آپ چند ماہ کے عرصہ میں اس کے نافع، تلمسائیں اور مفید طالبین ہونے کے قائل ہو جاویں گے۔

پس ایسے مفید کتاب کے ملاحظہ کے بعد آپ کے ذمہ یہ فرض عین اور دین واجب ہے کہ آپ اس کی اشاعت میں دن رات ایک کر کے دے، درے، قدمے، سخنے، اعانت و نصرت فرما کر رات اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه کے مصداق اور اللہ سے اجر جزیل و ثواب کثیر کے مستحق بن جاویں۔ آمین۔ اور گھر بیٹھے بغیر کسی محنت و شاقہ کے اشاعت قرآن کریم و ترویج زبان عربی میں و تعمير احادیث رسول روف و عیم جیسی پاکیزہ خدمات کا



# تَعْلِيمُ الْعَرَبِيَّةِ

## صرف کے قواعد یا خلاصہ صرف

### سہ اقسام

زبان عرب میں جس قدر الفاظ راجح ہیں ان کی کل تین قسمیں ہیں اسم۔ فعل۔ حرف۔ اسم وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود بغیر کسی دوسرے لفظ کی مدد کے دلالت کرے۔ اور اس معنی کا تعلق کسی خاص زمانہ سے نہ ہو یعنی اس کے معنی میں ماضی۔ حال۔ استقبال تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے قَتَلَ مار ڈالنا۔ نَصَرَ۔ مدد کرنا۔ فَتَرَ۔ کھولنا۔ بَعُوْضُهُ مَجْمَعٌ عَنكَبُوْتُ۔ مکرپی۔ ذُبَابٌ۔ مکھی وغیرہ۔ کہ یہ اور اسی قسم کے ہزاروں الفاظ اپنے معنی پر بذات خود بغیر کسی دوسرے لفظ کی مدد کے دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کے معنی کا تعلق کسی خاص زمانہ سے نہیں ہے۔

فِعْلٌ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود بغیر کسی دوسرے لفظ کی مدد کے دلالت کرے۔ اور اس کے معنی میں گزشتہ۔ موجودہ۔ آئندہ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہو۔ جیسے ضَرَبَ اَسُّ لَمَّا رَا۔ قَتَلَ اَسُّ لَمَّا قَتَلَ كَيْفَا۔ يَضْرِبُ وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ يَقْتُلُ وہ قتل کرتا ہے یا

کیونکہ عربی زبان کی بول چال سیکھنے کے لئے بعض ضروری قواعد صرف و نحو کا جاننا لازم ہے۔ اس لئے سب سے پہلے صرف کے قواعد کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے پھر مادہ اور ماخذ معلوم کرنے یا متفرق صیغوں کے لفظ مفرد پہچاننے کے طریقے درج کئے جاویں گے۔ اور اس کے بعد خلاصہ النحو لکھا جاوے گا۔ اس کے بعد عربی بول چال سکھانے کے طریقے درج ہونگے۔ نیز فرہنگ لطیف یا تلوخیص العربیہ کے نام سے ایک عجیب و غریب عربی لغت بھی بالافراط شائع کی جا یا کرے گی۔ امید ہے انشاء اللہ چند پرچوں کے بغور مطالعہ کے بعد سالہ کے خریداروں میں عربی کی محبت اور عربی بول چال سیکھنے کا شوق شدت سے پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ نہایت سہولت سے عربی زبان کو سیکھ کر اس میں گفتگو کرنے کی اہلیت ہم پہنچا سکیں گے اور اپنے گھروں میں عربی زبان کو مادری زبان کی طرح راجح کر کے آجیئوا العرب لثلاث لاتی عریقی والقولن عویقی و کلام اهل الجنة عربی کے فرمان مصطفوی پر عمل وراآمد کرنے کے قابل ہو جاویں گے۔

وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  
لطیف شاہد۔ مدیر رسالہ

کرے گا۔ کہ یہ اور اسی قسم کے ہزاروں الفاظ اپنے معنی پر بذات خود بغیر کسی دوسرے لفظ کی مدد کے دلالت کرتے ہیں۔ اور ان کے معنی میں گزشتہ موجودہ۔ آئندہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پلایا جاتا ہے جیسے ضَرَبَ و قَتَلَ کے معنی کا تعلق گزشتہ سے ہے اور یَضْرِبُ و يَقْتُلُ کے معنی کا تعلق زمانہ موجودہ یا آئندہ سے ہے۔ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے بلکہ کسی دوسرے لفظ کی مدد کا محتاج ہو۔ یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ملا یا جائے اس کے پورے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے (صن) سے الیٰ تک فنی میں کہ ان الفاظ کے پورے معنی جب تک کوئی دوسرا لفظ ان کے ساتھ نہ ملے سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ تھے۔ تک۔ اور میں سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب ان کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو ملا یا جائے۔ مثلاً یوں کہا جائے۔ صَنِ السَّمَاءِ آسمان سے الیٰ الابدان۔ زمین تک۔ فی الدار۔ گھر میں۔ تو اس وقت ان الفاظ کے معنی بخوبی سمجھ میں آجاتے ہیں۔

### شش قسمی اقسام

اہل تصریف نے حروف الفاظ کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ اصل و زائد۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو صرف حروف اصلی سے ہی مرکب ہیں۔ اور ان میں زائد حرف کوئی نہیں۔ جیسے نَصْرٌ کہ یہ لفظ صرف حروف اصلی سے ہی مرکب ہے اور زائد حرف اس میں کوئی نہیں۔ آسکے مضامین میں بعض الفاظ ایسے بھی ہیں۔ جو حروف اصلی و زائد دونوں سے مرکب ہیں۔ اِنْتِصَادٌ۔ اِسْتِصَادٌ۔

تَنَاصُرٌ وغیرہ۔ کہ ان میں تین حرف ن۔ ص۔ د۔ اصلی ہیں۔ اور باقی زائد حروف۔ اصلی کو اہل تصریف ف۔ ع۔ ل سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً نَصْرٌ کے نون کو وہ ف اور ص کو ع اور ل کو ل کہیں گے۔ اس اصول سے ناظرین یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے الفاظ خاص ف۔ ع۔ ل اور دوسرے الفاظ سے مل کر بنے ہیں۔ ان میں سوائے تین حرف کے اور کل حرف زائد ہیں۔ مثلاً اِفْعَالٌ اِسْتِفْعَالٌ۔ اِنْفَعَالٌ۔ اِنْفِعَالٌ۔ تَفْعِيلٌ مَفَاعَلَةٌ تَفَاعُلٌ۔ تَفَعُّلٌ۔ فاعل مفعول میں ف۔ ع۔ ل اصلی ہیں۔ اور باقی سب زائد۔ حروف اصلی ہی کو لفظ کا مادہ اور مأخذ بھی کہتے ہیں۔ اور لفظ مفرد بھی کہتے ہیں۔ حروف اصلی کی تعداد فعل میں تین سے چار تک اور اسم میں پانچ تک ہے۔ اس چوتھے اور پانچویں حرف کا نام بھی تیسرے حرف کی طرح لام ہی ہے۔ حروف اصلی و زائدہ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ ثلاثی ذبَاعی و خُمَاسی۔ اور فعل کی دو ثلاثی و رباعی۔ پھر ان اقسام میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ مجرد و مزید پس اسماء و افعال کی یہ کل چھ قسمیں ہوئیں۔ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید قبہ۔ رباعی مجرد۔ رباعی مزید۔ خماسی مجرد۔ خماسی مزید۔ ثلاثی مجرد میں تین۔ رباعی مجرد میں چار۔ اور خماسی مجرد میں پانچ حرف اصلی ہوتے ہیں۔ مزید میں حروف اصلی کے علاوہ حروف زائدہ بھی ہوتے ہیں۔

اسم ثلاثی مجرد کے دس صیغے ہیں۔ فَلَاسٌ۔ فَلَاسٌ۔ کَتِفٌ۔ عَضُدٌ۔ عَجَبٌ۔ عَجَبٌ۔ اِجْلٌ۔ قَفْلٌ۔ صَرْدٌ۔ عُنُقٌ۔ مزید قبہ اس کے کثرت سے ہیں۔

اوزان کے خاص اوزان مقرر نہیں ہیں۔  
اسم رباعی مجرد کے پانچ صیغے ہیں۔ جَعَزَ،  
ذَهَمَ، ذَبَجَ، بَزَجَ، قَطَرٌ، مزید فیہ  
اس کے کم ہیں۔ اور ان کے بھی خاص اوزان مقرر نہیں  
ہیں۔

اسم خماسی مجرد کے چار صیغے ہیں۔ سَفَرَجَلٌ  
قُدْعَمِلٌ، جَحْمَرِشٌ، قِرْطَاطٌ، اس کے  
مزید فیہ بہت ٹھوڑے ہیں۔ اور ان کے پانچ وزن ہیں  
عَضْرَفُوطٌ، قَبَعَشْرَى، قِرْطُوسٌ  
خَزْعَبِيلٌ، خَنْدَرِيسٌ۔

فعل ثلاثی مجرد کے تین صیغے ہیں۔ فَعَلَ، فَعِلَ،  
فَعُلَ۔ یہ تینوں فعل ماضی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک  
کے لئے ایک مستقبل (مضارع) ہے۔ فَعَلَ کے  
مستقبل تین ہیں۔ یَفْعَلُ جیسے نَصَرَ۔ یَنْصُرُ  
یَفْعَلُ جیسے ضَرَبَ یَضْرِبُ۔ یَفْعَلُ جیسے  
فَتَحَ یَفْتَحُ۔ فَعَلَ کے مستقبل دو ہیں یَفْعَلُ  
جیسے عَلِمَ یَعْلَمُ۔ یَفْعَلُ جیسے حَسِبَ یَحْسِبُ  
فَعَلَ کا مستقبل ایک ہے۔ یَفْعَلُ جیسے شَرَفَ یَشْرَفُ  
صرفیوں کی اصطلاح میں ایک قسم کی ماضی اور اس  
کے ساتھ ایک قسم کے مضارع کا نام باب ہے۔ پس  
اس حساب سے ثلاثی مجرد کے کل چھ باب ہیں جن میں سے  
تین اصول ہیں۔ اور تین فروع۔ اصول فَعَلَ یَفْعَلُ  
(نَصَرَ یَنْصُرُ) فَعَلَ یَفْعَلُ (ضَرَبَ یَضْرِبُ)  
فَعَلَ یَفْعَلُ (سَمِعَ یَسْمَعُ) ان کو اصول اس  
لئے کہتے ہیں کہ یہ ابواب اصل قاعدہ اور قیاس کے مطابق  
واو اور باع کا یاد سے بدلا ہوا ہے۔ اور ناول کا الف اصل ہے۔

ہیں۔ کیونکہ ان کے مستقبل کے عین کی حرکت ماضی کے  
عین کی حرکت کے خلاف ہے۔ اور قیاس اسی کو چاہتا  
ہے۔ اس لئے کہ جب ماضی اور مستقبل میں معنی اختلاف  
ہے۔ تو لفظاً بھی ہونا چاہیے۔

فروع کے تین باب ہیں۔ فَعَلَ یَفْعَلُ دَفَنَ  
یَفْتَحُ، فَعَلَ یَفْعَلُ حَسِبَ یَحْسِبُ نَعَلَ  
یَفْعَلُ دَكْرَمَ یَكْدَرُمُ، ان کو فروع اس لئے کہتے ہیں  
کہ ان کے مستقبل کے عین کی حرکت ماضی کے عین کی  
حرکت کے موافق ہے۔

### ہفت اقسام

ترکیب حروف کے لحاظ سے جملہ اسماء و افعال  
کی سات قسمیں ہیں صحیح۔ مہموز۔ مثال۔ آہوق۔ ناقص  
لفیف۔ مضاعف۔ طالب علموں کی سہولت کے لئے  
ساتوں قسموں کو ایک فارسی شعر میں یوں جمع کیا گیا ہے۔

### شعر

صحیح ست و مثال ست و مضاعف۔ لفیف ناقص و مہموز و آہوق  
صحیح وہ ہے جس کے ف۔ ع۔ لام۔ تینوں حرف صحیح  
ہوں۔ یعنی نہ انکی جگہ ہمزہ ہو نہ حرف علت نہ دو حرف صحیح  
ایک جنس کے ہوں جیسے ضَرَبَ وَضْرَبَ او قَتَلَ و  
قَتَلَ وغیرہ۔

حرف علت تین ہیں۔ واو۔ الف۔ یا جن کا مجموعہ

یہ باب قرآن مجید میں نہیں آیا۔ بلکہ قرآن مجید میں یَحْسِبُ سین کی زبردستی  
ہے اور فصاحت کے کلام میں بھی ایسا ہی پایا جاتا ہے لیکن صرفیوں میں یہ باب  
مشہور ہے لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الف حرف علت نہیں ہے بلکہ  
لفظ و الف حرف علت شمار کیا جاتا ہے جو واو یا یا سے بدلا ہوا ہو۔ پس  
قَالَ و باع کا الف حرف علت ہے اور ناول کا نہیں۔ کیونکہ قال کا الف

واو اور باع کا یاد سے بدلا ہوا ہے۔ اور ناول کا الف اصل ہے۔ اور واو یا کے الف سے بدلا ہوا ہے۔

قسم کو لفیف مفروق۔ اور دوسری قسم کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مفروق کو مفروق اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں دو حرف ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ یعنی دونوں کے بیچ میں ایک حرف صحیح ہوتا ہے۔ مقرون کو اس لئے مقرون کہا جاتا ہے کہ اس میں دونوں حرف علت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔

مضاعف وہ ہے جس میں دو حرف صحیح ایک جنس کے ہوں جیسے مَدَّ و مَدَّ اور ذَبَّ و ذَبَّ وغیرہ۔ کہ ان میں نہ حرف علت ہے نہ ہمزہ لیکن ان کے عین و لام ایک ہی جنس کے ہیں کہ پہلی مثال میں عین و لام دونوں کی جگہ حرف دال ہے اور دوسری میں دونوں کی جگہ حرف ب۔

ان ساتوں اقسام مذکورہ میں سے صحیح کے ساتھ تو اور کوئی قسم جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن باقی چھٹیوں قسمیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ لفیف مفروق مثال و ناقص۔ اور مقرون اجوف و ناقص کے مجموعہ کا نام فعل کی چار قسمیں ہیں ماضی۔ مضارع۔ امر۔ نہی۔ ماضی کے معنی میں زمانہ گذشتہ۔ اور مضارع کے معنی میں زمانہ حال یا استقبال پایا جاتا ہے۔ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم۔ اور نہی میں کسی کام کے کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ معروف و مجہول۔ پھر معروف و مجہول کی بھی دو دو قسمیں ہیں۔ مثبت و منفی۔ پس اس اعتبار سے ماضی۔ مضارع۔ امر۔ نہی میں سے ہر ایک کی چار قسمیں ہوئیں۔ مثبت معروف۔ مثبت مجہول۔ منفی معروف۔ منفی مجہول۔ مثبت معروف میں فاعل اور مثبت مجہول میں مفعول یہ کے لئے فعل کا اثبات کیا جاتا ہے

وائی ہے۔ ان کو حرف علت اس لئے کہا جاتا ہے کہ علیل یعنی بیمار کی زبان سے شدت تکلیف کے وقت بیشتر لفظ وائی وائی نکالتا ہے۔ ایک صرفی کہتا ہے لہ

حرف علت نام کر و قد و ا و الف و یائے را

ہر کہ را و زوے رسد ناچار گوید وائے را

ہمزہ وہ ہے جس میں ف یا ع یا لام کی جگہ ہمزہ ہو اس کی تین قسمیں۔ (۱) ہمزہ الفاحس میں فاء کلمہ ہمزہ ہو جیسے اَصْرًا وَاَمْوًا (۲) ہمزہ العین جس میں عین کلمہ ہمزہ ہو جیسے سَأَلَ سَعُولًا (۳) ہمزہ اللام جس میں لام کلمہ ہمزہ ہو جیسے قَرَأَ وَقَرَأُوا۔

مثال وہ ہے جس کا فاء کلمہ حرف علت ہو اسکی دو قسمیں ہیں۔ (۱) مثال واوی یعنی وہ جس کا فاء کلمہ حرف واو ہو۔ جیسے وَعَدَ و وَعْدًا (۲) مثال یائی یعنی وہ کلمہ جس کا فاء کلمہ حرف یا ہو جیسے یَسَّرَ و یَسِّرًا

اجوف وہ ہے جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اجوف واوی یعنی جس کا عین کلمہ حرف واو ہو۔ جیسے قَالَ وَقَوْلًا و خَافَ و خَوْفًا (۲) اجوف یائی یعنی وہ جس کا عین کلمہ حرف یا ہو جیسے بَاعَ و بَيْعًا ناقص وہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اس کی بھی حسب تفصیل سابق واوی و یائی دو قسمیں جیسے سَعَوْا و رَضِيَا۔ اجوف الفی و ناقص الفی کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ عین و لام کی جگہ جو الف آتا ہے حقیقت میں وہ واویا یا ع سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔

لفیف وہ ہے جس میں فاء و لام یا عین کی جگہ دو حرف علت ہوں جیسے وَاوَى وَاوَى وغیرہ پہلی

جیسے فَعَلَ اس نے کیا۔ اور فَعِلَ وہ کیا گیا۔ یَفْعَلُ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یُفْعَلُ وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ منفی معروف میں فاعل اور منفی مجہول میں مفعول بہ سے فعل کی نفی کی جاتی ہے جیسے مَا فَعَلَ اس نے نہیں کیا۔ مَا فَعِلَ وہ نہیں کیا گیا۔ لَا یَفْعَلُ وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ لَا یُفْعَلُ وہ نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا۔ ان چاروں قسموں میں سے ہر ایک کے چودہ چودہ صیغے آتے ہیں جو حسب ذیل ہیں:-

منکلم	مؤنث غائب			مؤنث حاضر			مؤنث غائب			مؤنث حاضر		
	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع
ماضی معروف	فَعَلَتْ	فَعَلْتُمَا	فَعَلْنَ	فَعَلْتِ	فَعَلْتُمَا	فَعَلْنَ	فَعَلْتِ	فَعَلْتُمَا	فَعَلْنَ	فَعَلْتِ	فَعَلْتُمَا	فَعَلْنَ
ماضی مجہول	فَعِلَتْ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	فَعِلْتِ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	فَعِلْتِ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ	فَعِلْتِ	فَعِلْتُمَا	فَعِلْنَ

مذکورہ بالا صیغے ماضی مثبت کے ہیں۔ یعنی ان میں فاعل یا مفعول بہ کے لئے فعل کا اثبات کیا جاتا ہے جیسے فَعَلَ (اُس نے کیا)، فَعِلَا (ان دونوں نے کیا)، اَلْحُ فَعِلَ (وہ کیا گیا)، فَعِلَا (وہ دونوں کئے گئے)۔ الخ۔ اسی قیاس پر باقی صیغوں کے معنی سمجھنے چاہئیں۔ نفی کے صیغے بعینہ ہی صیغے ہیں۔ لیکن اُس میں ان کے اول میں لفظ مَا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مَا فَعَلَ (اُس نے نہیں کیا)، الخ۔ اور مَا فَعِلَ (وہ نہیں کیا گیا)، الخ۔ ماضی معروف کے عین کلمہ کی کوئی خاص حرکت مقرر نہیں ہے۔ بلکہ اس پر۔ زیر۔ زبر۔ پیش۔ تینوں حرکتیں آسکتی ہیں۔ یعنی فَعَلَ۔ فَعِلَ۔ فَعِلَ۔ تینوں ماضی ہی کے صیغے ہیں۔ جیسے فَعَسَقَ (اُس نے نافرمانی کی)، سَمِعَ (اُس نے سنا)۔ بَصَرَ۔ (اُس نے دیکھا)

منکلم	مؤنث غائب			مؤنث حاضر			مؤنث غائب			مؤنث حاضر		
	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع
مضارع معروف	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ	یَفْعَلِي	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ	یَفْعَلِي	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ	یَفْعَلِي	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ
فعل مجہول	یَفْعَلُ	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ	یَفْعَلِي	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ	یَفْعَلِي	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ	یَفْعَلِي	یَفْعَلَانِ	یَفْعَلْنَ



کسی قسم کا عمل نہیں کرتا۔ اس کے داخل ہونے کے بعد مضارع کے تمام صیغوں کے حروف اور ان کے حرکات و سکنات بحسبہ اسی طرح قائم رہتے ہیں کہ جس طرح لا کے داخل ہونے سے پستتر تھے۔ البتہ معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ مثبت کو منفی کر دیتا ہے صرفیوں کی اصطلاح میں اس نفی کا کوئی خاص نام نہیں ہے جیسے آنے والی دونفیوں کا خاص نام مقرر ہے لیکن ہم اسی نفی کا نام نفی محض اور نفی سادہ رکھتے ہیں کیونکہ اس نفی کے معنی میں نفی کے سوا اور کسی قسم کی زیادتی نہیں۔ بخلاف آنے والی دونفیوں کے کہ ان کے معنی میں محض نفی ہی نہیں بلکہ اس پر اور بھی زیادتی ہے۔

اگرچہ اکثر اور عموماً لائے نفی مضارع پر اور لائے نفی ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی استعمال ہو جاتا ہے جیسے فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى (نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی) میں صَدَقَ وَصَلَّى ماضی کے صیغے ہیں لیکن ان کی نفی لائے کی گئی ہے۔ جو اکثر اور عموماً مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ میں يَخْدَعُونَ اور يَشْعُرُونَ مضارع کے صیغے ہیں لیکن ان کی نفی ماضی سے کی گئی ہے جو اکثر اور عام طور پر ماضی پر داخل ہوتا ہے۔

(۲) لکن کے ساتھ۔ یہ نفی فعل مضارع سے حال کے معنی دور کر کے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتی ہے۔ اور اس نفی کا نام نفی تاکید بکن ہے۔ کیونکہ اس نفی میں تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لفظوں میں

مضارع کے معنی میں چونکہ حال و استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے حال و استقبال کے لئے علیحدہ علیحدہ صیغے وضع نہیں کئے گئے۔ بلکہ جو صیغہ مضارع کا ہے۔ بعینہ وہی صیغہ حال کا ہے۔ اور وہی استقبال کا۔ لیکن جب مضارع پر حرف س یا سوف داخل ہوگا۔ تو اس کے معنی صرف استقبال کے رہ جائیں گے۔ اور حال کے معنی اس میں سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے سَيَخْلِفُونَ (وہ تمہیں کھائیں گے)۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تم جان لو گے۔ اسی طرح جب مضارع پر حرف لام داخل ہوگا۔ تو اس کے معنی صرف حال کے رہ جائیں گے۔ اور استقبال کے معنی اس میں سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے لَيَحْزُنَنَّ۔ وہ غم میں ڈالتا ہے۔

مضارع کی نفی تین طرح پر آتی ہے۔

(۱) لا کے ساتھ جیسے لَا يَفْعَلُ وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ الخ۔ لَا يَفْعَلُ۔ وہ نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جائے گا۔ الخ۔ لَا مضارع کے لفظوں میں

یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ماضی معروف کے عین کلمہ کا کوئی خاص اعراب مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح مضارع کے عین کلمہ کے لئے بھی کوئی خاص حرکت مقرر نہیں ہے۔ بلکہ ماضی کی طرح اس پر بھی زیر۔ زبر۔ پیش۔ تینوں حرکتیں آتی ہیں یعنی يَفْعَلُ يَفْعَلُ يَفْعَلُ۔ تینوں مضارع ہی کے صیغے ہیں جیسے يَخْدَعُونَ وہ فریب دیتے ہیں۔ يَكْذِبُونَ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ يَنْصُرُونَ وہ مدد دیتے ہیں۔

لَنْ کا عمل یہ ہے کہ صیغہ واحد مذکر غائب۔ اور واحد مؤنث غائب۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد متکلم۔ جمع متکلم۔ پانچ صیغوں میں لام کا پیش دُور کر کے اس کو زبر دینا ہے۔ اور سات جگہ یعنی چاروں تشنیوں اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں نون کو جو بجائے اسی پیش کے تھا گرا دینا ہے۔ اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے دو صیغوں میں لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ اس کے صیغوں کی گردان یہ ہے۔

نفی تاکید بَلْ لَنْ ورفعل مستقبل معروف

مذکر غائب		مؤنث غائب			مذکر حاضر			مؤنث حاضر			متکلم	
واحد	تشنیہ	جمع	واحد	تشنیہ	جمع	واحد	تشنیہ	جمع	واحد	تشنیہ	جمع	مذکر اور مؤنث
لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ	لَنْ يَفْعَلَنَّ

جہول کے صیغے لَنْ يَفْعَلَنَّ۔ لَنْ يَفْعَلَنَّ الخ ہیں۔

(۳) لَمْ کے ساتھ۔ یہ نفی بھی فعل مضارع کے الفاظ و معنی دونوں میں عمل کرتی ہے جن پانچ جگہ لَنْ فعل مضارع کے لام کو زبر دیتا ہے۔ یہ ان پانچ جگہ لام کو جزم دیتا ہے۔ اور سات جگہ لَنْ کی طرح یہ بھی نون کو گرا دیتا ہے اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے دو صیغوں میں لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ معنی میں اس کا عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لَمْ يَفْعَلَنَّ (اُس نے نہیں کیا) پس لَمْ يَفْعَلَنَّ اور مَا فَعَلَ کے ایک معنی ہیں۔ اس نفی کا نام نفی جحد بَلْم ہے۔ اور اس کے صیغوں کی گردان یہ ہے۔

نفی جحد بَلْم

مذکر غائب		مؤنث غائب			مذکر حاضر			مؤنث حاضر			متکلم	
واحد	تشنیہ	جمع	واحد	تشنیہ	جمع	واحد	تشنیہ	جمع	واحد	تشنیہ	جمع	مذکر اور مؤنث
لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ	لَمْ يَفْعَلَنَّ

اسی پر جہول کے صیغوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ یعنی اس کی گردان لَمْ يَفْعَلَنَّ۔ لَمْ يَفْعَلَنَّ الخ ہے۔

۱۰ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ باقی صیغوں کے معنی اسی پر قیاس کر لو۔ سنہ ۱۲

کبھی مضارع کے اول میں لام مفتوح اور آخر میں نون مشدود یا ساکن بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لام اور نون کو لام تاکید کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ تاکید کے معنی کا فائدہ دیتے ہیں۔ نون مشدود کا نام ثقیلہ اور نون ساکن کا نام خفیفہ ہے۔ یہ لام اور نون بھی فعل مضارع سے حال کے معنی دور کر کے اس کو صرف مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ نون ثقیلہ مضارع کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ اس کی گردان حسب ذیل ہے:-  
لام تاکید یا نون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف

مذکر غائب		مؤنث حاضر			مذکر حاضر			مؤنث حاضر		متکلم	
واحد	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	مذکر
لَيَفْعَلَنَّ	لَيَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ

مجهول کے صیغے بھی بعینہ ہی معروف کے صیغے ہیں۔ فقط اتنا فرق ہے کہ معروف میں علامت مضارع ی۔ ت۔ الف۔ ن پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ اور عین پر زیر۔ زبر۔ پیش۔ تینوں حرکتیں آسکتی ہیں۔ مجهول میں علامت مضارع ہمیشہ مضموم ہوتی ہے۔ اور عین پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ جیسے لَيَفْعَلَنَّ۔ لَيَفْعَلْنَ الخ نون خفیفہ صرف آٹھ صیغوں میں آتا ہے۔ چاروں تثنیوں اور جمع مؤنث غائب و حاضر کے دو صیغوں میں نہیں آتا۔

لام تاکید یا نون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف

مذکر غائب		مؤنث حاضر			مذکر حاضر			مؤنث حاضر		متکلم	
واحد	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	واحد	ثنیہ	جمع	مذکر
لَيَفْعَلَنَّ	لَيَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ	تَفْعَلْنِ	تَفْعَلْنَ	تَفْعَلَنَّ

مجهول کے صیغوں میں علامت مضارع مضموم اور عین ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے لَيَفْعَلَنَّ۔ الخ امر حاضر معروف

مذکر		مؤنث		
واحد	ثنیہ	واحد	ثنیہ	جمع
أَفْعَلُ	أَفْعَلَا	أَفْعَلِي	أَفْعَلَا	أَفْعَلْنَ

امر حاضر معروف میں ہمزہ کو زیر اور پیش دو حرکتیں آسکتی ہیں۔ اور عین کو زیر۔ زبر۔ پیش تینوں یعنی

لہ البتہ البتہ وہ کریگا۔ اسی طرح باقی صیغوں کے معنی کرو۔ لہ البتہ البتہ وہ کریگا۔ باقی الفاظ کے معنی صیغوں کے لحاظ سے خود کرو۔ لہ کراخ

اَفْعَلٌ - اِفْعَلٌ - اِفْعَلٌ - تینوں امر حاضر معروف ہی کے صیغے ہیں جیسے اَضْرِبْ - مار - اَجْعَلْ - بن - اَقْتُلُوا - قتل کرو۔  
امر حاضر مجہول

مؤنث			مذکر		
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد
لِتُفَعِّلَنَّ	لِتُفَعِّلَا	لِتُفَعِّلِي	لِتُفَعِّلُوا	لِتُفَعِّلَا	لِتُفَعِّلْهُ

امر غائب معروف

مؤنث			مذکر		
جمع	واحد مذکر و مؤنث	تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث	جمع	واحد	تثنیہ
لَيُفَعِّلَنَّ	لَيُفَعِّلْهُ	لَيُفَعِّلَا	لَيُفَعِّلُوا	لَيُفَعِّلْهُ	لَيُفَعِّلَا

امر غائب مجہول میں علامت مضارع مضموم اور عین ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے جیسے لَيُفَعِّلْ - لَيُفَعِّلَا الخ

نہی حاضر معروف      نہی حاضر مجہول

مؤنث			مذکر			مؤنث			مذکر		
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد
لَا تَفْعَلَنَّ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلِي	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلْهُ	لَا تَفْعَلَنَّ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلِي	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلْهُ
نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا

نہی حاضر معروف کا عین کلمہ مفتوح و مضموم و کسور تینوں طرح آتا ہے۔ نہی حاضر مجہول میں علامت مضارع مضموم اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے جیسے لَا تَجْعَلْ نہ کر۔ لَا تَضْرِبُوا نہ بیان کرو۔ لَا تَقْتُلُوا نہ قتل کرو۔

نہی غائب معروف

مؤنث			مذکر		
جمع	واحد مذکر و مؤنث	تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث	جمع	واحد	تثنیہ
لَا تَفْعَلَنَّ	لَا تَفْعَلْهُ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلْهُ	لَا تَفْعَلَا
نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا	نہی کرنا

لے چاہیے کہ کیا جائے تو لے چاہیے کہ وہ کرے لے چاہیے کہ وہ کیا جائے۔ منہ ۱۲

جہوں میں علامت منہار مضموم اور عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے لَا يُفْعَل۔ لَا يُفْعَلَا الخ۔  
نون ثقیلہ و خفیفہ جس طرح مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح امر و نہی پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ جیسے  
لِيَفْعَلَنَّ۔ لِيَفْعَلَنَّ۔ اور لَا يَفْعَلَنَّ۔ لَا يَفْعَلَنَّ۔ وغیرہ۔

نون خفیفہ مضارع کے جن صیغوں میں داخل نہیں ہوتا۔ امر و نہی کے بھی ان صیغوں میں داخل نہیں ہوتا۔  
اسما متفرقہ کی پانچ قسمیں ہیں۔ اسم فاعل۔ اسم مفعول۔ اسم آلہ۔ اسم ظرف۔ اسم تفضیل ان کے صیغے حسب ذیل ہیں

اسم مفعول						اسم فاعل									
مؤنث			مذکر			مؤنث			مذکر						
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد				
مَفْعُولَاتٌ	مَفْعُولَاتَانِ	مَفْعُولَةٌ	مَفْعُولُونَ	مَفْعُولَانِ	مَفْعُولٌ	فَاعِلَاتٌ	فَاعِلَاتَانِ	فَاعِلَةٌ	فَاعِلُونَ	فَاعِلَانِ	فَاعِلٌ				
	مَفْعُولَاتَيْنِ		مَفْعُولَيْنِ	مَفْعُولَيْنِ		فَاعِلَاتَيْنِ	فَاعِلَاتَيْنِ		فَاعِلَيْنِ	فَاعِلَيْنِ					
کی ہوئیں	دو کی ہوئیں	کی ہوئی	کے ہوئے	دو کے ہوئے	کیا ہوا	کرنے والیاں	دیکھنے والی	کرنے والی	کرنے والے	دیکھنے والے	کرنے والے				
اسم ظرف						اسم آلہ									
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	بڑا آلہ	اوسط درجے کا آلہ	چھوٹا آلہ	جمع	تثنیہ	بڑا آلہ	اوسط درجے کا آلہ	چھوٹا آلہ			
مَفَاعِلُ	مَفَاعِلَانِ	مَفَاعِلٌ	مَفَاعِلُونَ	مَفَاعِلَانِ	مِفْعَالٌ	مِفْعَالَةٌ	مِفْعَالٌ	مِفْعَالٌ	مِفْعَالَانِ	مِفْعَالٌ	مِفْعَالَةٌ	مِفْعَالٌ			
کرنے کے مقامات	کرنے کی دو جگہ یا دو وقت	کرنے کی جگہ یا وقت	کرنے کے آئے	کرنے کے دو آئے	کرنے کا بڑا آلہ	کرنے کا متوسط آلہ	کرنے کا چھوٹا آلہ	کرنے کے آئے	کرنے کے دو آئے	کرنے کا بڑا آلہ	کرنے کا متوسط آلہ	کرنے کا چھوٹا آلہ			
اسم تفضیل															
مؤنث				مذکر				مؤنث				مذکر			
جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	جمع	تثنیہ	واحد	
فَعَلٌ	فَعَلَاتٌ	فَعَلَةٌ	فَعَلُونَ	فَعَلَاتٌ	فَعَلٌ	أَفْعَالٌ	أَفْعَالَاتٌ	أَفْعَالَةٌ	أَفْعَالُونَ	أَفْعَالَاتٌ	أَفْعَالَةٌ	أَفْعَالُونَ	أَفْعَالَاتٌ	أَفْعَالٌ	
زیادہ کرنے والیاں	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والے	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والے	زیادہ کرنے والے	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والے	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والے	زیادہ کرنے والی	زیادہ کرنے والے	

صحیح سے فعل ثنائی مجرد کے تمام صیغے نہیں وزنوں پر آتے ہیں۔

فعل رباعی مجرد صرف ایک ہی وزن پر آتا ہے  
یعنی اس کی ماضی فَعَلَّ - مضارع يُفَعِّلُ  
امر فَعِّلْ اسم فاعل مُفَعِّلٌ - اسم مفعول  
مُفَعَّلٌ - آتا ہے۔ رباعی مجرد کی ماضی میں چاروں  
حرف اصلی ہوتے ہیں۔

فعل ثلاثی مزید کے یوں تو تیرہ باب ہیں لیکن  
بارہ باب کثیر الاستعمال ہیں۔ اِفْعَالٌ - اِفْتَعَالٌ  
اِسْتَفْعَالٌ - اِنْفَعَالٌ - تَفْعِيلٌ - مُفَاعَلَةٌ  
تَفَاعُلٌ - تَفَعُّلٌ - ان میں سے ہر ایک کی ماضی  
مضارع - امر وغیرہ کی گردان یوں ہے۔

ماضی - اَفْعَلٌ - اِفْتَعَلَ - اِسْتَفَعَلَ  
اِنْفَعَلَ - فَعَّلَ - فَاعَلَ - تَفَاعَلَ - تَفَعَّلَ -  
مضارع - يُفَعِّلُ - يَفْتَعِلُ - يَسْتَفَعِلُ  
يَنْفَعِلُ - يُفَعِّلُ - يُفَاعِلُ - يَتَفَاعَلُ - يَتَفَعَّلُ  
امر - اِفْعِلْ - اِفْتَعِلْ - اِسْتَفَعِلْ - اِنْفَعِلْ  
فَعِّلْ - فَاعِلْ - تَفَاعَلْ - تَفَعَّلْ -

اسم فاعل - مُفَعِّلٌ - مُفَعِّلٌ - مُسْتَفَعِّلٌ  
مُنْفَعِلٌ - مُفَعِّلٌ - مُفَاعِلٌ مُتَفَاعِلٌ مُنْفَعِلٌ  
اسم مفعول - ان ابواب میں اسم فاعل اور اسم مفعول  
کے صیغوں میں فقط اس قدر فرق ہے۔ کہ اسم فاعل میں  
عین کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ اور اسم مفعول میں مفتوح یعنی  
اسم مفعول کے صیغے - مُفَعِّلٌ - مُفَعِّلٌ - مُفَعِّلٌ وغیرہ  
آتے ہیں۔

ان ابواب میں ہم نے ضروری جگہوں کا صرف  
ایک ایک صیغہ دیا ہے۔ باقی صیغوں کو فعل ثلاثی مجرد

کے صیغوں پر قیاس کر لو۔

۱- اَفْعَلٌ - اسے حرفی ماضی کے ف کلمہ کو  
ساکن کر کے شروع میں ہمزہ مفتوح زیادہ کرنے  
سے جیسے خَرَجَ سے اَخْرَجَ - مصدر  
اِفْعَالٌ (اجوف سے اِفْعَالٌ) جیسے اَخْرَجَ  
اِخْرَاجًا - اَقَامَ - اِقَامَةً - یہ باب ذہن  
کے معنوں کے لئے بنایا جاتا ہے۔ (۱) لازم

فعل سے متعدی بنانے کے لئے جیسے قَعَدَ سے  
اَقْعَدَ اور متعدی کو ایک اور مفعول کے لئے متعدی  
بنانے کے لئے جیسے عَلِمَ سے اَعْلَمَ (۲) جس  
لفظ سے فعل بنے۔ وہ دوسری چیز کے لئے بنانا جیسے  
شَرَاكَ سے اَشْرَكَ التَّعَلُّ - اس نے چپلی کو  
تسمہ والی بنایا۔ (۳) سلب یعنی کسی سے کچھ دور کرنے  
کے لئے جیسے - اَشْكَى (شکایت دور کرنا) (۴)  
دُخُلَ کے لئے جیسے اَصْبَحَ - صبح کے وقت آنا (۵)  
مکان یا جگہ کے ارادہ کے لئے جیسے اَعْرَفَ - عراق کا  
قص کرنا۔ (۶) مبالغہ کے لئے جیسے اَسْفَرَ - بہت  
روشن ہونا۔ (۷) جس لفظ سے فعل بنے وہ دوسری  
چیز میں پائے جانے کے لئے جیسے اَسْرَفَ (دور و فراغ  
ہونا) (۸) مجرد کے معنوں کے علاوہ نئے معنی کے لئے

جیسے اَسْفَقَ (جہربانی کرنا) اَسْفَقَ ذُرْنًا (۹)  
عرض یعنی پیش کرنے کے لئے جیسے اَبَاعَ بیچنے کے لئے  
پیش کرنا (۱۰) چیز کے وقت پر پہنچنے کے لئے جیسے  
اِحْصَدَ (کاٹنے کے وقت پر پہنچنا) (۱۱) فَعَّلَ کا  
اثر قبول کرنے کے اظہار کے لئے جیسے اَشْرَكَ زَيْدًا

مُقَاتَلَةٌ وَقِتَالًا وَقِيْتَالًا جس کے ف کلمہ میں بی ہو۔ اس کا مصدر صرف مُفَاعَلَةٌ کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے یَاسِرٌ مُبَيَّسَةٌ ذِبِلٌ کے معنوں کے لئے آتا ہے۔ (۱) کام میں دو کی شراکت کے لئے لیکن جو اسم فعل سے متصل ہو اس پر پیش ہوتا ہے اور دوسرے پر زبر جیسے قَاتِلٌ زَيْدٌ خَالِدًا۔ زید اور خالد باہم لڑے (۲) بمعنی مجرد جیسے سَافِرٌ بمعنی سَفَرٌ (۳) اَفْعَلٌ کے ہم معنی جیسے بَاعَدَ بمعنی اَبْعَدَ (۴) ہم معنی فَعَلَ جیسے ضَاعَفَ بمعنی ضَعَّفَ

(۴) تَفَعَّلَ۔ ف کلمے سے پہلے ت مفتوح

اور ع پر شد وز بر دینے سے مصدر تَفَعَّلَ۔ جیسے قَدِمَ سے تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا۔ ناقص سے تَفَعَّلَ جیسے ذکی سے تَزَكَّى تَزَكِيًّا۔ عموماً ذیل کے معنوں کے لئے بنایا جاتا ہے (۱) تَكَلَّفَ اور تَصَتَّحَ کے لئے جیسے تَشَجَّعَ۔ تَكَلَّفَ اور بناوٹ سے بہادر بننا۔ (۲) پرہیز کے لئے جیسے تَأْتَمَرٌ گناہ سے پرہیز کرنا۔ اِتَّخَذَ جیسے تَوَسَّطَ اِلْحَاجَةَ۔ پتھر کو تکیہ بنانا۔ کام میں لانے کے لئے تَنَوَّسَ۔ ڈھال کو کام میں لانا۔ آہستہ آہستہ کام کرنے کے لئے جیسے تَحَفَّظَ تَحْفُوظًا تَحْفُوظًا ایا کرنا۔ ایک حالت سے دوسری میں آجانا جیسے مالدار ہونا۔ فَعَّلَ کے اثر کو قبول کرنے کے لئے جیسے عَلَّمَهُ فَتَعَلَّمَ اس نے اس کو سکھلایا۔ اور وہ سیکھ گیا نئے معنی کے لئے جو جُزُوْا میں نہ پائے جائیں جیسے كَلِمَةً اس نے زخمی کیا،

فَاَبَشَرَ۔ اس نے زید کو خوشخبری دی۔ اور وہ خوش ہو گیا۔ (۱۲) نسبت کے لئے جیسے اَكْفَرُ دُكْرًا كِي طرف منسوب کرنا، (۱۳) کسی چیز کو کسی صفت پر پانے کے لئے جیسے اَحْمَدٌ قابل تعریف پایا (۱۴) مجرد کے ہم معنی جیسے اَقَالَ بمعنی قَالَ فصیح کرنا (بیع)

(۲) فَعَّلَ۔ ع کلمے پر شد وز بر دینے سے مصدر تَفَعَّلَ اور تَفَعَّلَ ہے جیسے فَرَّحَ تَفَرَّحًا۔ وَشَعَّ تَوَسَّعًا۔ آجوف کے لئے تَفَعَّلَ مخصوص ہے جیسے قَوْمٌ تَفَرَّحُوا۔ اور ناقص کے لئے تَفَعَّلَ جیسے ذَكِيٌّ تَزَكَّى۔

جس کے لام کلمہ میں ہمزہ ہو۔ اس کا مصدر بھی اکثر تَفَعَّلَ آتا ہے جیسے وَطًا تَوَطَّئَةً۔ کبھی کبھی فَعَّلَ۔ فَعَّلَ۔ تَفَعَّلَ کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے كَلَامٌ كِذَابٌ كِذَابٌ تَكَرَّرَ۔ اَفْعَلٌ کے پہلے آٹھ معنوں میں شریک ہے۔ جیسے فَرَّحَ (دخوش کرنا، وَشَرَ۔ زہ دار بنانا۔ دُكْرًا) تَقَوَّدَ (چھری کو دور کرنا، عَمَّقَ) (گہرائی تک پہنچنا) صَرَحَ (اچھی طرح کھلنا) تَوَدَّرَ (شکوہ دار ہونا۔ فَسَّقَ) (فسق کی نسبت کرنا۔ كَلَّمَ۔ کلام کرنا۔ (۹) جس چیز سے فعل بنایا جائے وہ کسی کو پہنانے کے لئے جیسے جَلَّلَ۔ جھول پہنانا۔ (۱۰) بلمع کے لئے جیسے ذَهَبَ سنہری کرنا۔ (۱۱) انتصار کے لئے۔ جیسے هَلَّلَ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔ (۱۲) فَاَعْلَلُ۔ ثلاثی کے ف کلمے کے بعد الف زیادہ کرنے اور ع کلمہ پر زبر دینے سے مصدر مُفَاعَلَةٌ اور فَعَّلَ اور کبھی فَيَعَّلَ۔ جیسے قَتَلَ سے قَاتَلَ

سے نکلے اس نے گفتگو کی۔ طلب کے لئے جیسے  
تَعَجَّلْ جلدی طلب کرنا۔ انتساب کے لئے جیسے  
تَبَدَّى بادیہ کی طرف منسوب ہونا۔

(۵) تَفَاعَلَ۔ ف کے لئے پہلے ت مفتوح اور ف کے بعد الف زیادہ کرنے سے مصدر تَفَاعَلَ ناقص سے تَفَاعَلَ جیسے قَتَلَ سے تَقَاتَلَ تَقَاتَلًا۔ رَضِيَ سے تَرَا ضَى تَرَا ضِيًا۔ عموماً ذیل کے معنوں کے لئے آتا ہے (۱) اشتراک کے لئے جیسے تَقَاتَلَ زَيْدٌ وَخَالِدٌ زید اور خالد باہم لڑے (۲) جھوٹا بہانہ بنانے اور دکھلاوے کے لئے جیسے تَمَادَى جھوٹا بیمار بنانا (۳) فاعل کا اثر لینے کے لئے جیسے نَاوَلَهُ فَنَنَاوَلَ اس نے اس کو چیز دی اور اس نے لی۔ ابتداء کے لئے جیسے بَرَكَ (اونٹ بیٹھا) سے تَبَادَكَ وہ بہت بڑکتا والا ہوا۔ تدریجی وقوع کے لئے جیسے نَوَاذَكَ الْقَوْمُ لوگ یکے بعد دیگرے آئے۔ مجرد کا ہم معنی بھی ہوتا ہے جیسے تَسَاخَى وہ بلند ہوا۔

(۶) اِفْتَعَلَ۔ ف کلمہ ساکن کر کے پہلے ہمزہ مکسور اور ف کے بورت مفتوح زیادہ کرنے سے مصدر اِفْتَعَلَ جیسے كَسَبَ سے اِكْتَسَبَ اِلْتِسَابًا عموماً ذیل کے معنی میں آتا ہے۔ اتخاذ یعنی کوئی چیز بنانے کے لئے جیسے اِحْتَجَرَ (بل بنانا) حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرنے کے لئے جیسے اِكْتَسَبَ بہت کمانا، اپنے لئے کام کرنے کے لئے جیسے اِكْتَالَ (اپنے لئے ماپنا) فَعَلَ کے اثر کو لینے کے لئے جیسے حَمَلَهُ

فَاِحْتَمَلَ۔ اس نے اس پر بوجھ لادا اور وہ لد گیا۔  
۷۔ اِسْتَفْعَلَ۔ ف کو ساکن کر کے شروع میں اِشْتِ زیادہ کرنے سے (مصدر اِسْتَفْعَالَ) جیسے عَفَرَ سے اِسْتَعْفَرَ اِسْتِعْفَاءً اعموماً ذیل کے معانی کے لئے بنایا جاتا ہے (۱) اتخاذ جیسے اِسْتَوَطَنَ (وطن بنانا) (۲) طلب کے لئے جیسے اِسْتَعْفَرَ (بخشش طلب کرنا) (۳) قابل ہونے کے لئے جیسے اِسْتَرْقَعَ (بیوند لگانے کے قابل ہونا) (۴) کسی صفت پر پانے کے لئے جیسے اِسْتَشْكَمَ (کریم پانا) (۵) خیال اور گمان کے لئے جیسے اِسْتَحْسَنَ (نیک خیال کرنا) (۶) ایک صفت سے دوسری میں بدلنا جیسے اِسْتَحْجَرَ (پتھر ہونا) (۷) فقرہ کے اختصار کے لئے جیسے اِسْتَرْجَعَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ کہتا)

۸۔ اِنْفَعَلَ۔ ف کلمے سے پہلے ان زیادہ کرنے سے مصدر اِنْفَعَلَ ہے۔ اس وزن کے فعل ہمیشہ لازمی ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایسے فعل آتے ہیں جو اعضاء کے کام ہوں جیسے كَسَرَ (ٹوٹنا) سے اِنكَسَرَ اِنكِسَارًا (ٹوٹنا) (۲) اِنفَعَلَ (لینے کے لئے جیسے كَسَرَ (ٹوٹنا) اِنكَسَرَ (ٹوٹنا) (۳) ابتداء جیسے طَلَّقَ (لمبے لمبے قدم چلنا) سے اِنطَلَقَ (چلنا)

۹۔ اِفْعَلَ۔ ف کلمے پر جزم دیکر پہلے ہمزہ مکسور بڑھانے اور لام کلمے پر شد زبردینے سے مصدر کا وزن اِفْعَلَالٌ ہے اور ایسے لفظ اس میں آتے ہیں۔



جن میں رنگ اور عیب کے معنی ہوں۔ اور سب لازم ہوتے ہیں۔ جیسے حَمْرٌ (وہ سرخ ہوا) سے اِحْمَرَّ اِحْمِرًا وہ زیادہ سرخ ہوا۔

۱۰۔ اِفْعَالٌ۔ ف ساکن کر کے شروع میں ہمزہ وکسور اور ع کلمے کے بعد الف زیادہ کرنے اور ل کلمے پر شد وزبر دینے سے اس سے مصدر اِفْعَالٌ آتا ہے۔ اور یہ بھی ایسے لفظوں سے بنتا ہے جن میں رنگ اور عیب کے معنی ہوں۔ اس میں اِفْعَلٌ کی نسبت مبالغہ زیادہ ہوتا ہے جیسے حَمْرٌ سے اِحْمَارٌ اِحْمِرًا۔

۱۱۔ اِفْعَوْعَلٌ۔ ف کلمہ ساکن کر کے شروع میں ہمزہ وکسور اور ع کے بعد واو ساکن ع مفتوح زیادہ کرنے سے یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ اس کا مصدر اِفْعِيعَالٌ ہے جیسے حَدِيثٌ اِرْوَهُ طِيْرٌ صِيْبٌ وَالَا ہوا) سے اِحْدُوْدٌ اِحْدِيْدًا۔ وہ بہت گوز پشت ہوا۔

۱۲۔ اِفْعَوَالٌ۔ اس باب سے مجرد نہیں آتا یہ اکثر لازم ہوتا ہے۔ اس کا مصدر اِفْعَوَالٌ پر آتا ہے جیسے اِحْدُوْدًا۔ وہ بہت تیز دوڑا۔  
رباعی (چہار حرفی فعل)

فَعَلَلٌ۔ رباعی مجرد کا وزن ہے دمصدر فَعَلَلَةٌ (ذیل کے معنی میں آتا ہے۔ فصر کے لئے یعنی فقرہ کے اختصار کے لئے۔ جیسے حَمْدٌ اِحْمَدٌ پڑھنا) پھنانے کے لئے جیسے تَبْرُقَعٌ بَرَقَعًا پھنانا۔ چیز بنانے کے لئے۔ جیسے قَنَطَرٌ (پیل بنانا)

## رباعی مزید

تَفَعَّلٌ۔ (مصدر تَفَعَّلٌ) یہ ذیل کے

معنی کے لئے ہوتا ہے۔ چیز کو استعمال کرنے کے لئے جیسے تَبْرُقَعٌ (برقعہ اوڑھنا) فَعَلَلٌ کا اثر قبول کرنے کے لئے جیسے دَخْرَجٌ (لڑکانا) سے تَدَخَّرَجٌ (لڑکھانا)

اِفْعَلَلٌ (مصدر اِفْعِلَالٌ) مبالغہ کے لئے جیسے اَشْرَأَبٌ (نہایت چوکس ہونا)

اِفْعَنَلَلٌ (مصدر اِفْعِنْدَالٌ) فَعَلَلٌ کا اثر قبول کرنے کے لئے تَعَجَّرٌ (خون بہانا) سے اِثْعَنَجَّرٌ (خون بہنا) مبالغہ کے لئے جیسے اِشْحَنَفَرٌ (بہت شتابی کرنا) نئے معنی کے لئے جیسے اِعْرَ لَفْطٌ (سکڑنا)

۱۳۔ ت۔ ن۔ چار حرف علامت مضارع

ہیں۔ ماضی کے ف کلمہ کو ساکن کر کے شروع میں لگائے جاتے ہیں۔ مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے۔ جمع مؤنث کے صیغوں کے سوا باقی کے

آخر میں پیش کے عوض نون ہوتا ہے جس کو نون عربی کہتے ہیں۔ مضارع کی گردان سے معلوم کرو کہ

علامت مضارع کے حروف کن کن صیغوں سے خاص ہیں۔ علامت مضارع چار حرفی میں مضموم ہوتی ہے۔ باقی سب میں مفتوح۔

تلاشی جو ماضی کے ہمزہ سے شروع ہو۔ اس کا

ہمزہ مضارع میں گر جانا ہے جیسے اِسْتَفْعَمَ سے اِسْتَفْعَمُوا جو ماضی ت سے شروع ہو۔ مضارع میں اس کا ماقبل (آخر

(وہ بھی اندر آئے گا) تَدْوَفُ يَدْوِي (وہ غمزدگی سے بچے گا)  
 لَنْ تَدْرِي (تو ہرگز نہیں دیکھے گا) اَنْ تَصُوْمُوا  
 خَيْرٌ لَّكُمْ (روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے  
 وَاِنْ يَتَفَرَّقَا (اگر وہ دونوں جدا ہو گئے۔ مضارع  
 کا ع کلمہ بعض لفظوں میں مفتوح یا مضموم یا کسور ہوتا  
 ہے جیسے يَعْلَمُ - يَضْرِبُ - يَقْتُلُ۔ اس بات  
 کی واقفیت علم لغت سے ہوتی ہے۔ لَمْ لَمَّا مضارع  
 کے شروع میں آئیں۔ تو معنی ماضی منفی کے ہو جاتے  
 ہیں۔ اور آخر سے پیش اور نون اعرابی اور حرف علت  
 گر جاتا ہے جیسے لَمْ يَسْمَعِ (اس نے نہیں سنا  
 لَمَّا يَسْمَعِ (اس نے ابھی تک نہیں سنا۔ اَنْ لَنْ  
 گئی اذکار کے آئیے مضارع کے آخر زبر ہوتی ہے۔ اور  
 نون اعرابی گر جاتے ہیں۔

### فعل لازم و متعدی جہول

جو فعل صرف فاعل چاہے۔ وہ لازم کہلاتا ہے  
 جیسے قَعَدَ مَحْمُودٌ دَمْحُودٌ بِبَيْطَاءٍ جو فاعل کے علاوہ  
 مفعول کو چاہے وہ متعدی ہوتا ہے۔ جیسے سَمِعَ  
 مَحْمُودٌ الْقُرْآنَ (محمود نے قرآن کو سنا) جس  
 فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو وہ معروف ہے اور جس  
 فعل کی نسبت فاعل سے نہ ہو وہ مجہول ہے فعل جہول  
 صرف متعدی فعلوں سے بنتا ہے۔

ماضی معروف کے آخری حرف سے پہلے حرف  
 کے نیچے زبردینے اور اس سے پہلے تمام متحرک  
 حروف کو ضمہ دینے سے ماضی جہول بنتا ہے اور  
 اگر پیش کے بعد الف ہو تو واو ساکن بدل جاتا ہے

و  
 و  
 و

سے پہلے) مفتوح ہوتا ہے۔ (جیسے تَدْعَا تَدْعَى سے  
 يَتَقَاتِلُ) باقی سب میں مع چار حرفی کے ماقبل آخر کسور  
 ہوتا ہے۔ جیسے اَكْرَمَ - دَخَرَ ج سے يَكْرِهُمُ يَدْخِرُهُمْ  
 ماقبل کے مضارع میں ع کلمہ کسور ہو تو واو و الف  
 کلمہ سے گر جاتی ہے۔ جیسے يُوْعِدُ يُوْعِدُ۔  
 اجوف کے ع کلمہ کی حرکت ف کلمہ کو آجاتی ہے۔ اور  
 حرف علت ساکن ہو جانا ہے۔ اور زبر کے بعد الف سے  
 بدل جاتا ہے جیسے يَقُولُ - يَخُوفُ سے يَقُولُ  
 يَخَافُ۔ جمع مؤنث کے صیغوں سے ع کلمہ گر جاتا ہے  
 جیسے يَقُولْنَ سے يَقُلْنَ۔ ناقص میں لام کلمہ ساکن ہوتا  
 ہے جیسے يَزُحِي سے يَزُحِي۔ اور فتح کے بعد الف  
 سے بدل جاتا ہے۔ جیسے يَرْضَى سے يَرْضَى۔ جمع  
 مذکر کے اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں سے گر جاتا ہے  
 مذکر کے صیغہ میں ع کلمہ مضموم اور مؤنث حاضر میں کسور  
 ہوتا ہے جیسے يَزْمِيُونَ - تَدْعُوْنَ سے يَوْمُونَ  
 تَدْعِيْنَ۔ مضارع میں سولے جمع مؤنث کے صیغوں  
 کے باقی میں ع کلمہ کی حرکت ف کلمہ کو دیکر ع و لام کلمہ کو  
 ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے يَمْدُدُ سے يَمْدُدُ - رَأَى کے  
 مضارع اور امر سے ع کلمہ گر کر يَوِي اور س۔ رہ جاتا ہے  
 اور باب افعال کی ماضی مضارع۔ امرینوں گردانوں کے  
 گر جاتا ہے جیسے أَدَى - يُوِي - أَدَى مضارع کے  
 شروع میں لام مفتوح یا ماکہ لگانے سے حال کے  
 معنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے كَيْعَلَمُ (وہ جانتا ہے) مَا  
 يَعْلَمُ (وہ نہیں جانتا)۔ سَسَوْفُ - لَنْ - اَنْ  
 اِنْ کے لگانے سے استقبال کے۔ جیسے سَبَدْخُلُ (وہ

# اسمان علم و حکمت کے دو خشنود و تابندہ سیارے

الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْاَبْدَانِ وَعِلْمُ الْاَدْيَانِ  
گفت پیغمبر کہ بزدان مجید - از پیغمبر فرد و در مان آفرید  
تمام اہل اسلام کا طبی صنعتی ادبی و خلافتی تاریخی صنعتی و نوخی مضامین

مجموعہ تجلہ شہریہ  
طیب پاکستان

زیر نگرانی ابوالفتح حضرت علامہ پروفیسر عبدالقادر نانا ایم اے (علیگ)  
مولوی فاضل پنجاب - فاضل الہیہ کلکتہ - ریٹائرڈ ایجوکیشنل ڈیپارٹمنٹ (بنگلہ)  
پرچہ کے بعض مضامین بطور نمونہ (۱) بیسویں صدی کے طبیب اعظم کے  
خود نوشتہ سوانح حیات (۲) نسخہ مرہم عیسیٰ مرہم رسل مرہم حواریین  
مرہم سلیمہ کے حصول کی عجیب و غریب و عجیب داستان (۳) طبیب اعظم  
کا طبی فیضان - چوٹی کے طبی مجربات (۴) قرآن کریم میں مذکور ادویہ  
موتی - مرجان - کافور - کنوری شہدہ - روغن زینون - زنجبیل - زقوم  
وغیرہ کے طبی خواص (۵) نادر و نایاب مفردات - جان آدم - رقبابوٹی  
بندلی - چھوٹی چندن - سنسوی - سورن گنڈ - سورابیح - شوکا کھانٹا  
کے خواص (۶) معمولات مطب مولانا عبدالوہاب عمر بن حضرت طبیب اعظم  
(۷) دلائل حقہ بر رد ایل حقہ (۸) صنعت و حرفت کے خفیہ راز  
(۹) حفاظت ریش (۱۰) کلمات الحکمت (۱۱) مجربات ویدک معمولات  
مطب (۱۲) نگران رسالہ کے عمر کھبر کے طبی تجارب (۱۳) سوالات و جوابات

الْمَرْأَةُ نِصْفُ الْاِنْسَانِ يَافِيهَا فِطْرَتُهُمْ بَيْتُهُمْ حَقِيقَتِي تَرْجَمَانِ  
ہاؤں بہنو بیویو - دنیا کی زینت تم سے ہے۔  
مسلم خواتین پاکستان کا اسلامی علمی ادبی طبی صنعتی تاریخی خلافتی  
مضامین پر مشتمل مجموعہ

اپنا ماہوار رسالہ  
ہمد و تسوا

(۱) زیروادرت - خواہر محترمہ ہر خاتون پر حکیم خواجہ عبدالرحمن صاحب ایم اے نشتی فاضل  
(۲) لطف عزیزہ "فاطمہ" نشتی فاضل باوبی فاضل  
آنر زان پنجابی  
فہرست میں بطور نمونہ (۱) میرا ہمد و تسوا پیغام اور مخلصانہ پیشکش  
(۲) فقہ اسلامی متعلق مسائل زنانہ مسلسل (۳) حفظان صحت  
کے اصول - ڈاکٹر ہوا - ڈاکٹر یانی - ڈاکٹر آفتاب - ڈاکٹر وزدش  
ڈاکٹر فاقہ کی خدمات (۳) اسلام عورتوں کو کیا بنا نا چاہتا  
ہے (۴) الاذہار لذوات الخدم اور طہنی والیوں کے  
لئے پھول (۵) قرآن کریم میں طبقہ اناس کے متعلق ارشادات -  
(۶) احادیث میں صنف نازک کے متعلق احکام (۷) گھریلو  
اخراجات کو کم کرنے کی موثر تجاویز (۸) معالجات امراض  
نسوان و بچکان (۹) ترمیم اطفال (۱۰) جسم کو سلام  
پہرہ کو تروتازہ - بالوں کو سیاہ رکھنے کی طبی ترکیب (۱۱) کھانے  
پکانے اور سینے پر رونے کی معلومات (۱۲) سوالات و جوابات

سالانہ چند پانچ پانچ روپی رسالے اگر ایک پڑھ لے بعد پسند ہو تو واپس بھیج کر اپنا چند وصول کر لیں فی رسالہ (۱۸)  
ملحق حکیم محمد عبداللطیف ہمد و تسوا "طیب نوری" منجر دواخانہ لطیفی و مطب نوری من بازار گوالمنڈی

لے ناضل علوم عربی و فارسی و سابق ممبر سینٹ و سنڈریکیٹ و لکچرار تاریخ اسلام کلکتہ یونیورسٹی - (۲۰۰)



عَوْدَ عَيْنٍ سے اَسْوَدَ (کالا)، سَوْدَاءَ (کالی)، اَعْوَدُ (کالا)، عَوْرَاءَ (کافی)، اَعْبَنُ (فراخ آنکھ والا)، عَيْنَاءُ (فراخ آنکھ والی)، ایسے افعال جو بھوک- پیاس یا سیراب ہونے پر ولالت کریں۔ اُن سے مذکر کا صیغہ فَعْلَانِ اور مؤنث کا فَعْلَانِ کے وزن پر آتا ہے جیسے عَرِثٌ (وہ بھوکا ہوا)، عَطِشٌ (وہ پیاسا ہوا)، شَبِيعٌ (وہ سیر ہوا)، رَوِي (وہ سیراب ہوا) سے عَرِثَانٌ (بھوکا)، عَرِثِي (بھوکی)، عَطِشَانٌ (پیاسا)، عَطِشِي (پیاسی)، شَبِيعَانٌ (سیر مرد)، شَبِيعِي (سیر عورت)، رَوِيَانٌ (سیراب مرد)، رَوِيِي (سیراب عورت)، غیر ثلاثی سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے مَعْوَجٌ (دیرھا) مُطْمَئِنٌّ (تسکین یافتہ)

فاعل کے کام کی زیادتی جس لفظ سے ظاہر کی جائے اس کو مبالغہ کہتے ہیں جیسے عَلَّامٌ (بہت جاننے والا) یہ ثلاثی سے بنتا ہے اور اس کے مشہور ترین ۱۵ وزن ہیں عَلَّامٌ (بہت جاننے والا)، فَهَامَةٌ (بہت سمجھنے والا)، مِقْدَامٌ (بہت آگے بڑھنے والا)، صِدِّيقٌ (بہت سناٹا)، مِقْطِيبٌ (بہت خوشبودار)، ضَبْعَةٌ (بہت لیٹنے والا)، شَبْوَةٌ (بہت حرص کرنے والا)، دَجِيمٌ (بہت ہزانی کرنے والا)، وَدُودٌ (بہت پیار کرنے والا)، دَاوِيَةٌ (بہت روایت کرنے والا)، غَفْلٌ (بہت عنافل)، فَوَوقَةٌ (بہت جدا کرنے والا)، مَشَعَرٌ (بہت آگ بھڑکانے والا)، فَاوُوقٌ (بہت فرق کرنے والا)، مَكْبَرٌ (بہت بڑا)، ثلاثی کے علاوہ اَفْعَلٌ سے چند مبالغہ کے لفظ آئے ہیں۔ جیسے اَعْطَى۔ اَهَانَ

آخر کسور ہوتا ہے جیسے يُقَاتِلُ سے مُقَاتِلٌ (لڑنے والا) یہ چند الفاظ مَاجِلٌ (مختر زود)، مَاجِلٌ (دیکھیں)، يَبَافِعٌ (جو ان)، عَاشِبٌ (گھوسی)، خلاصہ قاعدہ اَفْعَلٌ سے آئے ہیں۔

اسم مفعول اس کی صفت ہے جس پر فعل واقع ہو۔ اس کا وزن ثلاثی سے مَفْعُولٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے سَمِعَ سے مَسْمُوعٌ (سنا ہوا)، اَجْوَفٌ (واوی سے مَقُولٌ پر جیسے قَالَ سے مَقُولٌ (کہا ہوا)، اَجْوَفٌ یا ئی سے مَفِيْلٌ جیسے بَاعَ سے مَبِيْعٌ۔ ناقص وادی سے مَفْعُوْلٌ جیسے دَعَا سے مَدْعُوٌّ (بلا یا ہوا)، ناقص یا ئی سے مَفْحِيٌّ جیسے رَفَى سے مَرْحِيٌّ (دیر مارا ہوا) غیر ثلاثی سے مضارع جمول کے وزن پر ہوتا ہے۔ البتہ علامت مضارع کی جگہ ميم مضموم یا ایا جاتا ہے جیسے يَصْرَفُ سے مَصْرَفٌ یہ چند الفاظ مَحْبُوبٌ۔ مَحْنُونٌ۔ مَحْمُومٌ۔ مَزْكُومٌ مَسْلُومٌ باب افعال کے خلاف قیاس ہیں۔

یہ صفت فعل لازم سے بنتی ہے اور اپنے موصوف میں بلا لحاظ زمانہ کے ہر وقت پائی جاتی ہے جیسے شَجَاعٌ (دلیہ)، صَعْبٌ (سخت)، شَرِيْفٌ (بھلا آدمی)، جَنْبٌ (الک)، صَفْرٌ (خالی) اس کے بنانے کا خاص قاعدہ نہیں۔ ایسا لفظ جو صفت کے معنی ہے۔ اور وہ معنی موصوف میں ہر وقت پائے جائیں۔ اس کو صفت مشبہ سمجھو۔ جو افعال رنگ یا عیب یا حلیہ کے معنی رکھتے ہوں اُن سے مذکر کا صیغہ اَفْعَلٌ اور مؤنث کا فَعْلَاءُ پر آتا ہے جیسے سَوَدُ

فعل بھی نہ ہوں۔ یئس (وہ نا امید ہوا۔ مات (وہ مرا) مَا عَلِمَ اس نے نہ جانا، کان (تھا) سَوَدَ عَرَبِج (وہ لنگڑا ہوا) سے نہیں بنے گا۔ کیونکہ پہلا فعل متصرف نہیں۔ دوسرا کمی بیشی قبول نہیں کرتا۔ تیسرا منفی ہے۔ چوتھا غیر تام۔ اور پانچواں رنگ و عیب کے معنی رکھتا ہے۔ پانچویں قسم کے ایسے فعل ہوں جن سے صفت مشبہ أَفْعَلُ کے وزن پہ نہ ہو بلکہ کسی اور وزن پر ہو تو ان سے اسم تفصیل آجاتا ہے۔ جیسے قَبِيحٌ سے کہ اس کا صفت مشبہ قَبِيحٌ ہے۔ أَقْبَحُ اسم تفصیل آتا ہے۔ خَيْرٌ - شَرٌّ - اصل میں آخِيَرٌ - أَشْرَبٌ - دو لوگوں کے ہمزے کثرت استعمال کی وجہ سے ترک کئے گئے ہیں کبھی کبھی اپنے اپنے اصل پر آخِيَرٌ أَشْرَبٌ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ ثلاثی سے علاوہ اور نیز عیب، رنگ، حلیہ والے افعال سے اسم تفصیل بنانا مقصود ہو تو أَشَدُّ یا أَذْيَدُ یا أَكْثَرُ کے بعد ممنوع فعاو کے مصدر منصوب کو رکھنے سے بے گناہ جیسے خَالِدٌ أَشَدُّ أَكْرَامًا یا حَمْدَةٌ وَغَيْرُهُ۔

جس جگہ کام ہو۔ اس کا نام اسم مکان ہے

اور جس وقت واقع ہو اس کا نام اسم زمان ہے

اسم مکان اور زمانہ **مضارع** اور **مفتوح العین** اور

مضموم العین مضارع سے مَفْعَلٌ کے وزن

پر آتا ہے۔ جیسے يَنْصُرُ اور يَسْمَعُ

يَسْعَى وَيَرْحَى سے مَنْصَرٌ وَشَمَعٌ

وَمَسَعَى وَمَرْحَى مضارع مکسور العین اور مثال

سے مَفْعَلٌ کے وزن پر جیسے يَجْلِسُ - يَجْعَدُ وَ

أَحْسَنُ - أَثْلَفُ - أَثْلَقُ - أَخْلَفُ - أَشْمَعُ  
 أَنْذَرُ - أَذْهَقُ - أَذْرَكُ سے مِعْطَاءٌ (بہت بخشنے والا) مِهْوَانٌ (بہت ذلیل کرنے والا) مِحْسَانٌ (بہت احسان کرنے والا) مِثْلَافٌ (بہت تلف کرنے والا) مِثْلَاقٌ (بہت خرچ کرنے والا) مِثْلَافٌ - ذَرَّكَ مبالغہ میں مذکر و مؤنث کا کوئی فرق نہیں لیکن جب فِعْلٌ فاعِلٌ کے معنی میں ہو۔ تو اس وقت فرق کیا جاتا ہے جیسے رَجُلٌ نَصِيْرٌ (بہت مدد کرنے والا مرد) ذَيْبٌ نَصِيْرَةٌ (ذیب بہت مدد کرنے والی) کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے جیسے يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ تَمِيْمَةٌ اور اگر فِعْلٌ مَفْعُولٌ کے معنی میں ہو تو اس وقت اگر مؤنث معروف ہو۔ تو مذکر مؤنث میں کوئی تیز نہیں ہوتی جیسے ذَيْدٌ قَتِيْلٌ - ذَيْبٌ قَتِيْلٌ لیکن کرہ کی حالت میں تیز ہوتی ہے۔ جیسے رَجُلٌ حَبِيْبٌ - امْرَأَةٌ حَبِيْبَةٌ۔

اس صفت کو اسم تفصیل کہتے ہیں جس سے

ایک چیز کسی امر میں دوسری سے بڑھ کر ظاہر

کی جائے جیسے الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنْ كَلِّ

شَيْءٍ وَعِلْمٌ ہر چیز سے زیادہ شرف والا ہے)

ذَيْدٌ أَبْخَلُ مِنْ خَالِدٍ - زيد خالید سے زیادہ بخل

ہے۔ اس کا صیغہ مذکر کے لئے أَفْعَلٌ اور مؤنث

کے لئے فُعْلَى کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے بنانے میں

ذیل کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے (۱) فِعْلٌ صرف ثلاثی

متصرف (جس سے ماضی - مضارع - اور کے صیغے استعمال

ہوتے ہوں) ہو۔ اور کمی زیادتی کے قابل ہو۔ فعل منفی

نہ ہو۔ غیر تام بھی نہ ہو۔ حلیہ - عیب - رنگ کے معنوں کے

اُن سے مصدر فِعَالَةٌ اکثر آتا ہے۔ جیسے زِدَاعَةٌ تِبْرَانَةٌ  
 بعض الفاظ اسی وزن کے ف کلمہ مفتوح سے بھی آئے ہیں  
 وَكَالَةٌ۔ وَكَالِيَةٌ۔ ایسے الفاظ جو امتناع پر ولالت کریں  
 ان کا مصدر بھی اکثر فِعَالٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے اِبَاءٌ  
 دَانِكَارُ كِرْنَاءُ، شَوَاكِدُ (نفرت کرنا)، جِمَاحٌ (نافرمان ہونا)،  
 حرکت اور اضطراب پر ولالت کرنے والے فعلوں کے مصدر  
 فَعْلَانٌ کے وزن پر آتے ہیں۔ جیسے عَلَيَانٌ (جوش  
 کھانا)، خَفْقَانٌ (دل دھڑکنا)، جَوْلَانٌ (پھرنا)،  
 بیماری پر ولالت کرنے والے فعلوں کے مصدر فَعَالٌ  
 کے وزن پر جیسے صَدَاعٌ (سر درد ہونا)، سُعَالٌ (کھانسا)،  
 رنگ کے معنی دینے والوں سے فُعْلَةٌ پر جیسے حُمْرَةٌ  
 (سرخ ہونا)، سیر و سیاحت کے معنی والوں سے فَعِيلٌ  
 کے وزن پر جیسے رَحِيلٌ (کوچ کرنا)، آواز پر ولالت  
 کرنے والوں سے فَعَالٌ اور فَعِيلٌ کے وزن پر جیسے  
 نَبَاحٌ (رکتے کا بھونکا)، هَدِيرٌ (کبوتر کی نغیر کرنا)  
 فَعْلٌ کے وزن کی ماضی لازم کا مصدر فَعُولٌ پر آتا ہے  
 جیسے دَخَلَ سے دُخُولٌ۔ فَعِلٌ لازم کا فَعْلٌ پر  
 جیسے فَرَحٌ سے فَرَحٌ۔ مصدر متعدی دونوں سے  
 فَعْلٌ کے وزن پر جیسے ضَرَبَ ضَرْبًا۔ جَهَلَ  
 جَهْلًا۔ فَعْلٌ کا مصدر فَعُولَةٌ یا فَعَالَةٌ کے وزن  
 پر جیسے سَهْوَلَةٌ۔ فَصَاحَةٌ۔ ثلاثی کے ہر فعل کے مصدر  
 ماضی مَفْعَلٌ کے وزن پر بنا یا جاتا ہے (صرف سات  
 لفظ حجی مَزَجِعٌ۔ مَصْبِرٌ۔ مَشِيْبٌ۔ مَزْفِقٌ  
 مَقْبِلٌ۔ اس قاعدہ کے خلاف ہیں) جیسے مَقْتَلٌ  
 مَنَصْرٌ۔ مَضْرَبٌ۔ مَسْمَعٌ۔ مَرْحَى۔ مثالِ اوای

يُوَجِّلُ سے فَجْلِسٌ۔ مَوْعِدٌ و مَوْجِلٌ۔  
 ذیل کے ۱۱ وزن جن کا مضارع مضموم العین ہے  
 خلاف قاعدہ اہل زبان ع کلمے کے نیچے زیر دیتے ہیں  
 مَشَجِدٌ۔ مَزْفِقٌ۔ مَفْرِقٌ۔ مَشِيْكٌ۔ مَشِيْبٌ  
 مَسْقَطٌ مَشْرِقٌ۔ مَطْلِعٌ۔ مَغْرِبٌ۔ مَجْزَمٌ  
 غیر ثلاثی سے مصدر بھی کی طرح بنائے جاتے ہیں۔ جیسے  
 يَكْرِمُ سے مَكْرِمَةٌ۔ مَفْعَلَةٌ کا وزن کسی چیز کی کثرت  
 پر ولالت کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے مَا بَلَّةٌ (زیادہ  
 اونٹوں کی جگہ) مَا سَدَةٌ (زیادہ شیروں کی جگہ)  
 مَا ذَنَّةٌ (اذان کی جگہ) مَقْبِرَةٌ۔ مکانور کے نام  
 ہیں۔ اسم ظرف نہیں۔

اسم آلہ کام کرنے کے ذریعے کو کہتے ہیں  
 اس کے وزن میں ہیں۔ مِفْعَلٌ جیسے مِبْدِيٌّ  
 (درستی) مِفْعَالٌ جیسے مِفْتَاخٌ (چابی)  
 مِفْعَلَةٌ۔ جیسے مِرْوَحَةٌ (پنکھا) مَنخَلٌ (چھلنی)  
 مَدْمَسٌ (تیل دانی) مَكْحَلَةٌ (سرمد دانی) مَدْفٌ  
 (موگری) مَسْعَطٌ (سوار دانی) مَنَادَةٌ (دیوٹ۔ بٹری)  
 مَشْطٌ (لنگھی) یہ الفاظ خلاف قاعدہ آئے ہیں۔ ایسے وزن  
 جو مشتق نہیں۔ اُن کے مختلف اوزان ہیں جیسے فَاَسَسٌ  
 (کھارسی)۔ قَدْوَمٌ (تیشہ) وغیرہ

ثلاثی کے مصدر کثرت سے ہیں۔ ان کے بنانے  
 کا کوئی خاص قاعدہ نہیں۔ اہل زبان کے استعمال  
 اور محاورات سے ہی ان کا علم ہو سکتا ہے۔ اس لئے  
 ان میں سے اکثر اپنے فعل کے ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں لیکن  
 چند مصدر قیاسی یہ ہیں۔ جو افعال حرفہ اور پیشہ کے ہیں۔

سے مفعول کے وزن پر جیسے مَوْرِدٌ۔ مَوْعِدٌ۔ یوم ثلاثی سے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے۔ مضارع کی ہی کی جگہ میم مضموم ہوتا ہے جیسے یُکْرَمُ سے مَكْرَمٌ فَعُولٌ کے وزن پر صرف پانچ مصدر لائے ہیں۔ وَضُوْعٌ (وضو کرنا)، طَهُوْرٌ (پاک ہونا)، وَكُوْعٌ (حریص ہونا)، قَبُوْلٌ (قبول کرنا)، وَقُوْدٌ (ابندھن ڈالنا)

فعل کے ایک بار ہونے پر دلالت کرنے والا مصدر فَعْلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے أَخَذْتُ أَخْذَةً (میں نے ایک دفعہ لیا) ثلاثی سے علاوہ مصدر کے آخری زیادہ کرنے سے جیسے اِنْتَفَتِ اِنْتِفَاتَةً۔ مصدر کے

آخرت ہو۔ تو صفت بیان کر کے فرق کیا جاتا ہے جیسے ضَرَبْتُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (اُس نے ایک بار مارا) صَارَعَ مَصَادَعَةً وَاحِدَةً۔ فعل کی طرز یا نوع بتانے والا مصدر فَعْلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے أَكَلَ اِكْلَةً اِمْتِكَبَرٌ

مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ بعض اسم مؤنث حقیقی ہیں۔ جن کے مقابل تر جاندار ہوتا ہے جیسے اِمْرَاةٌ (عورت)، شَاةٌ (بکری)، مَرِيْمٌ (نام عورت) اور بعض اسم ایسے ہیں جن کو

اہل زبان مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ان کا زکوئی نہیں ہوتا۔ ایسے اسم مؤنث غیر حقیقی کہلانے ہیں جیسے اَرْضٌ (زمین)، عَيْنٌ (چشمہ) مؤنث کی تین علامات ہیں (۱) ة جیسے قَاتِلَةٌ (قتل کرنے والی)، (۲) الف مفضوہہ جیسے ذَكَوِيٌّ۔ كَبْرِيٌّ۔ دُنْيَا (۳) الف ممدوہہ جیسے

حَمْرَاءٌ۔ عَاشُوْرَاءٌ۔ اگر مذکورہ بالا علامتیں مذکر کے علم میں ہوں جیسے طَلْعَةٌ۔ خَضْرَاءٌ۔ اَرْطَبِيٌّ (آدمیوں کے نام) تو ایسے علموں کو مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ ان کے لئے فعلوں کے صیغے اور صفات مذکر کے ہی ہونگے۔ مؤنث غیر حقیقی کے لئے کوئی خاص قاعدہ نہیں۔ اہل زبان کے محاورات پر ہی دار و مدار ہے۔ صرف ذیل میں چند: عِدْكَلِيَّةٌ درج ہیں۔

بدن کے اکثر جفت اعضاء جیسے اُذُنٌ (کان) عَيْنٌ (آنکھ) وغیرہ صرف صُدْعٌ (کنپٹی) مَرْفِقٌ (گھٹنی) حَاجِبَةٌ (ابرو) خُدٌّ (رخسارہ) كَحْيٌ (جہرا) مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ دوزخ کے نام اور شراب اور ہوا کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جمع مؤنث سالم کے سوا تمام جمعیں بھی ذیل کے الفاظ مذکر مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں اِبْطٌ (بغل) اِذَاؤٌ۔ حَالٌ۔ رُقَاقٌ۔ حَانُوْتُ۔ خَمْرٌ۔ دِرْعٌ۔ دَلْوٌ۔ رَوْحٌ۔ سَبِيْلٌ۔ سَرِيٌّ مَسَاءٌ۔ سُوْقٌ مَسَاعٌ۔ ضَحْيٌ۔ طَرَسٌ۔ طَرِيْقٌ۔ عَنكَبُوْتُ فِرْدَوْسٌ۔ فَرَسٌ۔ فَهْرٌ۔ قَدْرٌ۔ قَفٌّ۔ قَمِيصٌ كَيْدٌ۔ لِسَانٌ۔ مِسْكٌ۔ مِلْحٌ۔ حروف تہجی کے نام شہروں کے نام۔ بتاویل موضع مذکر۔ تاویل بفعہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔

دو چیزوں پر دلالت کرنے والے لفظ

کو مشنی یا تشنیہ کہتے ہیں۔ مفرد اسم کے

آخرف اور نون کسور یا ہی اور نون

کسور لگانے سے بنتا ہے۔ جیسے كِتَابٌ (ایک کتاب)



کِتَابَانِ يَا كِتَابَيْنِ۔ اسم مقصورہ جس کے آخر الف ہو) کا الف چوتھے درجے یا زائد پر ہو۔ تو وہ تی سے بدل جاتا ہے۔ اگر تیسری جگہ ہو تو ہی سے بدلا ہوا ہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ سے بدلا ہوا واؤ۔ جیسے دَعْوَى مُصْطَفَى۔ قَتَى۔ عَصَا سے دَعْوِيَانِ۔ مُصْطَفِيَانِ قَتِيَانِ۔ عَصَوَانِ۔ اسم ممدود (جس کے آخر الف کے بعد ہمزہ ہو) اگر اس کا ہمزہ مؤنث کے لئے ہو۔ اور الف سے پہلے واؤ نہ ہو تو اس کو واؤ سے بدلا جاتا ہے جیسے صَخْرَاءُ سے صَخْرَاوَانِ۔ اگر الف سے پہلے واؤ ہو تو ہمزہ قائم رہتا ہے جیسے عَشْوَاءُ (اندھی اونٹنی) سے عَشْوَاءُ اِدْم۔ اگر ممدود کا ہمزہ اصلی ہو تو برقرار رہتا ہے جیسے وَضَاءُ (ستھرا) سے وَضَاءَانِ اگر ہمزہ مؤنث کا یا اصلی نہ ہو۔ بلکہ الحاق کے لئے ہو۔ یا واؤ۔ تی سے بدلا ہوا ہو۔ اس میں مذکورہ دونوں باتیں جائز ہیں جیسے عَلْبَاءُ (گرون کا پٹھا) (لمحق بقرطاس) سَمَاءُ (مبیل از واؤ) بِنَاءُ (مبیل از ی) سے عَلْبَاوَانِ يَا عَلْبَاءَانِ۔ سَمَاوَانِ يَا سَمَاءَانِ۔ يَابِتْيَانِ يَابِتْيَانِ۔ اسم منقوص (جس کے آخری ماقبل مکسور ہو) کی حذف شدہ 'ی' واپس آجاتی ہے جیسے قَاصٍ سے قَاصِيَانِ + مرکب اضافی کے پہلے جز کا تشنیہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے عَيْدَ الْمَلِكِ کرب اہنوزی میں ذوا نذر اور ذَوَاتَا مَوْنِثِ کے لئے شروع میں بڑھانے سے تشنیہ بنتا ہے جیسے ذَوَا مَعْدِي كِرْبَ لَفْظُ بَعْضٍ۔ اَجْمَعُ۔ جَمْعَاءُ۔ كَلٌّ۔ شَرَّيْبُ۔ دِيَارٌ۔ اَحَدٌ۔ اسم تفضیل جو درجہ کے ساتھ استعمال

اور اسماء عدد کا تشنیہ نہیں ہوتا۔

جمع وہ لفظ ہے۔ جو تعداد کے لحاظ سے دو

سے زائد پر استعمال ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں (۱) جمع مذکر سالم (۲) جمع مؤنث سالم (۳) جمع مکرر۔ جمع مذکر سالم۔ مفرد کے آخِرُونَ يائين لگانے سے بنتی ہے جیسے مُسْلِمٌ سے مُسْلِمُونَ مُسْلِمِيْنَ۔ اسم منقوص کی 'ی' حذف کر کے جمع میں واؤ سے پہلا حرف مضموم اور 'ی' سے پہلا مکسور ہوتا ہے جیسے هَلْدِي سے هَادُونَ۔ هَاوِيْنَ۔ اسم مقصور کا الف حذف ہو کر 'و' 'ی' سے پہلا حرف مفتوح ہوتا ہے جیسے مُصْطَفَى سے مُصْطَفُونَ۔ مُصْطَفِيْنَ۔ یہ جمع صفت مذکر عاقل کے ایسے علم کی ہوتی ہے جو مرکب نہ ہو اور اس کا آخرت سے خالی ہو۔ یا مذکر عاقل کی ایسی صفت کی ہوتی ہے۔ جس کے مؤنث کے صیغہ کے آخرت، لاحق ہو۔ یا تفصیل کے معنی دے۔ اس قاعدہ کے رو سے حَمْدَةٌ عَلَامَةٌ۔ سَيِّبُوبِيَه۔ سَكْرَانُ اَحْمَدُ صَبُورٌ کی جمع اس وزن پر نہیں آسکتی۔

جمع مؤنث سالم۔ مفرد کے آخرت 'ات' زیادہ کرنے سے بنتی ہے جیسے اَزَيْتَبٌ سے اَزَيْتَبَاتٌ اگر مفرد کے آخرت 'ت' ہو۔ تو جمع بناتے وقت اس کو گرا دو جیسے شَجَرَةٌ سے شَجَوَاتٌ۔ الف ممدود اور مکسورہ کے تغیرات تشنیہ کی طرح ہوتے ہیں جیسے خَبَلِيٌّ۔ رَحِيٌّ۔ عَصَا سے جُبَلِيَّاتٍ۔ رَحِيَّاتٍ عَصَوَاتٍ اور صَخْرَاءُ سے صَخْرَاوَاتٌ اور عَلْبَاءُ سے عَلْبَاوَاتٍ يَا عَلْبَاءَاتِيَه۔ فَعْلَةٌ

صحیح العین کا 'ع' کلمہ مفتوح ہو جاتا ہے جیسے تَمْرَةٌ  
 وَحَمَةٌ سے تَمْرَاتٌ. رَحْمَاتٌ. فُعْلَانَةٌ کے 'ع'  
 کو مفتوح اور ساکن پڑنا اور 'ف' کی حرکت دینا تینوں  
 طرح جائز ہے جیسے کِسْرَةٌ سے کِسْرَاتٌ اور حُجْرَةٌ  
 سے حُجْرَاتٌ. فُعْلَانَةٌ ناقص کا صحیح کی طرح ہے جیسے  
 دَمِيَّةٌ سے دَمِيَّاتٌ رُقُوعٌ رُقُوعَاتٌ. فُعْلَانَةٌ اِنْفَاءً  
 ہو تو اس کا 'ع' کلمہ ساکن ہی رہتا ہے جیسے جَوَادَةٌ  
 سے جَوَادَاتٌ. بَيْعَةٌ سے بَيْعَاتٌ. یہ جمع مؤنث  
 کے علم اور اس اسم سے جس کے آخرت ہو یا الف  
 ممدودہ یا مقصورہ ہو یا غیر عاقل کی صفت یا ایسے  
 خماسی اسم سے بنتی ہے جس کی جمع تکسیر اہل زبان ہے  
 نہ سنی گئی ہو۔ پس مَوِيَّةٌ. جَمِيْلَةٌ. حَبْلِيٌّ جَحْرَاءُ  
 دَدِيْهِمْ. شَامِيخٌ. حَمَامٌ کی جگہ مَوِيَّاتٌ  
 جَمِيْلَاتٌ. حَبْلِيَّاتٌ. صَحْرَاتٌ. دَدِيْهِمَا  
 شَامِيخَاتٌ. حَمَامَاتٌ ہے۔ ان کے علاوہ اہل زبان  
 کے محاورہ کے ماتحت ہیں جیسے سَهَوَاتٌ سَجَلَاتٌ  
 اَمَّهَاتٌ۔

جمع مکسر وہ جمع ہے جس کے بنانے میں مفرد کی  
 حالت قائم نہ ہے۔ اسکی دو قسمیں ہیں (۱) جمع قلت  
 جس کا استعمال دس تک ہوتا ہے (۲) جمع کثرت  
 جس کا استعمال تین سے لیکر دس اور اس سے زائد پر  
 ہوتا ہے۔ جمع قلت کے چار وزن ہیں (۱) اَفْعَلٌ جیسے  
 فُلْسٌ (پیسہ) سے اَفْلَسٌ (۲) اَفْعَالٌ جیسے ثَوْبٌ  
 (کپڑا) عُنُقٌ (گردن) سے اَلْكَوَابُ. اَعْنَاقٌ (۳)  
 اَفْعَلَةٌ جیسے طَعَامٌ سے اَطْعَمَةٌ (۴) فِعْلَةٌ

جیسے فَتَى سے فِتْيَةٌ۔

جمع کثرت کے اوزان یہ ہیں۔ فُعْلٌ جیسے اَخْمَرٌ

فُعْلٌ جیسے حِمَارٌ. رَغِيْفٌ. عَمُوْدٌ سے حَمْرٌ

رَغِيْفٌ. عَمُوْدٌ. فِعَالٌ جیسے زَنْدٌ. جَبَلٌ قَصْعَةٌ

كِرِيْمٌ وَكِرِيْمَةٌ. عَطَشِيٌّ (پیاپی) سے زِنَادٌ

جِبَالٌ. قِصَاعٌ. كِرَامٌ. عِطَاشٌ. فِعْوَلٌ جیسے

فَلْسٌ. حِمْلٌ. قُرْعٌ. ذَكَرٌ. بَدْرَةٌ سے فُلُوْسٌ

حَمُوْلٌ. قُرُوْعٌ. ذُكُوْرٌ. بُدُوْرٌ. فُعْلَانٌ جیسے

رَغِيْفٌ. رَاكِبٌ. اَخْمَرٌ. شَجَاعٌ سے دُعْفَانٌ

رُكْبَانٌ. حُمْرَانٌ. شُجْعَانٌ. فِعْلَانٌ جیسے

سَلِيْعٌ. شَجَاعٌ. صُرْدٌ. تَابِجٌ. حَمُوْدٌ سے سِرْمَانٌ

شُجْعَانٌ. صُرْدَانٌ. تَيْجَانٌ. عَيْدَانٌ. فِعْلِيٌّ

جیسے جَرِيْعٌ سے جَرِيْحٌ. فِعْلِيٌّ جیسے حَجَلٌ

ظَرْبَانٌ سے حَجَلِيٌّ. ظَرْبٌ. فِعْلَانٌ جیسے جَبَانٌ

شُجَاعٌ. شَرِيْفٌ. شَاعِرٌ سے جِيْنَاءٌ. شُجْعَانٌ

شُرْفَاءٌ. شُعْرَاءٌ. اَفْعَلَانٌ جیسے عَنُقٌ حَبِيْبٌ

سے اَعْنِيَاءٌ. اَحْبَاءٌ. فِعَالِيٌّ جیسے فِتْوَى

ذِفْرِيٌّ. سَعْدِيٌّ. حَوْرِيٌّ. حَشِيٌّ. سَكْرَانٌ

سے فِتَاوِيٌّ. ذِفَارِيٌّ. سَعَادِيٌّ. حَوْرِيٌّ. فِعْلَانِيٌّ

سَكَارِيٌّ. فِعَالِيٌّ جیسے اَسِيْبَةٌ. سَمْرَانٌ سے

اَسَارِيٌّ. سَكْرَانِيٌّ

وہ جمع جس کے الف کے بعد دو یا تین متحرک

حرف ہوں انتہی الجموع کہلاتی ہے۔ اس کے وزن

یہ ہیں۔ مَفَاعِلٌ جیسے مَشِيْدٌ. مَضْرِبٌ  
 مَكْرُمَةٌ سے مَسَاجِدٌ. مَضَارِبٌ مَكَارِمٌ

کی جاتی ہے۔ جیسے ذَبْنَبْ كَوْفَيْتَهُ - فَعَيْلَةٌ - فَعَيْلَةٌ  
 فَعَيْلَةٌ کے وزن کے کلمے ناقص ہوں تو ان کی پہلی  
 ی کو دور کر کے دوسری کو واؤ سے بدل کر ماقبل کو  
 مفتوح کیا جاتا ہے جیسے عَلِيٌّ - غَنِيَّةٌ - أُمِّيَّةٌ سے  
 عَلَوِيٌّ - غَنَوِيٌّ - آمَوِيٌّ۔ غیر جوف اور غیر ضاعف  
 لفظ جو فَعَيْلَةٌ - فَعُولَةٌ یا غیر ضاعف فَعَيْلَةٌ  
 کے وزن کا ہو۔ تو اس سے حرف علت اور تہ دور کی جاتی  
 ہے اور ی کو زبردی جاتی ہے جیسے مَدِينَةٌ كَهْوَلَةٌ  
 جُهَيْنَةٌ سے مَدَنِيٌّ - كَهْلِيٌّ - جُهْنِيٌّ لیکن طَبِيعَةٌ  
 سَلِيْقَةٌ سے نسبت طَبِيعِيٌّ - سَلِيْقِيٌّ اس قاعدہ کے  
 خلاف ہے۔ فَعَيْلٌ - فَعَيْلٌ صحیح ہو تو اس سے ی نہیں  
 گرتی جیسے رَبِيعٌ - عُبَيْدٌ سے رَبِيعِيٌّ - عُبَيْدِيٌّ  
 لیکن ثَقِيفٌ - قُرَيْشٌ کی نسبت ثَقَفِيٌّ - قُرَشِيٌّ  
 سے ی خلاف قیاس گرتی ہے۔ الف مقصورہ تیسری  
 اور چوتھی جگہ کا واؤ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے رَضِيٌّ  
 مَوْلِيٌّ سے رَضَوِيٌّ - مَوْلَوِيٌّ۔ پانچویں جگہ کا آجاتا  
 ہے۔ جیسے مُصْطَفِيٌّ - مُصْطَفِيٌّ لیکن بعض  
 مُصْطَوِيٌّ بھی کہتے ہیں۔ الف ممدودہ مؤنث کا واؤ  
 سے بدلتا ہے جیسے صَفْرَاءٌ سے صَفْرَاوِيٌّ۔ اسلی  
 بحال رہتا ہے جیسے قُرَاءَةٌ سے قُرَاءِيٌّ۔ اگر حرف  
 سے بدلا ہوا ہو۔ تو واؤ سے بدلنا نہ بدلنا جائز ہے جیسے  
 سَمَاءٌ سے سَمَائِيٌّ و سَمَاوِيٌّ جس اسم کے آخری  
 شدہ والی ہو۔ اور اس سے پہلے دو حرفوں سے زیادہ  
 حرف ہوں۔ تو نسبت کے وقت وہ گر جاتی ہے جیسے  
 شَافِعِيٌّ (امام شافعی کا پیرو) اگر ی مشدود سے

فَوَاعِلٌ جیسے کَاتِبَةٌ - كَاهِلٌ سے کَوَاتِبٌ - كَوَاهِلٌ  
 فَعَائِلٌ جیسے صَعِيْفَةٌ - رَسَالَةٌ - عَجُوْرٌ - حَمَامَةٌ  
 ذَوَابَةٌ - شَمَائِلٌ - صَخَائِفٌ - رَسَائِلٌ - عَجَائِدُ  
 حَمَائِمٌ - ذَوَائِبٌ - شَمَائِلٌ - فَعَائِلٌ جیسے صَخْرَاءُ  
 فِتْوَى - ذِفْرَى سے صَخَارِيٌّ - فِتَاوِيٌّ - ذِفَارِيٌّ  
 مَفَاعِيلٌ جیسے مِصْبَاحٌ - مَلْعُوْنٌ سے مَصَابِيْهُمُ  
 مَلَاعِيْنٌ۔

جمع الجمع یعنی جمع کی جمع بنانا جیسے نِعْمَةٌ (ایک نعمت)  
 کی جمع الجمع سے جمع الجمع آتَا عِيْمٌ۔

اسم جنس۔ وہ الفاظ جو تہ کے ساتھ مفرد پر اور غیر  
 تہ کے جنس پر یا بعیرہ کے مفرد پر اور تہ کے ساتھ جنس  
 پر بولے جائیں جیسے شَجَرَةٌ (ایک درخت) کَمَا رُجْنِيٌّ  
 سے شَجَرٌ (کئی درخت) کَمَا رُكْنِيٌّ (کئی کُصْبِيَّاتٌ)۔  
 اسم جمع یعنی ایسے لفظ جن میں جمع کے معنی پائے جاتے  
 ہیں لیکن ان کا واحد نہیں ہوتا۔ یا واحد ہوتا بھی ہے  
 تو اس کا وزن جمع کے وزن سے خارج ہوتا ہے جیسے  
 جَيْشٌ - قَوْمٌ - رَاكِبٌ (سوار) - رَاكِبٌ (سواران)  
 صَاحِبٌ (مصاحب) - صَحَابَةٌ (مصاحبان) - رَفِيقٌ  
 (دہراہی) - رُفَقَةٌ (دہراہیاں)

جمع من غیر لفظہ۔ یعنی وہ جمع جس کے مفرد  
 کے حرف اور ہوں جیسے امْرَأَةٌ - ذُوٌّ سے نِسَاءٌ - اَلْوَا  
 اسم کے آخریائے مشدود۔ ماقبل مکسور بڑھانے  
 کا نام نسبت ہے جیسے هِنْدٌ سے هِنْدِيٌّ  
 اسم کے آخریائے مشدود۔ ماقبل مکسور بڑھانے  
 سے کُوْرَفِيٌّ - مؤنث کے لئے ی کے بعد تہ زیادہ



## خلاصۃ النحو

## سوالاً جواباً

از حضرت میرزا سحاق صاحب رضی اللہ عنہ

سوال - انسان جو کچھ بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب - جو کچھ انسان منہ سے بولتا ہے اسے

عربی میں لفظ کہتے ہیں۔

(۲) سوال - لفظ کس سے بنتے ہیں؟

جواب - لفظ حروفِ ہجاء (تہجی) سے

بنتے ہیں۔

(۳) سوال - حروفِ تہجی (ہجاء) کونسے ہیں؟

جواب - حروفِ ہجاء یہ ہیں۔ اَلْاَلِفُ

اَلْبَاءُ۔ اَلثَّاءُ۔ اَلشَّاءُ۔ اَلجِیْمُ۔ اَلحَاءُ۔

اَلخَاءُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلرَّاءُ۔ اَلزَّاءُ۔

اَلسِّیْنُ۔ اَلشِّیْنُ۔ اَلصَّادُ۔ اَلضَّادُ۔ اَلطَّاءُ۔

اَلظَّاءُ۔ اَلعَیْنُ۔ اَلغَیْنُ۔ اَلفَاءُ۔ اَلقَافُ

اَلکَافُ۔ اَللَّامُ۔ اَلمِیْمُ۔ اَلنُّونُ۔ اَلهَاءُ

اَلوَاوُ۔ اَلهَمْزَةُ۔ اَلبِیَاءُ۔

(۴) سوال - حروفِ ہجاء کی کتنی اور کونسی

قسمیں ہیں؟

جواب - حروفِ ہجاء کی دو قسمیں ہیں۔

ایک شمسی۔ دوسری قمری۔

(۵) سوال - حروفِ شمسی کی تعریف کرو۔

جواب - حروفِ شمسی وہ حروفِ تہجی ہیں کہ

جن سے پہلے اگر آل آوے تو آل کا لام اس حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے اَلشَّمْسُ اس میں آل کا لفظ ش پر داخل ہوا تو بجائے آل شَمْسُ کے اَشْشَمْسُ پڑھتے ہیں۔ لیکن لکھنے میں آل کا لام قائم رہتا ہے صرف پڑھنے میں نہیں آتا۔

(۶) سوال - حروفِ قمری کی تعریف کرو۔

جواب - حروفِ قمری وہ حروفِ تہجی ہیں کہ جن کے

پہلے اگر آل آوے تو آل کا لام اس حرف میں تبدیل نہیں

ہوتا۔ جیسے اَلقَمَرُ اس میں آل کا لفظ ق پر داخل ہوا

تو بجائے آقِ قَمَرُ کے اَلقَمَرُ پڑھتے ہیں۔

(۷) سوال - حروفِ ہجاء میں سے حروفِ شمسی

کون سے ہیں؟

جواب - حروفِ شمسی چودہ حروفِ اَلثَّاءُ

اَلشَّاءُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلذَّالُ۔ اَلرَّاءُ۔ اَلزَّاءُ۔ اَلسِّیْنُ

اَلشِّیْنُ۔ اَلصَّادُ۔ اَلضَّادُ۔ اَلطَّاءُ۔ اَلظَّاءُ۔ اَللَّامُ

اور اَلنُّونُ ہیں۔

(۸) سوال - حروفِ ہجاء میں سے حروفِ قمری

کون سے ہیں؟

جواب - حروفِ قمری پندرہ حروفِ اَلْاَلِفُ

اَلْبَاءُ۔ اَلجِیْمُ۔ اَلحَاءُ۔ اَلخَاءُ۔ اَلعَیْنُ

اَلغَیْنُ۔ اَلفَاءُ۔ اَلقَافُ۔ اَلکَافُ۔ اَلمِیْمُ

اَلهَاءُ۔ اَلوَاوُ۔ اَلهَمْزَةُ اور اَلبِیَاءُ ہیں

(۹) سوال - حروفِ تہجی کو حروفِ تہجی کیوں کہتے ہیں؟

جواب - حروفِ تہجی کو حروفِ ہجاء یا تہجی

اس لئے کہتے ہیں کہ ان سے پہلے سے بعضی جڑ کر الفاظ

اکیلا کافی نہ ہو بلکہ کسی اور کلمہ کے ملانے سے وہ اپنے  
معنی دے جیسے مین سے رالی تک۔ اور قی میں۔  
(۱۴) سوال۔ فعل کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟  
جواب۔ فعل کی تین قسمیں ماضی۔ مضارع اور  
امر ہیں۔

(۱۵) سوال۔ ماضی کی کیا تعریف ہے؟  
جواب۔ ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے  
زمانہ میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو جیسے ضربت  
اُس نے مارا۔

(۱۸) سوال۔ مضارع کی کیا تعریف ہے؟  
جواب۔ مضارع وہ فعل ہے جس میں موجود  
یا آئندہ زمانہ میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو جیسے  
یَضْرِبُ یعنی وہ مارتا ہے یا مارے گا۔

(۱۹) سوال۔ مضارع کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟  
جواب۔ مضارع کی دو قسمیں ہیں۔ حال اور مستقبل  
حال وہ فعل مضارع ہے جس میں موجودہ زمانہ میں کسی  
کام کے ہونے کا ذکر ہو۔ جیسے کَبَّرْتُ وہ مار رہا  
ہے۔ مستقبل وہ فعل مضارع ہے جس میں آئندہ زمانہ  
میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو۔ جیسے سَبَّحْتُ وہ  
مارے گا۔ مستقبل وہ فعل مضارع ہے جس میں آئندہ  
زمانہ میں کسی کام کے ہونے کا ذکر ہو جیسے سَبَّحْتُ وہ  
عقرب مارے گا۔ فعل مضارع حال و استقبال دونوں  
پر مشتمل ہوتا ہے۔

(۲۰) سوال۔ امر کی کیا تعریف ہے؟  
جواب۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی شخص

بنائے جاتے ہیں جیسے نہ۔ ی اور د سے جوڑ کر ایک  
لفظ نریداً بن جاتا ہے  
(۱۰) سوال۔ لفظ کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟  
جواب۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ مہمل یعنی بے معنی  
اور کلمہ یعنی بامعنی۔ مہمل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو معنی نہ  
دے جیسے دَیْرٌ۔

(۱۱) سوال۔ کلمہ کی کیا تعریف ہے؟  
جواب۔ کلمہ ایک بامعنی لفظ کو کہتے ہیں  
جیسے ضَرَبَ اس نے مارا۔ مَاءٌ۔ پانی۔ مَن۔ سو  
(۱۲) سوال۔ کلمہ کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟  
جواب۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ اسم فعل  
اور حرف۔

(۱۳) سوال۔ اسم کی کیا تعریف ہے؟  
جواب۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی دینے میں  
اکیلا کافی ہو اور گذشتہ۔ موجودہ یا آئندہ تینوں زمانوں  
میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے معنوں میں نہ پایا جاوے  
جیسے زَيْدٌ۔ كِتَابٌ۔ عِلْمٌ یعنی زید کتاب اور علم (جاننا)  
(۱۴) سوال۔ فعل کی کیا تعریف ہے؟  
جواب۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی دینے میں  
اکیلا کافی ہو۔ اور اس کے معنوں میں گذشتہ موجودہ  
اور آئندہ تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور  
پایا جاوے۔ جیسے ضَرَبَ۔ اس نے مارا۔ يَضْرِبُ  
دارتا ہے یا مارے گا۔ اَضْرِبْ۔ تُوْمَارُ  
(۱۵) سوال۔ حرف کی کیا تعریف ہے؟  
جواب۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی دینے میں

اور نون لگا کر بنتے ہیں۔ جیسے مُؤْمِنٌ وَمُؤْمِنُونَ  
اور جمع مُؤنثِ سالم اس جمع کو کہتے ہیں جو مفرد کے آگے  
الف اور ت بڑھا کر جمع مُؤنث کے لئے بنتے ہیں  
جیسے مُسَلِمَاتٌ

(۲۵) سوال۔ کلمات سے کیا بنتا ہے؟

جواب۔ کلمات سے جملہ مفیدہ بنتا ہے۔

(۲۶) سوال۔ جملہ مفیدہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ جملہ مفیدہ اس جملہ کو کہتے ہیں جسے

مخاطب سن کر پورا مطلب معلوم کر کے خاموش ہو سکے؟

(۲۷) سوال۔ جملہ مفیدہ کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ جملہ مفیدہ کی دو قسمیں۔ جملہ اسمیہ اور جملہ

فعلیہ ہیں۔

(۲۸) سوال۔ جملہ اسمیہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو

ابتداء اور خبر سے بنے۔ جیسے ذَیْدٌ مَرِيضٌ۔

(۲۹) سوال۔ جملہ فعلیہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل

اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے بنایا جاتا ہے۔

جیسے بَچَاءٌ ذَیْدٌ اور ضَرَبَ ذَیْدٌ۔

(۳۰) سوال۔ کلام کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ کلام جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں۔ اور کلام

کم سے کم دو اسموں مثلاً ذَیْدٌ مَرِيضٌ یا ایک فعل

اور ایک اسم جیسے ضَرَبَ ذَیْدٌ سے بنتا ہے۔

(۳۱) سوال۔ آخری حرف کی حرکت کے لحاظ سے

کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟

سے آئندہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا طلب کیا جائے  
جیسے اَضْرِبْ یعنی تو مار یا مَثْ یعنی تو مر جا۔

(۳۱) سوال۔ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اسم کی کتنی  
اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اسم کی دو

قسمیں مذکر اور مؤنث ہیں۔ مذکر وہ اسم ہے جو زیرو دلالت

کے اور مؤنث وہ اسم ہے جو مادہ پر دلالت کرے۔

(۳۲) سوال۔ افراد کی تعداد کے لحاظ سے اسم

کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ افراد کی تعداد کے لحاظ سے اسم

کی تین قسمیں ہیں۔ مفرد۔ مثنی۔ (دیا تثنیہ) اور

جمع مفرد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک فرد پر دلالت

کرے۔ جیسے ذَیْدٌ اور عَائِشَةُ۔ اور مثنی اس اسم

کو کہتے ہیں۔ جو دو افراد پر دلالت کرے جیسے ذَیْدَانِ

اور عَائِشَتَانِ۔ اور جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو دو سے

زیادہ پر دلالت کرے۔ جیسے ذَیْدُونَ اور عَائِشَاتٌ

(۳۳) سوال۔ جمع کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ جمع کی تین قسمیں ہیں۔ جمع تکبیر۔ جمع مذ

سالم اور جمع مؤنث سالم۔

(۳۴) سوال۔ جمع کی تینوں قسموں کی تعریف لکھو۔

جواب۔ جمع تکبیر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں آگے

مفرد کی شکل ٹوٹ جائے۔ جیسے رِجَالٌ کہ اس میں آگے

مفرد رَجُلٌ کی شکل ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی رِجَالٌ میں

رَجُلٌ کی جیم اور لام کے درمیان الف آ جاتا ہے جمع

مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جو مفرد مذکر کے آگے واؤ

(۳۵) سوال۔ حرف کی اپنے حروف تہجی کی تعداد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں ؟

جواب۔ حرف کی اپنے حروف تہجی کی تعداد کے لحاظ سے پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) أَحَادِيثٌ۔ یعنی جو ایک ایک حرف کے ہوں۔ جیسے

بِسْمِ اللّٰهِ  
اَزَيْدٍ مَّرِيضٍ  
سَيَقُولُ السَّمَاءُ  
تَا اللّٰهِ

تَاء کی تاء  
جَاءُ زَيْدٌ قَعْمَرٌ  
فَاء کی فاء

زَيْدٌ كَالْأَسَدِ  
وَاللّٰهُ  
كاف کی واو

سَجَدُوا لِأَدَمَ  
لام کی لام

(۲) ثُنَائِيَّةٌ یعنی دو حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے رَاذٌ۔ آفٌ۔ رَاثٌ۔ آثٌ۔ بَلٌ۔ لَا اور كُوٌّ ہیں۔

(۳) ثَلَاثِيَّةٌ یعنی تین حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے آلا۔ الی۔ سَوَفَ۔ عَلَى۔ كَيْتٌ اور نَعْمٌ وغیرہ۔

(۴) رُبَاعِيَّةٌ یعنی چار حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے رَاذِمًا۔ رَاثِمًا۔ حَتَّى۔ كَانٌ اور كُنَّا وغیرہ۔

(۵) خَمْسِيَّةٌ یعنی پانچ حرفوں سے بنے ہوئے حرف

جیسے رَاثِمًا۔ لِكِنَّ۔ وغیرہ۔

(۳۵) سوال۔ ماضی کس پر مبنی ہوتی ہے ؟

جواب۔ ماضی فتح پر مبنی ہوتی ہے یعنی اس کے

آخر پر ہمیشہ نصب ہوتی ہے۔

(۳۶) سوال۔ امر کس پر مبنی ہوتا ہے ؟

جواب۔ اپنے آخری حرف کی حرکت کے لحاظ سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں۔ مُعْرَبٌ اور مُبْتَنِيٌّ۔

(۳۲) سوال۔ مُعْرَبٌ کی کیا تعریف ہے ؟

جواب۔ مُعْرَبٌ وہ کلمہ ہے جس کے

آخری حرف کی حرکت مختلف ترکیبوں میں

آنے سے بدلتی رہے اور متفرق عاملوں کے

آنے سے مختلف ہوتی رہے۔ جیسے اِسْمُوں میں سے كِتَابٌ اور فَعْلُوں میں سے يَضْرِبُ۔

(۳۳) سوال۔ مبنی کی کیا تعریف ہے ؟

جواب۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف

کی حرکت باوجود مختلف عاملوں کے آنے اور مختلف

ترکیبوں میں آنے سے نہ بدلے۔ جیسے اِسْمُوں میں سے

مَنْ اور فَعْلُوں میں سے خَضَبٌ۔

(۳۴) سوال۔ اسم فعل اور حرفوں میں سے کون کون

مبنی ہیں ؟

جواب۔ تمام حروف مبنی ہیں جیسے مَنْ۔ اِنِّیْ۔

عَلَى اور فِی وغیرہ وغیرہ۔ فَعْلُوں میں سے ماضی اور

امر مبنی ہیں۔ اور مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث حاضر

اور جمع مؤنث غائب مبنی ہیں۔ نیز جس مضارع کے آخر

میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لگایا جاوے جیسے كَيْفَعَلْنَ

اور كَيْفَعَلْنَ۔ اس کے بھی تمام صیغے مبنی ہیں۔ باقی

مضارع کے صیغے معرب ہیں۔ اور اسموں میں سے اکثر

اسم معرب ہیں۔ صرف چند اسم مبنی ہیں۔ اور وہ اسما

ضما۔ اسماء اشارہ۔ اسماء موصولہ اور اسماء شرط

ہیں۔





(۴۷) سوال - اسما شرط کو نئے ہیں ؟

جواب - اسما شرط یہ ہیں :-

مَنْ - مَا - مَهْمَا - مَتَى - آيَان - آيِن - آتِي - جَيْشَمَا - كَيْفَمَا - اور آجِي۔

(۴۸) سوال - معرب کلمہ کے آخری حرکت یا سکون کو کیا کہتے ہیں ؟

جواب - معرب کلمہ کے آخری حرکت یا سکون کو اعراب کہتے ہیں

(۴۹) سوال - مبنی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت یا سکون کو کیا کہتے ہیں ؟

جواب - مبنی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت یا سکون کو بناء کہتے ہیں۔

(۵۰) سوال - مُعْرَب فعل پر کیا کیا اعراب آسکتے ہیں ؟

جواب - مُعْرَب فعل یعنی مضارع کے اعراب رفع نصب اور جزم ہوتے ہیں۔

(۵۱) سوال - مُعْرَب اسم پر کیا کیا اعراب آسکتے ہیں ؟

جواب - معرب اسم کے اعراب رفع - نصب اور جزم ہوتے ہیں۔

(۵۲) سوال - رفع - نصب - جَزْم اور جَزْم کی کیا علامات ہیں ؟

جواب - فعل میں بھی رفع کی عام علامت ضمۃ یعنی پیشی - نصب کی علامت فتحة یعنی زیر اور جزم کی علامت سکون

یعنی جزم ہیں۔ اور یہ چاروں علامتیں اصل حلا نہیں

ہیں۔ باقی علامتیں فرعی کہلاتی ہیں جو اپنے موقع پر آویگی

۵۳ سوال - اگر مضارع کا آخری حرف الف ہو تو اس پر اعراب کس طرح آئیں گے ؟

جواب - اگر مضارع کا آخری حرف الف ہو جیسے يَخْشَى تَوْرَع اور نصب تو اس پر نظر نہیں

آتے بلکہ مقدر آتے ہیں یعنی رَفَع کے موقع پر کہا جاویگا کہ یہاں بذریعہ مقدر ضمۃ کے آیے جیسے يَخْشَى زَيْدٌ

میں يَخْشَى کے الف پر ضمۃ تقدیری اور كَسْرٌ يَخْشَى زَيْدٌ میں يَخْشَى کے الف پر فتح

تقدیری ہوگا۔ لیکن جزم کے موقع پر الف کو گراویں گے جیسے لَمْ يَخْشَ زَيْدٌ میں جب لَمْ نے يَخْشَى

کو جزم دیا تو الف گرا کر اسے لَمْ يَخْشَ پر ٹھاکیا۔

(۵۴) سوال - اگر مضارع کا آخری حرف اَلْوَاوُ یا اَلْيَاءُ ہو تو اس پر اعراب کس طرح آئیں گے ؟

جواب - اگر مضارع کا آخری حرف اَلْوَاوُ ہو جیسے يَدْعُو یا اَلْيَاءُ ہو۔ جیسے يَزْعُمُ تَوْرَع

کے موقع پر ضمۃ مقدر ہوگا۔ لیکن نصب کے موقع پر فتح ظاہر آئے گی جیسے كُنْ يَدْعُو اور كُنْ يَزْعُمُ اور جزم کے موقع پر اَلْوَاوُ یا اَلْيَاءُ کو گرا دیں گے

جیسے لَمْ يَدْعُ اور لَمْ يَزْعُمُ

(۵۵) سوال - مضارع کے تشبیہ اور جمع مذکر اور مؤنث مخاطب کے صیغوں میں اعراب کس طرح آتے ہیں ؟

جواب - مضارع کے تشبیہ کے صیغوں میں جیسے يَضْرِبَانِ - تَضْرِبَانِ - اور جمع مذکر کے

بارہ الفاظ ہیں جن میں سے پہلے دو حرف ہیں۔ اور باقی اسم ہیں اور وہ یہ ہیں :-

ان جیسے ان تَذَهَبَ آذَهَبَ یعنی میرے جانے کے لئے تیرا جانا شرط ہے۔

اِذْمَا جیسے اِذْمَا تَسَافِرُوا سَافِرُوا۔

مَنْ جیسے مَنْ يَرْحَمُ يُرْحَمُ

مَا جیسے مَا تَفْعَلُ أَفْعَلُ۔

مَهْمَا جیسے مَهْمَا تَفْعَلُ يَعْلَمُهُ اللهُ۔

مَتَى جیسے مَتَى تَقُمْ أَقُمْ۔

آيَان جیسے آيَان تَذَهَبَ أَذَهَبَ۔

آيِن جیسے آيِن تَجْلِسُ أَجْلِسُ۔

آنِي جیسے آنِي تَذَهَبُ تَذْهَبُ

حَيْثُمَا جیسے حَيْثُمَا تَذَهَبُ أَذَهَبُ

كَيْفَمَا جیسے كَيْفَمَا تَكْتُبُ أَكْتُبُ۔

آيِي جیسے آيِي كِتَابٍ تَقْرَأُ تَسْتَفِيدُ۔

(۵۸) سوال۔ فعل مضارع پر رفع کب آتا ہے؟

جواب۔ فعل مضارع جب نصب اور جزم

وینے والے الفاظ سے خالی ہو تو اس پر رفع آتا ہے

جیسے يَضْرِبُ ذَيْدٌ میں يَضْرِبُ سے پہلے چونکہ

کوئی ناصب یا جازم نہیں آیا۔ اس لئے اس کے آخری

حرف پر رفع آیا کرتا ہے۔

(۵۹) سوال۔ مُعْرَبٌ اسم پر رفع کتنے اور کتنے

موقعوں پر آتا ہے۔

جواب۔ مُعْرَبٌ اسم پر رفع چھ موقعوں پر

آتا ہے یعنی جب کوئی اسم کسی عبارت میں فاعل یا نائب فاعل

صیغوں میں جیسے يَضْرِبُونَ تَضْرِبُونَ اور

مؤنث مخاطب کے صیغے میں جیسے تَضْرِبِينَ میں

رفع کے موقع پر نون موجود رہتا ہے اور نصب اور

جزم کے موقع پر نون گرا دیا جاتا ہے جیسے لَنْ

يَضْرِبَا۔ لَنْ تَضْرِبَا۔ لَنْ يَضْرِبُوا لَنْ

تَضْرِبُوا۔ لَنْ تَضْرِبِي۔ لَمْ تَضْرِبَا۔ لَمْ

يَضْرِبَا۔ لَمْ يَضْرِبُوا۔ لَمْ تَضْرِبُوا۔ لَمْ

تَضْرِبِي۔

(۵۶) سوال۔ فعل مضارع پر نصب کب آتا ہے؟

جواب۔ جب اَنْ۔ لَنْ۔ كَيْ۔ اِذَا۔ اِنْ چاہے

حرفوں میں سے کوئی حرف مضارع کے پہلے آوے تو

مضارع کے آخری حرف پر نصب آتی ہے جیسے

اَنْ يَضْرِبَ لَنْ يَضْرِبَ۔ كَيْ يَضْرِبَ

اِذَا يَضْرِبَ

(۵۷) سوال۔ فعل مضارع پر جزم کب آتا ہے؟

جواب۔ فعل مضارع پر جزم اُس وقت آتا

ہے جب اُس سے قبل یہ حرف آویں لَمْ۔ لَمَّا۔

اِمْرًا اور نہی کا لاء یہ چاروں حرف ایک ایک فعل کو

جزم دیتے ہیں جیسے لَمْ يَذْهَبْ ذَيْدٌ۔ لَمَّا

يُثْمِرُ بُسْتَانَنَا يَبْذُؤُا بَكْرًا۔ كَا

تَضْرِبُ أَحَدًا۔

اور مندرجہ ذیل الفاظ دو مفعولوں پر آتے ہیں

پہلے فعل کو فعل شرط اور دوسرے فعل کو جواب یا

جزائے شرط کہتے ہیں۔ کیونکہ پہلا فعل دوسرے فعل

کے وقوع پذیر ہونے کے لئے شرط ہوتا ہے۔ اور وہ

یا مبتدایا خبر یا گان اور اُس کے ساتھیوں کا اسم یا  
رات اور اُس کے ساتھیوں کی خبر ہو تو اُس پر رفع آیا  
کرتا ہے۔

(۶۰) سوال - فاعل کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - فاعل اُس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے  
کوئی فعل معروف ہو۔ اور وہ اسم اُس فعل کا کرنے والا  
ہو۔ جیسے ضَرَبَ زَيْدٌ یا وہ فعل اُس کے ذریعہ  
قائم ہوا ہو۔ جیسے مَاتَ زَيْدٌ۔

(۶۱) سوال - نائب فاعل کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - نائب فاعل وہ اسم ہے جس کے پہلے  
کوئی فعل مجہول ہو اور وہ فعل اُس اسم پر واقع ہوا  
ہو۔ جیسے ضَرَبَ زَيْدٌ میں زَيْدٌ نائب فاعل ہے

(۶۲) سوال - مبتدا کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - مبتدا وہ اسم ہے جو جملہ

کے شروع میں آوے۔ اور جملہ میں اُس کے

متعلق خبر دی جاوے۔ کہ وہ ایسا ہے

جیسے زَيْدٌ مَرِيضٌ میں زَيْدٌ کا لفظ جملہ کے شروع

میں ہے۔ یعنی اُس سے پہلے کوئی فعل نہیں جس کا وہ

فاعل ہو یا نائب فاعل ہو اور اس جملہ میں اُس کے

متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ بیمار ہے۔

(۶۳) سوال - خبر کی کیا تعریف ہے ؟

جواب - خبر اُس اسم کو کہتے ہیں جو مبتدا کے

متعلق کوئی بات بتا دے۔ جیسے زَيْدٌ مَرِيضٌ میں

مَرِيضٌ کا لفظ خبر ہے۔ کیونکہ یہ مبتدا یعنی زید کے

متعلق بتلاتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔

(۶۴) سوال - گان اور اُس کے ساتھی گناؤ۔

جواب - گان اور اُس کے ساتھی یہ ہیں

گان - صَادٌ - آضِبَعٌ - آضْحَى - ظَلٌّ - آمْسَى

بَاتٌ - مَا ذَالَ - مَا بَدِرَحٌ - مَا انْفَلَكٌ - مَا فَتِحَ

مَا دَامَ اور کیس۔

(۶۵) سوال - گان اور اس کے ساتھی کیا عمل

کرتے ہیں ؟

جواب - گان اور اس کے ساتھی جب مبتدا

اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو اُس وقت مبتدا کا نام

گان کا اسم اور خبر کا نام گان کی خبر ہو جاتا ہے

گان کے اسم پر رفع اور گان کی خبر پر نصب آتا

ہے جیسے گان زَيْدٌ مَرِيضٌ۔

(۶۶) سوال - رات اور اس کے ساتھی گناؤ

جواب - رات اور اس کے ساتھی یہ ہیں۔

اِنَّ - اَنَّ - كَاَنَّ - لَكِنَّ - لَيْتَ لَعَلَّ

اور لا۔

(۶۷) سوال - رات اور اس کے ساتھی کیا عمل

کرتے ہیں ؟

جواب - رات اور اس کے ساتھی جب مبتدا اور

خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اُس وقت رات کا نام رات

کا اسم اور خبر کا نام رات کی خبر ہوتا ہے جیسے اِنَّ

زَيْدٌ مَرِيضٌ۔

(۶۸) سوال - مُعْرَبٌ اسم پر کتنے اور کونسے موقوف

پر نصب آتی ہے ؟

جواب - اسم پر گیارہ موقوفوں پر نصب

مفعول لاجلہ ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے فعل یعنی کھڑے ہونے کا سبب بتاتا ہے یعنی میں حاکم کی تعظیم کی غرض سے کھڑا ہوا تھا۔ مفعول لاجلہ کا دوسرا نام مفعول لہ بھی ہے۔

(۷۲) سوال۔ مفعول فیہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ مفعول فیہ وہ اسم ہے جو

اپنے سے پہلے فعل کا زمانہ یا مکان بتائے جیسے

حَفِظْتُ الدُّرَّ صَبَا جَا مِ لِمَقْد

صَبَا حَا مفعول فیہ ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے فعل کا

زمانہ بتاتا ہے یعنی میں نے سبق صبح کے وقت یاد کیا تھا

یا جیسے حَفِظْتُ الدُّرَّ اَمَامَ الْمُعَلِّمِ مِ اَمَامَ

مفعول فیہ ہے کیونکہ وہ اپنے سے پہلے فعل کا مکان بتاتا

یعنی میں نے سبق استاد کے سامنے بیٹھ کر یاد کیا تھا۔

(۷۳) سوال۔ مفعول فیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟

جواب۔ مفعول فیہ کا دوسرا نام ظرف بھی ہے

(۷۴) سوال۔ ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرفِ زمانہ

اور ظرفِ مکان۔

(۷۵) سوال۔ ظرفِ زمانہ کے بعض الفاظ بطور مثال لکھو:

جواب۔ یہ الفاظ ظرفِ زمانہ کے طور پر استعمال

ہوتے ہیں:- صَبَا حَا۔ مَسَاءً۔ یَوْمًا۔ لَیْلَةً۔

بُكْرَةً۔ غَدًا۔ صَبْحًا۔ سَحْرًا۔ اَبَدًا جِنًا

وَقْتًا۔ لَحْظَةً۔ سَاعَةً۔ مَدَّةً۔ سَنَةً شَهْرًا۔

(۷۶) سوال۔ ظرفِ مکان کے بعض الفاظ بطور نمونہ بتاؤ:

جواب۔ یہ الفاظ بطور ظرفِ مکان کے استعمال

آتی ہے۔ یعنی جب کوئی اسم عبارت میں مفعول بہ یا مفعول مطلق یا مفعول لاجلہ یا مفعول فیہ یا مفعول معہ یا حال یا تمیز یا منادی یا مستثنیٰ بالآ یا خبر کان یا اسمِ اِنّ ہو۔ تو اس پر نصب آتی ہے۔

(۷۹) سوال۔ مفعول بہ کی تعریف کرو۔

جواب۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس کے پہلے

فعل معروف ہو۔ اور فاعل نے وہ فعل اُس اسم پر کیا

ہو جیسے ضَرَبَ زَيْدٌ بَكْرًا مِ بَكْرًا مفعول بہ

ہے کیونکہ فاعل یعنی زید کا فعل مارنا اُس پر واقع ہوا

ہے۔

(۸۰) سوال۔ مفعول مطلق کی تعریف کرو۔

جواب۔ مفعول مطلق وہ اسم ہے جو اپنے سے

پہلے فعل کی تاکید کرے جیسے ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبًا

مِ ضَرْبًا مفعول مطلق ہے یعنی میں نے زید کو خوب

مارا۔ یا اپنے سے پہلے فعل کی تعداد بتائے جیسے ضَرَبْتُ

زَيْدًا اِثْنًا عَشْرًا مِ اِثْنًا عَشْرًا مفعول مطلق

ہے کیونکہ اُس نے فعل یعنی مارنے کی گنتی بتائی ہے کہ

میں نے زید کو دو چوٹیں لگائیں۔ یا اپنے سے پہلے فعل کی

ہدایت بتائے جیسے ضَرَبْتُ زَيْدًا اِضْرَابًا

اَلْاَسْتَاذِ مِ اِضْرَابًا مفعول مطلق ہے یعنی میں نے

زید کو اس طرح مارا جس طرح استاد شاگرد کو مارا کرتا ہے۔

(۸۱) سوال۔ مفعول لاجلہ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ مفعول لاجلہ وہ اسم ہے جو

اپنے سے پہلے فعل کا سبب اور غرض بتائے

جیسے قُمْتُ اَكْرَامًا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَشَاءُ

ہوتے ہیں :-

أَمَامَ - قُدَّامَ - خَلْفَ - وَرَاءَ - فَوْقَ  
تَحْتَ - يَمِينًا - شِمَالًا - عِنْدَ - مَعَ - إِذَاءَ  
حِذَاءَ - تَلْقَاءَ - بَرِيدًا - فَرَسًا - مِثْلًا

(۷۷) سوال - مفعول معہ کی تعریف کرو۔

جواب - مفعول معہ وہ اسم ہے جس سے پہلے  
کوئی فعل ہو۔ اور وہ فعل اُس اسم کی موجودگی اور اسکی  
مصاحبت یعنی اُس کے ساتھ ساتھ ہوا ہو۔ مفعول معہ  
سے پہلے ایک واؤ لاتے ہیں جسے واؤ معیت کہتے ہیں۔  
جیسے سِرْتُ وَالنَّيْلُ مِثْلُ الْمَيْلِ مَفْعُولٌ مَعَهُ  
ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے فعل سِرْتُ یعنی میرا چلنا دریا  
نیل کے ساتھ ساتھ ہوا تھا۔

(۷۸) سوال - مفاعیل خمسہ کسے کہتے ہیں؟

جواب - مفعول پہ مفعول مطلق مفعول لِاجلِہ  
مفعول فیہ سے۔ اور مفعول معہ۔ ان پانچ قسم کے مفعولوں  
کو مفاعیل خمسہ کہتے ہیں۔

(۷۹) سوال - حال کی تعریف کرو۔

جواب - حال وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے فعل  
کے وقت فاعل کی یا مفعول پہ کی حالت بتائے۔ مثلاً  
جَاءَ زَيْدٌ ذَاكِبًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا  
اپنے سے پہلے فعل جَاءَ یعنی آنے کے وقت فعل  
یعنی زید کی حالت بتاتا ہے کہ وہ آنے کے وقت سوار  
ہو کر آیا تھا۔ یا جیسے شَرِبْتُ الْمَاءَ جَارِيًا  
جَارِيًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا  
یعنی پینے کے وقت مفعول پہ یعنی پانی کی حالت بتاتا

ہے۔ کہ وہ پینے جانے کے وقت یہ رہا تھا۔

(۸۰) سوال - تمیز کسے کہتے ہیں؟

جواب - تمیز وہ اسم ہے جو اپنے سے پہلے اسم  
کی تعیین کرے جبکہ پہلے اسم سے بہت سی چیزیں مراد ہو  
سکتی ہوں۔ جیسے ذَا آيْتِ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا  
میں کواکباً تمیز ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے اسم  
أَحَدَ عَشَرَ یعنی گیارہ کی تعیین کرتا ہے کہ وہ ستارے  
تھے نہ کہ کوئی اور چیز۔

(۸۱) سوال - منادوی کی کیا تعریف ہے؟

جواب - منادوی اُس اسم کو کہتے ہیں جسے حرف  
کے ذریعہ اپنی طرف بلایا جائے جیسے يَا زَيْدُ یعنی اے  
زید!

(۸۲) سوال - کونسا منادوی منصوب ہوتا ہے؟

جواب - وہ منادوی جو مضاف بھی  
ہو۔ اُس پر نصب آتی ہے جیسے يَا عَبْدَ اللَّهِ  
اس میں لفظ عَبْدَ منادوی بھی ہے اور لفظ

اللہ کی طرف مضاف بھی ہے۔

(۸۳) سوال - مستثنیٰ بیا لا کی کیا تعریف ہے؟

جواب - وہ اسم جو اِلَّا کے  
مستثنیٰ بیا لا کہتے ہیں اور اُس پر نصب آتی ہے  
جیسے جَاءَ الطَّلَبَةُ إِلَّا زَيْدًا مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا  
مستثنیٰ بیا لا ہے یعنی لفظ اِلَّا کے ذریعہ زید کو  
آنے والے طالب علموں میں سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے  
کہ اور طالب علم تو آگئے لیکن زید نہیں آیا۔ اس  
فقرہ میں طلبہ مستثنیٰ مند اور زید مستثنیٰ ہے۔

جواب۔ مضاف الیہ اُس اسم کو کہتے ہیں جسکی طرف اُس سے پہلا اسم مضاف یعنی اُسکی طرف منسوب ہو جیسے کتاب ذیید یعنی زید کی کتاب میں لفظ زید مضاف الیہ ہے کیونکہ اُس سے پہلا اسم یعنی کتاب اُسکی طرف مضاف یعنی منسوب ہے کتاب کو مضاف کہیں گے کیونکہ وہ زید کی طرف منسوب ہے پس جو اسم منسوب ہو اُسے مضاف اور جسکی طرف منسوب ہو اُسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔

(۸۹) سوال۔ تابع کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ تابع اُس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے اعراب اُس کے اپنے نہ ہوں بلکہ وہ اپنے ماقبل کے ماتحت ہو۔ یعنی جو ماقبل پر اعراب ہوں وہی اُس پر ہوں ماقبل کو متبوع کہتے ہیں۔

(۹۰) سوال۔ تابع کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟

جواب۔ تابع کی چار قسمیں ہیں۔ تابع نعت، تابع عطف، تابع توكید اور تابع بدل۔

(۹۱) سوال۔ تابع نعت کی تعریف کرو۔

جواب۔ تابع نعت وہ تابع ہے جو اپنے سے پہلے اسم کا وصف بیان کرے جیسے جاء رجل عاقل میں عاقل تابع نعت ہے۔ کیونکہ یہ اپنے سے پہلے اسم یعنی رجل کا ایک وصف یعنی عقلمند ہونا بیان کرتا ہے۔

(۹۲) سوال۔ تابع عطف کی تعریف کرو۔

جواب۔ تابع عطف وہ تابع ہے کہ اس کے اور اس کے متبوع کے درمیان

ذکر

(۸۴) سوال۔ کان اور اُس کے ساختوں کی خبر پر کیا اعراب آتے ہیں؟

جواب۔ کان اور اُس کے ساختوں کی خبر پر نصب آتی ہے۔ جیسے کان ذیید مریضاً میں مریضاً منصوب ہے۔

(۸۵) سوال۔ اراق اور اُس کے ساتھیوں کے اسم پر کیا اعراب آتے ہیں؟

جواب۔ اراق اور اُس کے ساتھیوں کے اسم پر نصب آتی ہے جیسے اراق ذییداً مریضاً میں ذییداً اسم اراق ہے اور منصوب ہے۔

(۸۶) سوال۔ معرب اسم پر کتنے اور کون سے موقعوں پر جز آتی ہے؟

جواب۔ اسم پر دو موقعوں پر جز آتی ہے۔ اول جبکہ اُس کے پہلے حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف میں سے کوئی حرف آوے جیسے کتبت بالقلہ میں لفظکم مجرور ہے کیونکہ اس کے پہلے پ جو کہ اسم کو جز دیتی ہے آئی ہے۔ دوم۔ جبکہ کوئی اسم مضاف الیہ ہو جیسے کتاب ذیید میں زید مضاف الیہ ہے۔

(۸۷) سوال۔ حروف جارہ یا حروف جز کون سے ہیں؟

جواب۔ حروف جارہ یا حروف جز یہ ہیں۔ باء وتاء وكاف ولام وواو ومثداً مذخلاً۔ رُب۔ حاشا۔ من۔ عدا۔ فی۔ عن۔ الی۔ حتی۔ علی۔

(۸۸) سوال۔ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟

حروف عاطفہ میں سے کوئی حرف آوے عطف کی صورت میں تاج کو معطوف۔ اور متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔  
(۹۳) سوال۔ حروف عطف کون سے ہیں؟

جواب۔ حروف عاطفہ یا حروف عطف تین ہیں۔  
الْوَاوُ - الِفْتَاءُ - ثَمَّ - اَمْ - اَوْ لٰكِنْ  
لَا اَوْ رَيْلٌ

(۹۴) سوال۔ تاج توکید کی تعریف کرو۔

جواب۔ تاج توکید وہ تاج ہے جو اپنے متبوع کی تاکید کرے یعنی یہ بتا دے کہ متبوع سے مراد متبوع ہی ہے نہ کہ کوئی اور۔ جیسے خَاطِبَتُ السُّلْطَانِ نَفْسَهُ میں لفظ نَفْسَهُ تاج توکید ہے کیونکہ یہ اپنے متبوع یعنی لفظ السُّلْطَانِ کے متعلق بتاتا ہے کہ بادشاہ سے مراد خود بادشاہ ہے نہ کہ اس کا وزیر یا امیر۔

(۹۵) سوال۔ توکید کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب۔ توکید کی دو قسمیں معنوی اور لفظی معنوی توکید سے مراد وہ توکید ہے جو اپنے معنوں سے اپنے متبوع کی تاکید کرے جیسے نَفْسٌ - عَيْنٌ كُلٌّ جَمِيعٌ وغیرہ وغیرہ الفاظ ہیں۔ اور لفظی وہ توکید ہے جو اپنے لفظ یعنی دوبارہ آنے سے تاکید کرے جیسے جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ یعنی خود زید ہی آیا۔ اس میں دوسرا زید تاج توکید ہے۔ جو اپنے متبوع یعنی پہلے زید کی تاکید کرتا ہے یعنی لفظ زید کو دوبارہ لاکر یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ زید سے مراد خود زید ہی ہے۔ نہ کہ کوئی اور۔  
(۹۶) سوال۔ تاج بدل کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ تاج بدل وہ تاج ہے جو اپنے متبوع کے بدلے میں آوے یعنی اگر فقرہ میں متبوع نہ ہو بلکہ صرف تاج ہو تو کام چل سکے۔ بدل کے متبوع کو مُبْدَلٌ کہتے ہیں۔  
(۹۷) سوال۔ بدل کی کتنی اور کونسی قسمیں ہیں؟  
جواب۔ تاج بدل کی چار قسمیں ہیں۔

بدل کُلُّ - بدل بعض - بدل اشتغال اور بدل غلط  
(۹۸) سوال۔ بدل کُلُّ کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل کُلُّ وہ بدل ہے کہ وہ اور اس کا متبوع بالکل ایک چیز ہوں۔ جیسے جَاءَ أَخُوكَ زَيْدٌ یعنی تیرا بھائی جس کا نام زید ہے آیا۔ اب أَخُوكَ اور زَيْدٌ ایک ہی شخص ہیں۔ خواہ جَاءَ أَخُوكَ کہیں یا جَاءَ زَيْدٌ کہیں دونوں شخص ایک ہی ہیں۔  
(۹۹) سوال۔ بدل بعض کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل بعض وہ بدل ہے کہ وہ اپنے مبدلِ مِنْہ کا ایک حصہ ہو جیسے ذَآئِمَةٌ زَيْدٌ اَيْتَہ میں لفظ زَيْدٌ بدل بعض ہے کیونکہ زید کا ہاتھ اس کا ایک حصہ ہے معنی اس فقرہ کے یہ ہیں کہ میں نے زید کو دیکھا یعنی اس کے ہاتھ کو جبکہ دیکھنے والے نے صرف زید کا ہاتھ دیکھا ہو۔

(۱۰۰) سوال۔ بدل اشتغال کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل اشتغال سے مراد وہ بدل ہے جو نہ تو اپنے متبوع کا کُلُّ ہو نہ بعض۔ بلکہ وہ اپنے متبوع سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہو۔ جیسے کوئی شخص زید کو کپڑے سے پکڑ کر گھسیٹے اور کہے جَذَابَتْ زَيْدًا ثَوْبَةً۔ اس فقرہ میں ثَوْبَةً بدل اشتغال ہے۔



کا نقشہ لکھو۔

(۱)

جواب۔ اسم مفرد صحیح اور اسم جاری مجزی صحیح اور جمع تکبیر کا رفع بصورت ضمہ یعنی پیش کے نصب بصورت فتح یعنی زیر کے۔ اور جر بصورت کسرہ یعنی زیر کے آتے ہیں۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ جیسے زَيْدٌ اور جاری مجزی صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں ایسی واؤ اور یار ہو کہ جن پہلے ساکن حرف ہو جیسے دَلُوْا یعنی ڈول۔ ظَبْيٌ یعنی ہرن

مثالوں کا نقشہ :-

(۱)

قسم اسم	حالت رفعی	حالت نصبی	حالت جری
اسم مفرد صحیح	هَذَا زَيْدٌ	رَأَيْتُ زَيْدًا	مَرَرْتُ بِزَيْدٍ
جاری مجزی صحیح	هَذَا دَلُوْا	رَأَيْتُ دَلُوًّا	مَرَرْتُ بِدَلُوِّ
" " "	هَذَا ظَبْيٌ	رَأَيْتُ ظَبْيًا	مَرَرْتُ بِظَبْيٍ
جمع تکبیر	هَؤُلَاءِ رِجَالٌ	رَأَيْتُ رِجَالًا	مَرَرْتُ بِرِجَالٍ

(۲)

مثلی یعنی مثنیہ جیسے رَجُلَانِ۔ اور مثابہ بالمشابہ جیسے اِنَّسَانٍ یا لفظ کِلَابٍ۔ ان تینوں کا رفع الف کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور نصب اور جر اس یار کی صورت میں آتے ہیں جس سے پہلے حرف پر نہ ہو۔ مثالیں درج ہیں :-

(۱۰۱) سوال۔ بدل غلط کی کیا تعریف ہے؟

جواب۔ بدل غلط اس بدل کو کہتے ہیں کہ وہ نہ اپنے متبوع کا کل ہو نہ بعض۔ اور نہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہو بلکہ اس کا غیر ہو جیسے جَاءَ زَيْدٌ بِكُرٍّ یعنی زید آیا۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ لفظ زید غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا۔ اس لئے کہا کہ نہیں بلکہ بکرا آیا تھا۔ پس اس فقرہ میں لفظ بکر زید کا بدل ہے۔ یعنی بدل غلط ہے۔ کیونکہ پہلے غلط لفظ کے بدلہ میں یہ آیا ہے۔

(۱۰۱) سوال۔ اگر کوئی مبنی کلمہ رفع۔

نصب۔ جری یا جزم کے موقع پر آوے تو اسے کیا کہتے ہیں؟

جواب:

جواب۔ اگر کوئی مبنی کلمہ ایسے مقاماً

پر آوے جہاں مُغْرِبٌ کلمہ پر رفع آتا ہے تو اس لئے کہ وہ مبنی ہے اس کے آخری حرف پر رفع کی وجہ سے ضمہ کونہ لائیں گے لیکن یوں کہیں گے کہ یہ رفع کے موقع پر ہے۔ اسی طرح جو مبنی کلمہ نصب یا جر کے موقع پر آوے تو کوئی تغیر اس میں نہ ہوگا اس لئے اسے منصوب یا مجرور نہ کہیں گے۔ ہاں یوں کہیں گے کہ یہ نصب اور جر کے موقع پر ہے۔

(۱۰۲) سوال۔ حرف علت کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ حروف تہجی میں سے اَلْاَلِفُ۔

اَلْوَاوُ۔ اَلْيَاءُ۔ یہ تین حرف علت ہیں

باقی تمام حروف صحیح کہلاتے ہیں

(۱۰۳) سوال۔ مُغْرِبٌ اسم کے آخری حرف کی حرکت

قسم اسم	حالت رفعی	حالت نصبی	حالت جری
مثنیٰ	جَاءَ دَجَلَانِ	رَأَيْتُ دَجَلَيْنِ	مَرَرْتُ بِدَجَلَيْنِ
مشابہ بالمثنیٰ	جَاءَ اثْنَانِ	رَأَيْتُ اثْنَيْنِ	مَرَرْتُ بِاثْنَيْنِ
كَلَامًا	جَاءَ كِلَاهُمَا	رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا	مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا

(۳)

جمع مذکر سالم جیسے مُسْلِمُونَ۔ اور مشابہ بہ جمع مذکر سالم جیسے عَشْرُونَ اور لفظ اُولُو۔ ان تینوں کا رفع بصورت واؤ کے جس کا ما قبل مضموم ہو۔ اور نصب اور جر بصورت یاء کے جس کا ما قبل مکسور ہو۔ آتا ہے۔ نقشہ درج ذیل ہے۔

قسم اسم	حالت رفعی	حالت نصبی	حالت جری
جمع مذکر سالم	جَاءَ مُسْلِمُونَ	رَأَيْتُ مُسْلِمِينَ	مَرَرْتُ بِمُسْلِمِينَ
مشابہ بہ جمع مذکر سالم	جَاءَ عَشْرُونَ	رَأَيْتُ عَشْرِينَ	مَرَرْتُ بِعَشْرِينَ
اُولُو	جَاءَ اُولُو مَالٍ	رَأَيْتُ اُولِي مَالٍ	مَرَرْتُ بِاُولِي مَالٍ

(۴)

جمع مؤنث سالم کا رفع پیش کے ذریعہ جیسے جَاءَ لَكَ الْمُؤْمِنَاتُ نصب اور جر کے ذریعہ جیسے رَأَيْتُ الْمُؤْمِنَاتِ اور مَرَرْتُ بِمُؤْمِنَاتٍ۔

(۵)

أَبٌ۔ أَخٌ۔ هَمٌّ۔ فُوٌّ اور ذُوٌّ۔ جب یہ پانچ اسم یا مشتکلم کے سوا کسی اور کلمہ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا رفع بذریعہ واؤ کے آتا ہے جیسے جَاءَ اَبُوكَ۔ اور نصب بذریعہ الف جیسے رَأَيْتُ اَبَاكَ۔ اور جر بصورت یاء کے جیسے مَرَرْتُ بِاَبِيكَ

ختم شد

## ماخذ کی حقیقت اور اس کے معلوم کرنے کا طریق

اہل تصریف نے حروفِ الفاظ کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ اول اصل۔ و زاید۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو صرف حروفِ اصلی ہی سے مرکب ہیں۔ اور ان میں زاید حرف کوئی نہیں جیسے ضَرَبَ کہ لفظ صرف حروفِ اصلی ہی سے مرکب ہے اور زاید حرف اس میں کوئی نہیں۔ اس کے مقابل میں بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو حروفِ اصلی اور زاید دونوں سے مرکب ہیں۔ جیسے نَعَادَبْتُ۔ مَضْرُوبٌ۔ يَضْرِبُ تَضْرِبُ۔ يَضْرِبُونَ۔ تَضْرِبُونَ۔ کہ ان میں سے تین حرف ض۔ د۔ ب۔ اصلی ہیں۔ اور باقی زاید۔ حروفِ اصلی کو اہل تصریف ف۔ ع۔ ل۔ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً ض۔ ب۔ کی ض کو ووف۔ اور د کو عین۔ اور ب کو لام کہیں گے۔ اس اصول سے ناظرین یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے الفاظ خاص ف۔ ع۔ ل۔ اور دوسرے حروف سے مل کر بنے ہیں۔ ان میں سے سوائے ان تین حرف کے اور کل حرف زاید ہیں۔ مثلاً اِنْفَعَالٌ۔ اِسْتِفْعَالٌ۔ اِنْفِعَالٌ۔ اِفْتِعَالٌ۔ تَفْعِيلٌ۔ مَفَاعَلَةٌ۔ تَفَاعُلٌ۔ تَفَعُّلٌ۔ فَاعِلٌ۔ مَفْعُولٌ۔ میں ف۔ ع۔ ل۔ اصلی ہیں۔ اور باقی سب زاید۔

حروفِ اصلی ہی کا نام ماخذ بھی ہے۔ پس ماخذ اور حروفِ اصلی کے معلوم کرنے کا طریق ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس لفظ کا ماخذ معلوم کرنا ہو۔ اس میں اول یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس لفظ میں خاص ف۔ ع۔ ل۔ ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو ف۔ ع۔ ل۔ یعنی فعل اس کا ماخذ ہے اور باقی حروف زائد ہیں۔ اگر اس لفظ میں خاص ف۔ ع۔ ل۔ نہیں ہیں۔ تو اس کا مقابلہ اُس کے اس ہونے لفظ سے کرو۔ جو ف۔ ع۔ ل۔ سے مرکب ہو۔ پس جو حروف ف۔ ع۔ ل۔ کے مقابل میں ہوں وہ اصلی ہیں۔ اور جو ان تینوں میں سے کسی کے مقابل میں نہ ہوں بلکہ کسی اور ہی حرف کے مقابل

میں ہوں وہ زائد ہیں۔ مثلاً ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قَاتِلٌ کے حروفِ اصلی کیا ہیں۔ تو ہم اس کا مقابلہ اس کے ہوزن لفظ فاعِلٌ سے کریں گے جو ف۔ ع۔ ل۔ سے مرکب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں قاتِلٌ کا قاف فاعِلٌ کی فاکہ مقابل میں ہے اور ت عین کے۔ اور ل لام کے۔ پس معلوم ہوا کہ قاتِلٌ کے حروفِ اصلی اور اس کا ماخذ قَاتِلٌ کا لام یعنی قَاتِلٌ ہے۔ اور قاتِلٌ کا الف چونکہ فاعِلٌ کی فاعِلین لام تینوں میں سے کسی کے بھی مقابل میں نہیں ہے بلکہ اس کے الف کے مقابل میں ہے۔ اس لئے وہ زائد ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ لفظ مُسْتَبْصِرٌ کا ماخذ کیا ہے۔ تو ہم اس کا مقابلہ اس کے ہوزن لفظ مُسْتَفْعِلِينَ سے کریں گے جو قاعِلین۔ لام سے مرکب ہے۔ اس صورت میں چونکہ مُسْتَبْصِرٌ کی میم سین تے یاء۔ نون۔ مُسْتَفْعِلِينَ کی میم سین تے یاء۔ نون کے مقابل میں ہے۔ اس لئے یہ سب حروف زائد ہیں اور ب۔ ص۔ د۔ چونکہ ف۔ ع۔ ل۔ کے مقابل میں ہے اس لئے وہ اصلی ہیں۔ اور بَصْرٌ اس کا ماخذ ہے۔ یا مثلاً ہمیں لفظ يُنْفِقُونَ کا ماخذ معلوم کرنا ہے۔ تو ہم اس کا مقابلہ اس کے ہوزن لفظ يُفْعَلُونَ سے کریں گے۔ جو ف۔ ع۔ ل۔ سے مرکب ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں يُفْعَلُونَ کے فاعِلین۔ لام۔ کے مقابل يُنْفِقُونَ کا نون۔ فاعل۔ قاف ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا ماخذ نَفَقٌ ہے۔ اگر ہمیں اِسْتِكْبَادٌ کا ماخذ معلوم کرنا ہے تو ہم اس کا مقابلہ لفظ اِسْتِفْعَالٌ سے کریں گے۔ اور کَبْرٌ اس کا ماخذ کَابِئِنٌ کے

غرض اسی قاعدہ سے ہم اکثر الفاظ کا ماخذ نکال سکتے ہیں۔ ناظرین کو چاہیے کہ جس لفظ کو عربی لغاتہ میں دیکھنا چاہیں۔ قاعدہ مذکور کے مطابق اول اس کا ماخذ معلوم کریں۔ پھر اس کو اُس کے ماخذ کے تحت میں دیکھیں۔ مثلاً قَاتِلٌ کو قَاتِلٌ۔ مُسْتَبْصِرٌ کو بَصْرٌ۔ يُنْفِقُونَ کو نَفَقٌ۔ مَفْعُولٌ کو فَعْلٌ۔ مَقْتُولٌ کو قَتْلٌ۔ مَضْرُوبٌ کو تَضْرِبٌ۔ اِحْتَبُوا کو اِحْتَبُوا۔



(جو ہماری پیاری مذہبی و دینی زبان اور علوم اسلامیہ اور حقائق دینیہ اور معارف قرآنیہ کی مخزن ہے) مانوس کرنے کے لئے یہ بہترین طریق ہے۔

ایسا بھی اگر کوئی مدعی اسلام مسلمان قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے پڑھانے اور عربی زبان کی واقفیت ہم پہنچانے اور اپنی علمی استعداد اور لیاقت بڑھانے میں مستی اور غفلت کرے اور محض ٹھوٹے بہانوں سے تحصیل علم کے فریضہ کو ٹالتا رہے اور خود بھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے اور اپنی اولاد کو بھی محروم رکھے تو اس گناہ کا بار اس کی گردن پر ہوگا۔

امید ہے اس لغات سے استفادہ اور استفادہ کرنے والے اصحاب اردو فارسی علم و ادب میں حیرت انگیز ترقی کر جاویں گے اور مضمون نگاری اور تصنیف و تالیف کتب کا کام ان کے لئے فطرتی ملکہ کی موجودگی میں از حد سہل و آسان ہو جائے گا۔ مشرقی زبانوں کے حامل علم اور مولوی فاضل - منشی فاضل - ادیب فاضل یا مولوی عالم منشی عالم - ادیب عالم یا محض مولوی یا منشی یا ادیب کا امتحان دینے والے طلبہ اور طالبات کو اپنے امتحانوں کے نصاب کو خود بخود حل کرنے میں بہت کچھ مدد ملتی رہے گی اور مذکورہ بالا امتحانات کی عربی کتب یا عربی حصص کو بغیر مدد استاد سمجھنے اور ان کے پرچوں کی تیار ہی کرنے میں بہت سی سہولت میسر آ جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اس لغات کے خاتمہ پر عربی بول چال سکھانے اور اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے اسباق - قواعد اور قرینات (مشقیں) شائع کی جائیں گی۔ نیز حدیث شریف کی جامع کتاب تجرید الاحادیث کا ترجمہ بھی درج ہوگا یہ کتاب حضرت علامہ عبدالرؤف صاحب مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے جو حدیث شریف کی سینتالیس کتابوں کو سامنے رکھ کر مدون و مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب میں حروف تہجی کے مطابق دس ہزار احادیث درج ہیں اور صحاح ستہ - بخاری - مسلم - ابن ماجہ - ابوداؤد - ترمذی - نسائی اور موطا حضرت امام مالک اور سند حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی اکثر احادیث بھی اس میں آگئی ہیں۔ نیز یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ فقہ حنفیہ کی معتبر کتب پہلے چھوٹی جیسے قدوری پھر بڑی بڑی جیسے ہدایہ ہر دو جلد وغیرہ کے تراجم مع شرح بھی شائع کیے جاویں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

امید ہے کہ ہماری یہ لغات آپ فارین کرام کو سہل - آسان - اور نزدیک کے راستہ سے اس منزل مقصود تک پہنچا دے گی جس سے آپ علوم دینیہ معارف قرآنیہ حقائق حدیثیہ و فنون عربیہ کے پُرشوکت محل اور بام ارفع پر پہنچ جائیں گے اور آپ کے لئے دین اسلام کے علوم و فنون کا قرآن کریم کے حقائق و معارف کا حدیث شریف کے تراجم اور مطالب کا عربی زبان کی بول چال اور لغات اور محاورات کو سمجھنے کا کام نہایت

آسان ہو جائے گا اور نہ صرف آپ خود ہی ان علمی نعمتوں کو حاصل کر کے مالا مال ہو جاؤ بیگے بلکہ آپ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان روحانی نعمات اور آسمانی آلاء سے متمتع و مستفید بنانے کا موجب ہونگے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

اب ذیل میں بعض ضروری امور کا ذکر بطور تشبیہ کیا جاتا ہے۔ جن کو لغات کے مطالعہ کے وقت مد نظر رکھنا لازم ہے۔

(۱) ہم نے سہولت اور اختصار کی خاطر ماضی کو مادہ اور مأخذ اور رُوٹ اور لفظ مفرد قرار دے کر اس کے مضارع اور مصدر کا صیغہ بھی لکھ دیا ہے مادہ کے معنی مصدر ہی کئے ہیں اور مصدر کو مفعول مطلق کی صورت میں نصبی تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے خلاصۃً صرف کی مدد سے آپ تمام افعال کی گردا خود کر سکتے ہیں اور ماضی مضارع اور مصدر کے علاوہ ماضی مجہول۔ مضارع مجہول۔ فاعل۔ مفعول۔ امر اور نہی اسم آلہ۔ اسم تفضیل۔ ظرف زمان و ظرف مکان وغیرہ کے صیغوں کی گردانوں کے علاوہ قائب حاضر اور تکلم کی شناخت بھی کر سکتے ہیں۔ نیز آپ کو خلاصۃً النحو اور ”مادہ اور مأخذ کی حقیقت اور اس کے معلوم کرنے کا طریق“ کے مطابق (جو اس سے پہلے بتلایا گیا ہے) بطور مشق و امتحان بعض الفاظ عربی کا رُوٹ اور لفظ مفرد نکالتے رہنا چاہیے۔

(۲) حروف عاملہ کی وضاحت اپنے اپنے مقام پر خوب اچھی طرح مثالیں دے کر کی گئی ہے۔

(۳) اسماء جدیدہ و قدیمہ مشہورہ کا بھی جا بجا ذکر کیا گیا ہے اور طبی لغات بھی برائے استفادہ درن کر دی گئی ہے۔

(۴) (۱) ایک کلمہ کے لکھنے بعد و لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں صیغوں کے معنی ایک ہی ہیں یا اس اسم کی جمع دونوں طرح آتی ہے (۲) ج سے مراد جمع ہے اور ج جمع سے مطلب جمع الجمع ہے۔ (ث) سے مراد مؤنث اور مت سے مراد مؤنثی ہے۔ ہر مفرد اسم کے جمع کا صیغہ بھی لکھا گیا ہے لیکن معنی صرف مفرد کے بیان کئے گئے ہیں جمع کے معنی خود سمجھ لیں۔

(۵) دقیق عربی مشتقات اور الفاظ جو اردو فارسی میں مستعمل ہیں معانی سے لے کر یہ لکھ دیئے گئے ہیں آسان آپ خود حل کر لیں۔

(۶) اس لغات میں صرف وہی افعال۔ اسماء کے صیغہ درج ہیں جن کے اشتقاقی صیغے اور الفاظ اردو فارسی میں مستعمل ہیں یا پھر عربی زبان کی بول چال سکھانے کے لئے جن افعال۔ اسماء و حروف کے معانی بتلانے کی ضرورت پڑے گی انہیں بھی ذکر کر دیا گیا ہے وہ دقیق ترین لغات میں سے کسی کوئی مشتق صیغہ اردو یا فارسی میں استعمال نہیں ہوتا اور جو عام طور پر عربی زبان کی مراد کتاب میں بھی استعمال

نہیں ہوتی۔ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ ایسی لغات طالب علم کے دماغ پر بے فائدہ بار ہے۔  
(۷) کسی لفظ کے نکالنے وقت ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغہ کو مد نظر رکھیں باقی تمام زائد حروف  
کو نظر انداز کر دیں۔ تمام اسماء مشتقہ و جامدہ کو اسی کے ماتحت تلاش کریں۔

(۸) طب میں جو جو مفرد ادویات یا مرضوں کے عربی نام ہیں ان کی تشریح اور خواص بھی درج ہیں تاکہ  
طبی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔

(۹) ہمزہ یعنی متحرک آلف دونوں طرح لکھا جاسکتا ہے آیا آ اس لغات میں آیا ا کی شکل  
میں لکھا جائے گا۔

(۱۰) نئے عربی اسماء اور ذخیل الفاظ جو دوسری زبانوں (انگریزی فرانسیسی۔ ترکی۔ فارسی اور لاطینی  
وغیرہ) سے معرب کئے گئے ہیں۔ نیز علمی اصطلاحات بھی اپنے اپنے موقع پر مذکور ہیں۔

(۱۱) ہر مادہ اور ماخذ اور لفظ مفرد کے آسان اشتقاق جو اردو فارسی میں مستعمل ہیں ان کو آپ اپنے  
حافظہ پر زور دیکر نوڈ جمع کر سکتے ہیں۔ مشکل اور دقیق مشتقات سب کے سب لکھ دیئے گئے ہیں۔

(۱۲) جس جس حرف پر ذوا عراب ہیں یعنی زبر و زیر۔ پیش و زبر۔ زیر و پیش اس سے مراد یہ ہے کہ  
یہ حرف ہر ذوا عراب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔

(۱۳) ہر اسم کے آخر میں رفعی تنوین لکھی گئی ہے آپ وقف اور سکون کے ساتھ بھی پڑھا اور بول سکتے ہیں

(۱۴) صلوات افعال بعض افعال کا صلہ کہتے ہیں۔ جیسے ب۔ ل۔ مین۔ فی۔ الی۔ علی وغیرہ  
وغیرہ۔ مثلاً آمَنْتُ بِاللّٰهِ میں اللہ پر ایمان لایا ہُوَ یَمُنُّ عَلٰی عَدُوِّهِ۔ وہ اپنے دشمن پر احسان  
کرتا ہے ان مثالوں میں آمَنْتُ کے ساتھ ب اور یَمُنُّ کے ساتھ علی بطور صلہ استعمال ہوئے ہیں۔

زیر نظر لغات میں مصدر کے صیغہ کے بعد اکثر جگہ صلوں کے ساتھ معانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہی فعل  
کے ساتھ مختلف صلوں کے آجانے سے معانی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً قَالَ لِزَیْدٍ۔ اُس نے زید  
سے کہا قَالَ عَنْ زَیْدٍ۔ اُس نے زید سے روایت بیان کی۔ قَالَ بِكَذِّ اوہ اس بات کا معتقد ہوا قَالَ  
عَلٰی زَیْدٍ اُس نے زید پر بہتان باندھا۔ مَا تَقْوُلُ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ اس مسئلہ میں تمہاری کیا رائے  
ہے؟ اب دیکھ لو قَالَ کے فعل کے ساتھ صلوں کے بدلنے سے پانچ جگہ معنوں میں تبدیلی ہو گئی۔ پس اس  
بات کا خاص خیال رکھیں کہ صلہ کے آنے یا صلہ کے بدلنے یا ایک صلہ کے علاوہ دوسرے صلہ کے لانے سے  
افعال کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً رَغِبْتُ فِيْهِ اُس نے اس میں  
رغبت کی۔ رَغِبْتُ عَنْهُ اُس نے اس سے بے رغبتی کی۔

لغات میں جا بجا صلہ لاکر بدلے ہوئے معنوں کی تصریح کر دی گئی ہے خاص معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے بھی اکثر مصادیر کے بعد اس کا صلہ لکھ دیا گیا ہے جیسے اِحْسَانًا کے بعد اِلٰی احسان کرنا۔ اَلْعَمَلُ کے بعد عَلٰی انعام کرنا۔ بعض جگہ دو وصلوں کو اکٹھا لایا گیا ہے جو ایک ہی معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔

(۱۵) یہ لغات ہر ماہ کم از کم سولہ صفحات پر شائع ہوا کرے گی آپ ہر صفحہ کی لغات دو روز میں آسانی سے حفظ کر سکتے ہیں :- اگر آپ دو روز میں فرصت اور فراغت کے وقت ایک صفحہ پر سرسری نظر بھی ڈال دیا کریں تو بھی کافی علمی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

(۱۶) اب ایک آخری تشبیہ سمجھئے یا گزارش یہ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی ہمت اور کوشش جو صلہ اور جدوجہد کے مطابق اس رسالہ کی اپنے حلقہ اثر میں زیادہ سے زیادہ اشاعت فرما کر مرتب رسالہ کی جو صلہ افزائی فرمادیا اور اللہ پاک کے حضور سے اس مخلصانہ خدمت کا ثواب کثیر و اجر جزیل حاصل کریں۔ جو اَللّٰهُ تَعَالٰی احسن الجزاء (

الملتس لطیف شاہد

اَحِبُّوْا الْعَرَبَ لِثَلَاثِ لَآئِنِ عَرَبِيٍّ وَالْقُرْآنِ عَرَبِيٍّ وَكَلَامِ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٍّ

(جملہ حقوقی نقل جزو آیا کلاً محفوظ ہیں)

آ - ع - کیا - خواہ - بھلا - الف کی دو قسمیں ہیں اگر ساکن ہو تو اُسے حرفِ لَیْن کہتے ہیں جیسے قَامَر کا الف اگر متحرک ہو تو اس کو ہمزہ کہتے ہیں۔ ہمزہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) ہمزہ استخبار جس سے کسی چیز کے متعلق کوئی خبر دریافت کی جائے خواہ بصورتِ استفہام یعنی بطور سمجھنے کے ہو جیسے اَقْرَأْتُ رَکِیَا تُوْنِے پڑھا ہے (

یا اَتَجَعَلَ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا) کیا تو زمین میں اس کو ظیئہ بنا بیگا جو اس میں فساد برپا کرے بقرہ ۳۰ (۲) بصورتِ تہدید یعنی زجر و توبیخ کے لئے جیسے اَلْعَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ يٰوَسَّۤیٰ کیا اب تو یہ بات کہتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کر چکا ہے) (۳) تشویہ یعنی دو چیزوں کے درمیان برابری قائم کرنے کے لئے

وَآذَنُوْهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بقرہ ۱۷ تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لئے برابر ہے اس لئے وہ ایمان نہیں لائینگے یہ اَمْسَدُ كَرْمٌ مِّنْ دَرَاهِمٍ (۴) اِسْتَهْزَاۤءٌ یعنی تمسخر اور استهزاء یا ہنسی مذاق اور دل کی گتے کے طور پر جیسے اَصْلُوْا تِلْكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَشْرُكَ مَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا هُوَ (۵) کیا تیری ماں تجھے حکم دیتی ہے کہ تم چھوڑ دو اس کو جسکی عبادت کرتے تھے ہمارے بزرگ (۵) اِسْتَبْطَآءٌ یعنی ڈھیل یا ہلٹ دینے کے لئے جیسے اَلْمُرْيَانُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ سَدِيدًا کیا نہیں آباد



ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کہ عاجزی کریں اور ڈر جاویں ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے۔ وغیرہ وغیرہ تفصیل  
..... کتاب لغات القرآن المجید بطرز جدید الموسوم بہ سبیل الفرقان المجید میں ملاحظہ کریں۔

ف۔ متحرک الف یا ہمزہ دونوں طرح لکھا جاسکتا ہے یعنی آ اور ع کی شکل میں۔  
آ اور آ۔ حرف نداء قریب کے لئے یا الگ حرف نداء (کسی کو افسوس کے ساتھ یاد کرنا) بھی استعمال ہوتا ہے  
آبَجَد۔ لغت میں حساب جمل کے آٹھ مشہور کلمات جو حسب ذیل ہیں:-  
آبَجَد۔ هَوَزُ حَطِيٍّ۔ كَلَمَن۔ سَخَقَص۔ قَرَشَتْ۔ تَخَذُ۔ ضَطَّغ۔ ان اعداد کی  
ترتیب حسب ذیل ہے:-

ا ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت  
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰

ث۔ خ۔ ذ۔ ض۔ ظ۔ بیغ ناموں وغیرہ کی تاریخیں انہی اعداد کے مطابق نکالی جاتی ہیں۔

اَبَدٌ يَأْبُدُ اَبُوْدًا۔ ٹھہر جانا۔ رہ پڑنا۔ یا اقامت کرنا کسی جگہ یا مقام پر۔ اَبَدٌ کسی چیز کو دائمی  
کر دینا یا ہمیشہ رکھنا۔ اَبَدٌ جمع اَبَادٌ وَاَبُوْدٌ لانہا زمانہ۔ ہمیشہ رہنے والا زمانہ۔ مستقبل میں غیر معین زمانہ  
اَبَدٌ اَلْاَبَادِ۔ ہمیشہ ہمیش کے لئے۔ اَبَدِيَّةٌ ہمیشگی۔ دوام۔ آخرت۔ اَبَدِيٌّ ہمیشگی والا۔ ہمیشہ رہنے والا  
اَبُوْكَه۔ یمن کا ایک بادشاہ جو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لئے نکلا اور مکہ شریف کے قریب مح لشکر ہلاک ہو  
گیا جس کے لشکر کو اَضْعَابُ الْعَقِيْلِ کے نام سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھو سورہ الفیل پارہ عشر۔

اَبُوْدِيٌّ۔ فالص اصل اور کھرا سونا۔  
اَبْرِيْسَمٌ۔ ریشم۔ ریشمی کپڑا  
اَبْرُوْهِيْمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔  
اَبُوَيْقٌ جمع اَبَارِيْقٌ۔ قبضے والا لوٹا۔ آفتاب  
اَبَا شَّةٌ۔ مخلوط جماعت یا گروہ۔  
اَبَا بِيْلٌ۔ جھنڈ کے جھنڈ۔ ڈاروں کے ڈار۔ غول کے غول  
اَبْلِيْسٌ۔ شیطان۔ ابلیس۔  
اَبُوٌّ جمع اَبْنَاءٌ وَاَبْنَاؤُنَ۔ بیٹا۔ لڑکا۔  
اَبْنَةٌ۔ اَبْنَةٌ جمع اَبْنَاةٌ۔ بیٹی۔ لڑکی  
اَبْنَةٌ۔ عیب۔ شرمناک عادت مَأْبُوْتٌ۔ شرمناک عادت والا

اَبْنُوْسٌ۔ آبنوس۔ ایک سخت و سیاہ لکڑی والا درخت  
اَبْهَةٌ وَاَبْهَةٌ۔ بزرگی۔ غرور۔ کبر۔ نخوت۔ شان و  
شکوت۔ خوبصورتی۔ چمک۔  
اَبٌ جمع اَبَاءٌ۔ باپ۔ والد۔ ایجاد کرنے والا۔ اصلاح کرنے والا  
اَبُوَّةٌ۔ باپ ہونا۔  
اَبَائِيٌّ۔ جسکی نسبت باپ دادا سے ہو جیسے آبا ئی پیشہ  
وغیرہ۔

اَبُوٌّ۔ اَبَا۔ اَبِيٌّ۔ حروف علت کے ساتھ باپ کے لئے آتا ہے  
اَبِيٌّ يَأْبِي اَبَاءً اَوْ اَبَاءَةً سخت انکار کرنا۔ ناپسند کرنا  
نا منظور کرنا اَبَاءٌ۔ ناپسندیدگی۔ نارضا مندی۔ غرور۔

اَنْیَ یَاتِیْ اِثْبَاتًا اَنْابَ کَے صلہ لانا۔ اَنْیَ۔ آنے والا  
 اَنْابَکَ۔ امیر سرور۔ اَنْابِق۔ ادب کھلانے والا۔  
 اَنْوَجٌ وَّ اَنْوَجٌ وَّ اَنْوَجٌ۔ لیوں۔ نارنگی چکوتہ  
 مَأْتَمٌ۔ غم کی مجلس۔ فونپگی۔ اکٹھا ہونے کی جگہ یا تم کا جمع۔  
 اَنْیَ یُوْتِیْ اِیْتَاءً۔ دینا۔ عطا کرنا۔ بخشش دینا  
 اَنْابِقٌ۔ مرقی۔ ٹیوٹر۔  
 اَنْوَجٌ۔ استنی  
 اَنْابٌ۔ گھریلو ساز و سامان۔ گریستی مال و اسباب  
 اَنْابَةٌ۔ مال و سامان منقولہ۔  
 اَنْوَرٌ یَأْتِرُ اَنْوَرًا۔ عزت کرنا۔ احترام کرنا۔ ماننا  
 اَنْوَرٌ یَأْتِرُ اَنْوَرًا وَّ اَنْوَرًا۔ بیان یا نقل کرنا  
 اَنْوَرٌ کے صلہ سے۔ نشانات چھوڑنا۔ اثر کرنا۔ تاثیر کرنا  
 اَنْوَرٌ اِیْتَادًا۔ ترجیح دینا۔ پسند کرنا۔ فضیلت دینا۔  
 اکرام و عزت کرنا۔ پیچھے لگانا۔ چُن لینا۔  
 اِشْتَا اَنْوَرٌ کے صلہ سے۔ ترجیح دینا۔ چُننا۔  
 تَأْتِرٌ۔ کسی کی پیروی کرنا۔ قدم بقدم چلنا۔  
 اَنْوَجٌ اِشَادٌ۔ نشان۔ علامت۔ اثر۔ تیسرک۔  
 روایت حدیث شریف کی۔ منقولہ۔ یادگار۔ کھوج۔  
 اَلْاِشَادُ التَّدْرِیْمَةُ۔ پرانی یادگاریں۔ تَأْتِرٌ اَنْوَرٌ قبول کرنا  
 تَأْتِرٌ۔ اثر کرنا۔ مؤثر۔ اثر کرنے والا۔  
 مَتَأْتِرٌ۔ جو اثر قبول کرے۔  
 کَأَنْوَرٌ۔ نقل شدہ۔ حدیث شریف میں آیا ہوا۔  
 مَأْتِرٌ۔ شاندار عمدہ کام۔ قابل یاد واقعہ۔  
 اَنْیَبٌ۔ ایضاً  
 اَنْیَبٌ۔ جھاؤ کا درخت۔ پھرواں (پنجابی)

اَنْوَرٌ یَأْتِمُرُ اِثْمًا وَّ مَأْتِمًا۔ گناہ کرنا۔ جرم کا  
 از نکاب کرنا۔ ناجائز کام کرنا۔  
 اِثْمٌ جمع اِثْمٌ۔ گناہ۔ جرم۔ قصور  
 اِثْمٌ وَّ اِثْمٌ۔ گناہگار۔ مَأْتِمٌ۔ خطا کاری  
 گناہ جرم  
 اَنْیَبٌ یَأْتِجُ اِجْبِیْجًا۔ جلنا۔ شعلہ مارنا  
 اَنْیَبٌ جمع اِجْبِیْجٌ۔ گرمی۔ جوش۔ آگ (پنجابی داگ)  
 جیم کاف سے بدل جاتی ہے جیسے آجکل مروجہ عربی میں  
 فَوْقَ الْجَبَلِ کی جگہ فَوْقَ الْکَبَلِ ہتے ہیں۔ یا  
 جِبِلان۔ گیلان بن گیا ہے۔  
 یَأْتِجُ مَأْتِجًا۔ دو طاقتور قومیں جن کا ذکر  
 قرآن مجید اور بائبل میں ہے یعنی روس اور برطانیہ  
 واءیکہ ان کے مورث اعلیٰ کے نام پر ان قوموں کا نام رکھا  
 گیا ہے۔ نیز یہ دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں یعنی روس و امریکہ  
 آگ سے کام لینے والی ہیں اس لئے بھی یا جج ماہوج کہلا گیا  
 اَنْیَبٌ یَأْتِجُ اِجْبِیْجًا وَّ اِجْبِیْجًا عُلَى کے صلہ سے انعام  
 دینا۔ مزدوری دینا۔ کر کے پر دینا۔ ادا کرنا۔ بدلہ دینا  
 اِشْتَا جَدٌ۔ مزدور بنانا۔ کرایہ پر لینا۔  
 اَنْیَبٌ جمع اَنْیَبٌ۔ بدلہ معاوضہ  
 اَنْیَبٌ وَّ اَنْیَبٌ وَّ اَنْیَبٌ۔ روزی۔ تنخواہ۔  
 مُسْتَأْتِجٌ۔ اِجْبِیْجًا۔ یعنی ٹیکہ پر لیٹا زمین وغیرہ۔  
 مُسْتَأْتِجٌ۔ مزارع۔ مُسْتَأْتِجٌ۔ مزدور۔ کرایہ پر  
 لیا ہوا مکان۔ زمین وغیرہ۔  
 اَنْیَبٌ۔ مزدور۔ نوکر۔ اُجْرٌ۔ اجرت پر کام کرنے والا۔  
 اَنْیَبٌ۔ آلو بخارا کا درخت۔ ناشپاتی۔

أَجَلَ يَأْجِلُ أَجَلًا - تاخیر کرنا۔ دیر کرنا۔

أَجَلَ - مبعاد مقرر کرنا۔ بہلت دینا۔

تَأْجَلٌ - بہلت مانگنا (ادائیگی کے لئے)

إِسْتَأْجَلَ - مدت یا مبعاد طلب کرنا

أَجَلٌ - ہاں۔ بیشک۔ یہ لفظ حرف جواب کہلاتا ہے۔

اور نَعَم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

أَجَلَ جَمْعُ أَجَالٍ - انسانی زندگی کی مدت۔ عمر کا فائدہ

أَجَلَ - سبب۔ وجہ۔ دلیل۔ مِنْ أَجْلِكَ تیری خاطر

تیری وجہ سے۔

الْأَجَلُ وَالْأَجَلَةُ - آئندہ زندگی۔ آخرت۔ دیر سے

آنے والا۔

أَجَلًا أَوْ عَاجِلًا دیر سے یا جلدی۔ مَوْجَلٌ جسکی

مبعاد یا مدت مقرر ہو۔

أَجَمٌ وَأَجَمَةٌ أَجَمٌ وَأَجَمَةٌ جَمَلٌ - جنکلی۔ درختوں کا

أَحَدٌ وَوَحْدٌ - ایک ماننا۔ ایک جاننا۔ ایک ہونے کا اعلان کرنا

اتَّحَدَ - الگ ہو جانا۔ اکبلا رہ جانا۔

اتَّحَدَ بِ - کسی کے ساتھ مل جانا۔ متحد ہو جانا۔

أَخَذَ جَمْعُ أَحَادٍ مَوْتٌ إِحْدَى - ایک۔ اکائیاں

يَوْمَ الْآخِرِ - اتوار۔ یکشنبہ

اتَّحَادٌ - ملاپ۔ رضا۔ أَحَدِيَّةٌ - توحید یکتائی و خدا

أَخٌ - آخ۔ افسوس۔ اُف - نفرت یا تکلیف کے اظہار کا

أَخَذَ يَأْخُذُ أَخْذًا - لینا۔ قبضہ میں لانا۔

أَخَذَ مَوْأَخَذَةً بِ يَأْخُذُ بِ يَأْخُذُ بِ يَأْخُذُ بِ - کسی بات پر

سزائش کرنا۔ ملامت کرنا۔ عتاب کرنا۔ گناہ کی سزا دینا۔

اتَّخَذَ - کر دینا بنا دینا کسی چیز پر قبضہ کر لینا بہت چیزوں

ایک کو پسند کر لینا۔

أَخَذَ - گرت۔ سزا۔ أَخَذَ - اعضاء کی بجے یا پیوستگی۔

مَأْخُذٌ جَمْعٌ مَأْخِذٌ - وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز لی گئی ہو۔

منبع۔ کان۔

أَخَّرْتُ أَخْيَرًا - پیچھے رکھنا۔ ملتوی کرنا۔ پیچھے ڈالنا

دیر میں کرنا۔ دیر لگانا۔

تَأَخَّرَ وَاسْتَأْخَرَ - پیچھے رہ جانا۔ دیر لگا دینا۔

أَخْرَجَ جَمْعُ أَخْرَاجٍ مَوْتٌ أَخْرَى جَمْعُ أَخْرٍ

أَخْرِيَاتٌ - اور۔ ایک اور۔ دوسرا۔ دیگر۔ اس کے

سوا۔ دوسری۔

أَخْرَجَ أَوْ أَخْرَجَ - آخر۔ انجام۔ سیرا۔ اختتام

أَخْرَجَ - اخیر مد۔ انجام۔ قیام۔ يَوْمَ الْآخِرَةِ - قیام

إِلَى الْآخِرَةِ (در الخ) آخر تک۔ ختم تک علیٰ ہذا القیاس وغیر

أَخْرَوِيٌّ - منسوب بہ آخرت۔ أَخْيَرٌ سَبَّ بَعْضُ بَعْضٍ

أَخْيَرًا - انجام کار۔ اخیر پر۔ بِالْآخِرِ

مَوْخَرٌ - بچھلا حصہ پیچھے چھوڑا ہوا۔ آخری حصہ جہاز کا۔

مَتَأَخَّرَ - پیچھے رہ جانے والا۔ دیر لگانے والا۔ سست بچھڑی

أَخِيَاءُ أَخْوَةٌ - دوست یا بھائی یا بہن بن جانا

بھائی چارہ ہونا۔

أَخِي مَوْأَخَاةٌ وَإِخَاءٌ کسی کے ساتھ برادرانہ سلوک

بھائی چارہ کرنا۔ دوست یا بھائی بننا۔ إِخْوَةٌ جَمْعٌ شَمْسِيٌّ

ہمہمنوں میں سے دسواں ہمینہ ہے جس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہما بحرین مکہ اور انصار مدینہ کے

درمیان مَوَاطِنَ یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اور ایک

ہما جراور۔ ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا

اگر پاکستان میں آپ کے اس اُسوۂ حسنہ پر عمل ہوتا

آذی۔ تَأْدِیۃً رالی۔ پہنچانا۔ ادا کرنا۔ واپس کر دینا  
(کسی کا حق)

تَأْدِیۃً بِہِ مِنْ حَقِّہِ۔ اس نے اس کا حق ادا کر دیا  
آذاع۔ فرض کی ادائیگی کسی پوجید یا ذمہ داری کو ادا کر دینا  
تکمیل۔ مکمل کر دینا

راذ۔ تب۔ جبکہ۔ گزشتہ زمانہ کے لئے ظرف زمان ہے۔  
إِذْ ذَٰلِكَ۔ چنانچہ۔ لہذا۔ اذاً۔ جب۔ اچانک ناگہان  
اگر زمانہ مستقبل کا ظرف ہے۔ اس صورت میں جب  
اس کے بعد ماضی مطلق ہو۔ اذاً اور اذت۔ اس صورت  
میں۔ لہذا اس وقت۔ تب۔

آذذیون۔ سورج کی کھمبے کا پودا۔ اذت۔ آفتاب پرست۔  
اذا۔ دو فعلوں کو جزم دینا اور شرط کے معنی دینا ہے  
جیسے اذما۔ تقم۔ اگر تو کھڑا ہوگا تو میں بھی  
کھڑا ہوں گا۔

آذن یا ذن آذنا رالی ول۔ کان کتنا۔ وحیان۔ سننا  
آذن اذتائی۔ کسی کام کی اجازت دینا  
دینا یا رو کرنا۔ جائز قرار دینا۔

آذین۔ کسی بات کا علم ہونا۔  
آذن۔ اذان دینا۔ اعلان کرنا۔

آذن اذنا ہا۔ اذنا ہا۔ اذنا ہا۔ اذنا ہا۔ اذنا ہا۔  
اشتاذن۔ حضرت یا اجازت مانگنا علی  
اندرائے کی اجازت مانگنا۔

تآذن۔ قسم کھانا۔ آگاہ کرنا۔ پ ڈرانا۔  
اذن۔ اجازت۔ رخصت۔ آذن ج اذات۔ کان  
لوٹے کا دستہ۔

تو کسی قسم کے جھگڑے پیدا نہ ہوتے۔ اس سے ثابت  
ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی آسمانی مصلح اور ربانی راہنما کی  
اشد ضرورت ہے جو ان میں دوبارہ زمانہ نبوی جیسی موافقہ  
پیدا کر دے۔

آخ۔ اخذہ۔ اخوان۔ بھائی۔ دوست۔ ساتھی  
شریک۔

أخوت۔ اخوات۔ بہن۔ بہیلی۔ ہمیشہ۔ خواہر  
آخوز۔ اسطیل

آذت۔ یادب آذیا۔ خوب پڑھا لکھا ہونا۔ باسلیقہ  
شائستہ ہونا۔ اچھا تربیت یافتہ ہونا۔ دانشمند ہونا۔  
آذت۔ اچھی تعلیم دینا۔ ادب پڑھانا۔ عمدہ تعلیم و تربیت کرنا۔  
سزا دینا۔ اصلاح کرنا۔

تآذت۔ اچھی تربیت پانا۔ ہنڈ ہونا۔ ادب پڑھنا۔  
آذت۔ آذاب۔ خوش اخلاقی۔ سلیقہ۔ عمدہ روش  
ادبی مشاغل۔ تہذیب۔ شستگی

علم الآذت۔ زبان دانی کا علم۔ علم لغت و صرف و معانی  
و بدیع وغیرہ۔

آذاب۔ علوم و معارف۔  
تآذیب۔ سزا۔ ادب کھلانا۔ اخلاقی تعلیم دینا۔ اصلاح۔

آذیب۔ آذبا۔ عالم فاضل۔ زبان دانی کا علم رکھنے  
والا۔ دانا۔ خوش اخلاق۔ مؤذیب۔ پیر۔ معلم۔ ٹیوٹر۔  
آذمر۔ انسانوں کا پہلا باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنس کے  
افراد پر بھی بولا جاتا ہے۔ گندمی رنگ والا گندم گوں۔

آذعی۔ منسوب بہ آدم۔ آدمی۔ آدمیۃ۔ انسانیت  
شرافت۔

أَذِنُ الْقَارِءِ - پڑھنے والی۔ مرزنجوش یا مرزنگوش۔  
 أَذَانٌ - بانگ نماز کے لئے۔ مَوَازِنٌ - بانگ دینے والا  
 مَرْدَانَةٌ مَا ذَمَّتْهُ جِ ذَنْ - منارہ۔ اذان دینے  
 کا جگہ۔ مَوَازِنٌ

أَذَى يَأْذِي أَذَى - تکلیف پانا۔ ضرر پانا۔  
 تَأْذَى مِنْ تَكْلِيفِ أَهْطَانِ - نقصان برداشت کرنا۔

اذ بتا و ضرر اٹھانا۔

أَذَى وَ أَذِيَّةٌ وَ أَذَاةٌ - غمخوار نقصان۔ غمخوار ضرر یا  
 غمخوار نقصان وہ۔ ضرر رساں۔ دکھ دینے والا۔

أَذَى بِنَا يُوْب - یورپ کا باشندہ  
 أَذَى وَ أَذَى جِ أَذَابٌ - حاجت۔ مدعا۔ اذیت  
 عقلمندی

أَذَى بِنَا - ہنرمند۔ ڈیرک۔ وانا۔ ماہر۔ ہوشیار۔  
 أَذَى بِنَا - ورتہ۔ ترکہ

أَذَى بِنَا - سرخ رنگ کا پھول۔ ارغوان کا درخت سرخ رنگ  
 أَذَى بِنَا - تاریخ معین کرنا۔ تاریخ کی کتاب (ہسٹری) لکھنا  
 أَذَى بِنَا جِ تَوَارِيخٌ - عید۔ سن۔ علم تاریخ۔ کسی واقعہ  
 یا خط کی تاریخ معینہ کا کوئی دن۔ سالانہ سرگذشت۔

أَذَى بِنَا جِ - تاریخ لکھنے والا۔ واقعات کا بیان کرنے والا  
 مَوَازِنَةٌ - تاریخ دیا ہوا (کوئی واقعہ) عِلْمُ التَّارِيخِ  
 علم واقعات و حوادث معان کے وقوعہ کے اوقات  
 اور تاریخوں کے تَارِيخِيٌّ - تاریخی

أَذَى بِنَا - دیودلہ یا صنوبر کا درخت آذری۔ چاول  
 أَذَى جِ أَذَى - زمین۔ کرہ خاک۔ سطح زمین  
 أَذَى جِ - زمین۔

أَذَى جِ وَ أَذَى جِ - آرگن۔ ایک باجہ کا نام جس کو  
 حکیم افلاطون نے ایجاد کیا تھا۔ اب اصطلاح کے طور  
 پر کسی جماعت کا قومی آرگن یا اس قوم کی آواز۔ اس کا  
 قومی اخبار یا گزٹ کہلاتا ہے اس باجہ کے اندر آدمی بیٹھ کر  
 گایا کرتا ہے اور اس سے آواز نکلتی تھی۔ یہی حال قومی اخبار  
 کا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہوا آواز نکلتی ہے وہ اس قوم  
 کی آواز سمجھی جاتی ہے۔

أَذَى جِ أَذَى جِ - اونچا مزین تخت یا پتنگ۔  
 دہن کی مسند یا بیٹھنے کی جگہ۔

أَذَى جِ وَ أَذَى جِ - البانیہ میں رہنے والی مسلمانوں  
 ایک جنگجو قوم کا نام ہے جس کے بعض افراد دمشق شام  
 میں معزز فوجی عہدہ دار ہیں

أَذَى جِ - شہر عدا۔ نام قبیلہ۔ ایک باغ جس کو شہزاد نے  
 ملک شام میں بنایا تھا

أَذَى جِ أَذَى جِ - خرگوش۔  
 مِثْرَابٌ - پر نالا۔ پانی کی نالی۔ بند رو

أَذَى جِ - ازار بند باندھنا۔ اپنے آپ کو ازار (تہ بند) سے بھرا  
 لینا۔ آذری۔ مدد۔ مکر۔ تقویت اذاریتہ بند۔ لمبی چادر۔ اردو  
 میں شلوار اور پاجامہ پر بولا جاتا ہے۔

أَذَى جِ - حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ یا چچا نابخ کا نام  
 أَذَى جِ أَذَى جِ - آذری۔ قریب آجانا۔ نزدیک آجانا۔  
 يَوْمُ الْأَذَى جِ - قیامت کا دن۔

أَذَى جِ وَ أَذَى جِ - وہ زمانہ جس کی ابتداء نہ ہو جیسے  
 ابد وہ زمانہ جسکی انتہا نہ ہو آذری قیدی۔  
 إِذَى جِ - سامنے مقابل۔ آگے۔ یازاریہ آگے آسنے سامنے  
 یا بالمقابل۔ یا آگے آگے۔



اشْتَمَّةٌ۔ ایک خوشبودار گھاس جو کاہی کی طرح ہوتی ہے اور  
بیل کے درخت کی بڑوں اور پتھروں میں پیدا ہوتی ہے  
پھڑیلہ بوتیلوں میں استعمال ہوتا ہے۔

أَصْلٌ بِأَصْلِ أَحْصَالَةٍ۔ مضبوطی سے جڑھ پکڑنا۔  
شریف الاصل ہونا۔ سمجھ کا پختہ ہونا۔

إِسْتَأْذَنَ لِإِسْتِئْذَانٍ۔ جڑھ سے اُکھیڑ ڈالنا۔  
أَصْلٌ جِ اسْوَلٌ۔ جڑھ۔ اصلیت۔ قاعدہ حسب نسب  
خاندان۔ اصول۔ بنیادی و ابتدائی امور۔

مَا فَخَلْتَهُ أَصْلًا۔ میں نے اس دکام کو قطعاً نہیں کیا  
شَرِيفٌ الْآدِلُ۔ اچھے خاندان والا۔

أَصْبَلٌ۔ شریف خاندان۔ شام کا وقت پچھلا پھر۔  
أَصْلَةٌ۔ یعنی کبیل کے بغیر خود لین دین کرنا۔  
أَذَى۔ ہم فعل بمعنی میں ناپسند کرتا ہوں۔ بیقرار ہوتا  
ہوں کسی کی حقارت کرنے کے موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا  
ہے۔ كَتُوْهُنَّو۔

يَأْفِيحُ۔ تالو۔ وہ حصہ سر جو بچپن میں نرم و سحرک ہوتا ہے  
إِفْرَاجٌ وَرَافِعَةٌ۔ یورپین۔ فرنجی۔ قوہ چچی۔ یورپ  
کا رہنے والا۔

إِسْتِثْنَاءٌ۔ نسبتیں جو امراض جگر اور معدہ و مرق  
میں استعمال ہوتی ہے مجل اور ام باطنی ہے اور سخت کرطوی وانی ہے  
أَفُقٌ جِ أَفَاقٌ۔ کنارہ آسمان جو زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے  
آفاق۔ بہت سفر کرنے والا۔ سیراج۔

أَفْكَاءٌ يَأْفِكُ إِفْكَاءً۔ جھوٹ بولنا۔ بہتان باندھنا۔ کسی پر  
جھوٹی تہمت لگانا۔ إِفْكَاءٌ۔ جھوٹ۔ بہتان۔ بناوٹ۔  
أَفْكَاءٌ۔ بہت جھوٹا۔ مَوْثِقَاتٌ۔ وہ بستیاں جن کو اشد  
سختی سے بندھا کر رکھا گیا۔

أَفِيُونٌ۔ افیم یا افیون۔ جو خشک اس کے پودہ سے حاصل  
ہوتی ہے اور نشہ آویزاور نیند لانے والی دوا ہے اہمال  
وغیرہ کو روکنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

أَقَافِيَاً۔ کبک کے درخت کا جو مالس اور خشک کرنے والی  
دوا ہے

أَقْوَانٌ۔ گل بابونہ جسے نیل میں شامل کر کے تحلیل اور ام  
کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

أَكْدٌ۔ وَوَكْدٌ۔ پختہ کرنا۔ مضبوط اور پکا کرنا مَوْكَدٌ کرنا  
تَاكِدٌ مضبوط ہونا۔ تصدیق شدہ ہونا مَوْكَدَةٌ پختہ کی  
اَكِيدٌ۔ پکا یقینی۔ محکم۔ تَاكِيدٌ۔ پختہ کرنا۔ زور۔ وثوق۔

أَكَلٌ۔ يَأْكُلُ آكَلًا۔ کھانا۔ فنا کرنا۔ خرچ کر ڈالنا۔  
أَكَالٌ۔ بہت کھانے والا۔ پیٹو۔ مَأْكُولٌ جِ مَأْكُولَاتٌ  
کھانے کے لائق چیز۔ خوراک۔ جو کھا یا جائے۔

أَكْلٌ۔ پھل۔ خوراک۔ أَكْلَةٌ۔ لقمہ۔ نوالا۔

أَكَلَةٌ۔ گلانے والا زخم۔ گوشت کھانے والی مرض  
آل۔ حرف تعریف۔ اسم نکرہ کو معرفہ بنانے والا حرف۔ آل  
تین قسم پر ہے (۱) عہدی جیسے إِشْتَرَيْتُ عَبْدًا ثُمَّ  
بِعْتُّهُ الْعَبْدَ میں نے غلام خریدا۔ پھر اس غلام کو بیچ دیا  
(۲) جنسی۔ جیسے خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا۔ انسان  
مذکور پیدا ہوا ہے۔ (۳) بمعنی اسم موصول یہ اسم فاعل  
اور اسم مفعول کے شروع میں آتا ہے۔

أَلَا۔ خبردار۔ کیا ایسا نہیں ہے یہ حرف یا تو تنبیہ کا کام  
دیتا ہے جیسے أَلَا يَا صَاحِبَ قُمْرٍ۔ خبردار اے دوست کھڑا  
ہو جا۔ یا عرض کا۔ جیسے أَلَا تَنْزِلُ بِنَا كَيْتُ آبِ هَارِ  
پاس نہیں اترینگے یا تخصیص کا جیسے أَلَا تَتَّوَبُ وَتَرْتَدُ  
عَنْ عَيْتِكَ۔ خبردار توبہ کر اور گمراہی سے باز آ جا۔

آلَا أَنْ لَا - یہ کہ نہیں۔ یہ حرف تخصیص کا کام دیتا ہے  
جیسے آ لَا تُكْرِمُوا أَبْوَابَكُمْ۔ کیوں تو والدین کی عزت  
نہیں کرتا؟

لِئَلَّا - تاکہ نہ۔ مبادا کہ

آلَا۔ بجز اس کے۔ مبادا۔ علاوہ ازیں۔ مگر حرف  
استثنا ہے جیسے جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا۔ زید کے  
سوا سب قوم آئی۔ صفت یعنی غیر لُجَّ رِجَالٌ إِلَّا  
وَجَالِكَ مِيرے آدمی تیرے آدمیوں کے علاوہ ہیں نفی  
کے بعد حصر کا کلمہ جیسے مَا ضَرَبَ إِلَّا ذَيْدٌ صرف  
زید نے ہی مارا۔

الَّذِي وَاحِدٌ وَالَّذَانِ تثنیه الَّذِينَ جمع الَّتِي  
وَاحِدَةٌ وَاللَّذَانِ تثنیه۔

الَّتِي وَ الَّتِي جمع مؤنث یہ سب اسم موصول کے صیغے ہیں  
جو۔ جس کو۔ جس کا۔ وہ جو۔ جو چیز۔ جو شے کے معنوں میں  
أَلِفٌ يَأْلَفُ الْفَأَ۔ اُس کرنا محبت کرنا۔ خوگر ہونا  
أَلَفَ بَيْنَ مَنْتَفِقٍ وَمَقْدَرٍ۔ باہم ملا دینا۔ دوست بنانا  
أَلَفَ الْكِتَابَ۔ کتاب جمع کرنا۔ تالیف و تصنیف کرنا  
مَوْلَفٌ۔ جوڑنے والا۔ اطلاق کرنے والا۔

أَلْفٌ وَ أَلْفَةٌ۔ دوستی محبت۔ أَلِيفٌ۔ دوست۔  
إِيْلَافٌ۔ عہد نامہ۔ اجازت۔ اِئْتِلَافٌ۔ دوستی ہوا  
أَلْفٌ أَلْفٌ وَأَلْفٌ۔ ہزار۔

تَأْلِيفٌ۔ کتاب مجموعہ۔ مَا لَوْفٌ۔ پیارا۔ واقف  
مَوْلِئَةٌ۔ تالیف کی ہوئی (کتاب)

مَلَكٌ مَلَائِكَةٌ۔ فرشتہ۔ فرشتے

أَلَمْ يَأْلَمْ أَلْمًا۔ درو مند ہونا۔ دُكَّ اُطْحَانًا یا محسوس کرنا

تَأْلَمٌ۔ تکلیف اٹھانا۔ درد کو برداشت کرنا۔ أَلَمَ دُكَّ  
أَلْمٌ أَلْمٌ۔ سخت دُكَّ و درد۔ أَلِيمٌ وَ مَوْلِمٌ۔ تکلیف  
اور دُكَّ دینے والا۔ مَنَّا أَلْمٌ۔ دُكَّ برداشت کرنا والا۔

أَلْمَاسٌ۔ ہیرا۔ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر

أَلَمٌ۔ معبود بنانا۔ خدا سمجھنا یا الہ کا مرتبہ دینا۔

أَلُوهُيَّةٌ۔ خدا ہونا۔ معبود والہ ہونا۔ خدائی

إِلَهٌ إِلَهَةٌ۔ خدا۔ معبود۔ دیوتا۔

أَلَلٌ۔ واجب الوجود کا ذاتی نام ہے جو جامع جمیع صفات

کاملہ ہے اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔

خالق المخلوق۔ رب العالمین۔ خداوند کریم۔

أَلَلَهُمَّ۔ اے اللہ تعالیٰ۔

إِلَهِي۔ میرے معبود الہی۔ منسوب بہ الہ

عِلْمٌ أَلِیْهِتَاتٍ۔ مذہبی علم۔ علم دین۔ ابد الطبعیات

أَلَوْ وَ أَلِیٌّ جمع الأَلْوِ عناية۔ نعمت۔ مہربانی فضل

رایلائے۔ شریعت کی اصطلاح میں وہ قسم جو بتوں کی مباشرت

کرنے میں مانع ہو۔

أُولَا۔ اولیٰ۔ جمع مذکر و مؤنث کا اسم اشارہ قریب

یعنی یہ سب۔

إِلَى۔ تک۔ حرف جار ہے۔ یہ کئی کئی معانی میں

زمانی یا مکانی انتہائے تک۔ اِلَى الْمَسَاءِ

اس نے شام تک (۲) صَادٌ إِلَى لَبْنَتٍ وہ گھر

تک گیا۔ (۳) عِنْدَكَ ہم معنی ہے کلاماً أَشْهَى وَ

أَحْلَى إِلَى مِنَ الرَّجِيْقِ وَالْعَسَنِ۔ اسی کلام میرے

نزدیک شراب سے زیادہ مرغوب اور شہد سے زیادہ

میٹھی ہے (۴) مرادف لام جیسے أَلَمْ يَأْلَمْ أَلْمًا

یسی



(۵) مرادف مع جیسے ضمہ ہذا الی ذاک یعنی  
 مع ذاک (۶) الیک اسم فعل ہے جیسے الیک عنک  
 الگ ہٹ۔ اپنے آپ کو مجھ سے دور کر۔ چل دور ہو یعنی  
 ابعُد (۷) بمعنی خذ جیسے الیک ہذا اس کو لے  
 الی ان۔ یہاں تک کہ۔ الی متی کب تک۔ تاکہ۔  
 ام یام ام ما و امامتہ۔ آگے آگے چلنا۔ رہبری  
 کرنا۔ امام بننا کسی لشکر کا جنمیل بننا۔

امرئج امہات۔ ماں۔ والدہ۔ اصل شو یا جرطہ  
 ام القری بک شریف۔ ام الدماغ۔ جھلتی جس میں  
 سر بیٹا ہوا ہوتا ہے۔

امام۔ آگے۔ امامت۔ امام۔ پیشوا۔ کسی  
 علم کا مستند اور مشہور عالم۔ امامت۔ راہ نمائی۔  
 امت۔ قوم۔ قوم۔ قبیلہ۔ گروہ۔ جماعت۔  
 امامت۔ ڈرانے کا کلمہ ہے یعنی اخذ۔ ڈرجا۔  
 امی۔ منسوب بہ ام القری۔ ان پڑھ۔ مکہ کا باشندہ۔  
 ام یہ حرف عطف ہے اور ہمزہ استفہام کے بعد آتا ہے  
 یعنی یا جیسے اقربیب ام بعید کیا نزدیک ہے  
 یا دور اور بل کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے هل یستوی  
 الاعفی والبصیر۔ آفرہل تستوی لظلمات  
 والنور کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں بلکہ  
 کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں ؟

اما۔ حرف تنبیہ ہے اور اس کے بعد اکثر قسم کھائی  
 جاتی ہے۔

اما والله۔ حرف عرض ہے اما تنزل بنا۔  
 اما حرف شرط و تاکید مبنی لیکن بہر حال۔ جیسے

اما الذین امنوا فیکلمون انہ الحق  
 لیکن جو لوگ ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ وہ سچ  
 ہے پر کہ معنوں میں اور بمعنی تفصیل جیسے اما زید  
 فربح لے پر زید نے تو فائدہ اٹھایا۔

امان ما۔ یا تو۔ یا یہ کئی معنی رکھتا ہے حرف  
 تفصیل جیسے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و  
 اما کفورا (۲) شک و ابہام جیسے جاء اما زید و  
 اما عمر و (۳) اباحت و تخییر تعلم اما الفقه  
 و اما النسخہ خواہ فقہ سیکھ خواہ علم لغت۔

امد۔ آخری حد۔ نایت۔ مدت جسکی انتہا نہ ہو۔  
 علی الامد۔ دائمی طور پر۔ ہمیشہ سے۔

امر یا امر امر۔ حکم دینا۔ ارشاد کرنا۔ آرڈر دینا۔  
 امر یا امر امر۔ امیر ہونا۔ سردار یا راہنما  
 یا بادشاہ ہونا۔

امر۔ حاکم بنانا۔ اختیار دینا۔  
 امر مؤ امر۔ کسی معاملہ میں مشورہ کرنا۔  
 استمر و استامر۔ مشورہ کرنا۔ باہم صلاح کرنا۔  
 مؤتمر۔ مجلس شوری۔ مشورہ کی کونسل۔

امرئج او امرؤ۔ امرؤ۔ حکم فیصلہ۔ طاقت  
 اختیار۔ کام۔

امارة۔ علامت۔ نشان۔ امارت۔ دولت مندی۔ امیری  
 امارة۔ حکم دینے والی۔ شرارت پر اُکسانے والی۔  
 اولو الامر۔ علماء۔ فقہار۔ رؤسا۔ نیکی کا حکم دینے والے  
 مندین لوگ۔ حکام۔

امیر۔ حکم دینے والا۔ سردار۔ شاہزادہ۔ حاکم۔

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ۔

أَمِيرُ الْبَحْرِ - جہازوں کا افسر اعلیٰ۔

مَا مَوْدِرِيَّةٌ - مشن گورنمنٹ کا عہدہ۔ وکیل کا اختیاء۔

مَا مَوْدِرٌ - حکم دیا ہوا اللہ کی طرف سے حکم دیکر بھیجا ہوا۔

أَمْسِ - کل کا دن جو گذر چکا ہے۔ قریب کا گذرا ہوا زمانہ۔

أَمَلْ يَا مَلُ أَمَلًا - امید کرنا۔ کسی چیز کی امید رکھنا

تَأَمَّلْهُ وَفِي تَأَمُّلًا - سوچنا۔ غور کرنا۔ سوچ بچا کرنا

أَمَلُجْ أَمَالٌ - امید۔ آرزو۔ مامول جس امر کی امید ہو

أَمِنَ يَا مَنَ أَمَانَةً - وفاداری اور خبر خواہ اور امین ہونا

أَمِنَ يَا مَنَ أَمْنًا وَأَمَانَةً - امن میں ہونا۔

محفوظ رہنا۔

أَمِنَ بِ كِسْفٍ شَخْصٍ بِ كِسْفٍ شَخْصٍ - کسی شخص پر کسی چیز کے لئے اعتبار کرنا۔

أَمِنَ وَإِثْمَانٌ عَلَيَّ - امین بنانا۔ بھروسہ کرنا۔

أَمِنَ يَوْمِي إِثْمَانًا بِ تَصْدِيقٍ كَرْنَا - یقین لانا۔

ایمان لانا۔

أَمِنَةٌ - اطمینان۔ تسکین قلب۔

أَمِنٌ وَأَمَانٌ - حفاظت۔ بچاؤ۔ سلامتی۔

مُؤْتَمِنٌ - جس کو امین بتایا جائے یا اعتبار کیا جائے معتبر

أَمَانَةٌ أَمَانَاتٌ - امانت۔ حفاظت۔ وفاداری

وہ چیز جو کسی کی حفاظت میں سپرد کی جائے۔

إِيْمَانٌ - تصدیق کرنا۔ مان لینا۔ خدا کی وحی پر یقین لانا۔

أَمِينٌ أَمَانَةٌ - دیانتدار۔ وفادار۔ قابل اعتبار

أَمِينٌ - اہم فعل بمعنی قبول کرنا یا ایسا ہی ہو۔

أَمْنِيَّةٌ - نڈر ہونا بے خوف ہونا۔ کاموں۔ معتبر

أَمْنٌ أَمَانَةٌ - لوندی۔ خادمہ

مَا مَنٌ - امن کی جگہ۔ مؤمن۔ مصدق۔ ایمان لانا والا۔

مُسْتَأْمِنٌ - جس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہو۔

آن یہ کہ یہ حرف مضارع پر داخل ہو کر زبردیتا ہے اور

مضارع کو مصدر کے معنوں میں تبدیل کر دیتا ہے جیسے

أَنْ تَصُومُوا أَخِيًّا تَكْفُرًا تَهَارًا رُوزَةً رَكْنَا تَهَارًا

لئے بہتر ہے۔ اور کبھی تفسیر کے لئے بمعنی قول استعمال ہوتا

ہے جیسے اَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُ هَسْدًا اِنْ اَمَدْتُمْ وَا

وَاضْبِدُوا - ان میں سے سردار بولے یعنی انہوں نے

کہا پلو اور صبر کرو۔ کبھی اَنْ سے مخفف ہو کر افعال یقین

یا اَنْ سے مشابہ کے بعد آتا ہے جیسے سَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ

مِثْلُكَ مَرْضًى اس نے جان لیا کہ ضرور تم میرے بعض

بیمار ہونگے۔ زاید بے تاکید جیب وَلَمَّا اَنْ جَبَا عَ

الْبَشِيرُ - اور جب اس کے پاس خوشخبری دینے

والا آیا۔

ان - اگر یہ کئی طریقہ پر استعمال ہوتا ہے (۱) حرف

شرط و فعلوں کو جزم دیتا ہے جیسے ان تجلسن اجلس

اگر تو بیٹھے تو میں بھی بیٹھوں گا۔ (۲) حرف نفی جیسے

اِنْ اَذْرِي اَقْرَبِيَّتِ اَفْرَبِعِيَّةً مَا تُو سَدُّو اَنْ

میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے۔ (۳) حرف

جائے ہو (۳) اِنْ کا تعلق اس سے ہے لَمَّا جَمِيعٌ

لَدَيْنَا لَدُنَّا اَنْ تُو سَدُّو اَنْ تُو سَدُّو اَنْ تُو سَدُّو

حاضر ہوگا۔ (۴) زائد جیب مَا اِنْ ذَلِكُمْ قَائِمٌ زَيْدٌ

کھڑا نہیں ہے۔

ان بے شک۔ بلاشبہ یقیناً یا تحقیق۔ یہ حرف مبتدا

اور خبر پر داخل ہو کر اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے

اور اس کے بعد مستقل جملہ ہوتا ہے۔ جیسے اِنَّ اللّٰهَ  
عَفُوٌّ۔ یقیناً خدا بخشنے والا ہے جب اس کے بعد  
دنا ہو تو حصر کے معنی دیتا ہے اور اس کا عمل کچھ نہیں ہوتا  
جیسے اِنَّمَا الْمَشْرِ كُوْنٌ نَّجَسٌ لِّاِحْرَافِ جَوَابِ مَعْنَى  
ہاں جیسے کوئی کہ لَعَنَ اللّٰهُ نَاقَةَ حَمَلَتْنِیْ  
اَلْبَيْتَ۔ خدا اس اونٹنی پر لعنت کرے جو مجھے تیرے تک  
اُكْطِلَانِیْ۔ اور اس کو جواب دیا جائے اِنَّ وَاكْبَهَا  
ہاں اور اس کے سوار کو بھی۔

اِنَّ۔ اِنَّ کی طرح عمل کرتا ہے اس کے مابعد کا جملہ مفرد  
کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اَعْجَبَنِیْ اَنَّكَ تَخْرُجُ  
یقیناً تیرے نکلنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ اِنَّمَا۔ صرف  
مگر۔ واقعی۔

اَنَّا۔ اَنَّا۔ ہم۔ ضمیر مرفوع برائے متکلم۔  
فِی۔ نا۔ مجھے۔ ہمیں۔ فعل کے ساتھ ضمیر مفعول۔  
اَنَّا نَبِیُّنَا۔ خودی۔ لاف۔ گھمنڈ۔ غرور۔ تکبر۔ اپنے آپ کو  
بڑا سمجھنا۔

اَنْبُوْبَةُ۔ اَنْبُوْبَةُ۔ پچھرا ٹونٹی۔ نلکی۔  
اَنْبِیُّقٌ۔ عرق کشید کرنے کا آلہ۔ قرع اَنْبِیُّقِ  
اَنْتِ تِ اَنْتُمَا۔ اَنْتُمَا۔ تو ایک مرد۔ ضمیر  
مرفوع منفصل برائے مذکر مخاطب۔ اَنْتِ تِ اَنْتُمَا  
جِ اَنْتُنَّ۔ تو ایک عورت۔ ضمیر مرفوع منفصل برائے  
مؤنث مخاطب۔

اَنْتِ یَا نَسْتِ اَنْتَا۔ زمانہ ہونا۔ غنٹی ہونا۔  
اَنْتِ۔ مؤنث کا صیغہ بنا دینا۔ مادہ شمار کرنا۔  
تَا نَسْتِ۔ مادہ ہونا۔ تَا نَسْتِ۔ مؤنث بنانا۔

اَنْتِ یَا نَسْتِ۔ مادہ۔ مَوْنَتٌ۔ مادہ۔ سِجْرًا۔ زنا  
الذَّحِیْلُ۔ عہد جدید کی کتاب جس میں حضرت عیسیٰ  
علیہ السلام کے حالات ہیں۔

اَنْسَ یَا نَسًا۔ ملنسار ہونا۔ فلیق ہونا۔  
اَنْسَ مَوًّا نَسَةً۔ باہم ملنسار ہونا۔ اِنْشَأَ نَسًا  
سنا۔ دیکھنا۔ اُنْسَ حاصل کرنا۔

اَنْسٌ اَدَمٌ زَادٌ۔ اُنْسٌ۔ میل جول۔ اِنْشَانٌ جِ اَنْسَانِیٌّ  
اِنْشَانٌ الْعَیْنِ اَنْکِہِ کی پتلی۔ رومک چشم

اِنْسَانِیٌّ۔ منسوب بہ انسان۔ خوش اخلاق۔ آدمیت والا۔  
اِنْسَانِیَّةٌ۔ آدمیت۔ جو امر وی۔ خوش اخلاقی۔  
اِنْسَتٌ۔ ناکتخا لڑکی۔ مس۔

اِنْیْسٌ مَوًّا اِنْسًا۔ دوست۔ مہربان۔ نرم دل۔  
اِنْیْسُوْنَ۔ سونف روی۔

اَنْفٌ جِ اَنْوْفٌ۔ ناک۔ اَنْفٌ۔ اَنْفٌ۔ کسی چیز کا۔  
اَنْفًا۔ ابھی ابھی۔ شروع میں۔ سابق میں۔  
اِنْشِیْنَا۔ کسی چیز کا آغاز۔

اَنْاَمٌ وَ اَنْاَمٌ۔ مخلوق۔ پیدائش۔ انسانی نسل۔  
اَنْیْبِقٌ۔ خوبصورت۔ اَنْیْبِقٌ۔ اَنْیْبِقٌ۔ عدالت  
اَنْی یَا نِیْ اَنْاَ۔ نزدیک ہونا۔ وقت قریب ہونا۔  
تَا نِیْ تَا نِیْ اَنْی اَنْی۔ کسی معاملہ میں غور و فکر کرنا  
آہستہ کرنا۔

اَنْی جِ اَنْیْبَةُ وَ اَدَا نِ۔ برتن۔ تَا نِیْ اَنْیْبِ  
اَنْی۔ کس طرح۔ کہاں۔ کہاں سے۔ جہاں کہیں۔ جس جگہ  
ظرف مکان بمعنی جہاں۔ اَنْی تَجَلِیْسٌ اَنْجَلِیْسٌ۔ جہاں  
توجیے گا میں بھٹوں گا۔ کہاں سے۔ اَنْی لَکَ ہَذَا  
مجھے یہ کہاں سے ملا

(۲) ظرف زمان بمعنی مثنیٰ یعنی کب (۳) استفہام بمعنی  
کیف یعنی کس طرح ؟

آہ و آہا۔ آہ۔ افسوس۔ ہائے درد کے اظہار کے  
لئے کام آتا ہے۔

أَهْلٌ يَأْهَلُ أَهْوَالًا وَتَأْهَلُ تَأْهَلًا شَادِي  
کرنا۔ بیاہ کرنا۔

أَهْلٌ بِكَيْسٍ كَوْخُوشٍ أَدِيدٍ يَأْهَلُ أَهْلًا وَسَهْلًا وَ  
صَرَحِيًّا كَهِنًا۔ جو اصل میں صَادَفَتْ أَهْلًا كَا  
عَرَبَاءَ وَوَطِئَتْ سَهْلًا كَا وَعَرَّابٌ يَعْنِي تَم  
اجنبیوں میں نہیں بلکہ اپنے لوگوں میں آگئے جو اور سنت  
زمین میں نہیں بلکہ نرم اور فراخ جگہ میں پھر رہے ہو۔

أَهْلٌ جِ أَهْلُونَ گھر والے گھر۔ باپ۔ بیوی۔ بچہ  
ایک جگہ کے لوگ یا رہنے والے۔ رشتہ دار۔ کنبہ ہم پیشہ  
أَهْلٌ لِكَيْسٍ جِزْرٌ كَيْسٌ أَهْلِيٌّ۔ گریلو یا تو  
أَهْلِيَّةٌ۔ قابلیت۔ لباقت۔ اردو اہل والی یعنی بڑا

آؤ۔ یا۔ تا وقتیکہ۔ یہ حرف عطف ہے اور ذیل کے  
معنوں آتا ہے۔ (۱) شک جیسے بِثَنَائِيَوْمًا أَوْ

يَوْمَيْنِ ہم ایک دن یا دو دن رہے۔ (۲) ابہام  
جیسے نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ يَا تَوْهَمٌ حَقٌّ

ہیں یا تم (۳) اباحت جَالِسِ الْعُلَمَاءِ أَوْ الزُّهَادِ  
خواہ علماء کے پاس بیٹھو یا زاہدوں کے پاس۔ (۴)

تقسیم جیسے الْكَلِمَةُ إِشْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ  
کلمہ۔ اسم۔ فعل۔ حرف میں تقسیم ہے (۵) بعض وقت

إِلَى أَنْ كَيْسٌ يَعْنِي دَيْتًا هَبْ جَيْسٌ لَا لَزَمَتِكَ أَوْ  
تَوْفِيئِي حَقِّي يَعْنِي مِيں تھے نہیں چھوڑو گا جب تک

تو مجھے میرا پورا حق نہ دے۔ (۶) إِلَّا كَيْسٌ مَعْنَى مِيں  
جیسے لَا تَقْتُلُوا الْعَدُوَّ أَوْ يَخْضَعُ مِيں دشمن سے

لڑوں گا۔ جب تک وہ طبع نہ ہو جاوے۔

أَبٌ يَأْوِبُ أَوْ بَا وَمَا بَا وَرَابَا بَا لَوْثًا بَا

أَوْ آتٌ۔ تائب (بندہ) رجوع برحمت کرنے والا (غدا)

صَابٌ۔ واپس لوٹنے کی جگہ۔ مرجع۔ ٹھکانا۔

أَوْجٌ عَلُوٌّ۔ بلندی۔ آسمان کا بلن تریں نقطہ۔ چوٹی۔

أَوْسٌ بَخْشِيشٌ عَطِيَّةٌ۔ اُوَيْسٌ بھیریا۔

أَسٌ مَوْطِيُونَ۔ مورو کے والے جس کی پتے بہت

سبز اور تروتازہ ہوتے ہیں اور پچیس۔ اسہال مرقہ

میں بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔

أَفْجٌ أَفَاتٌ۔ بلائے آسمانی۔ موت۔ نفقات

مَوْتُوتٌ۔ آفت رسیدہ۔

أَوْضَةٌ۔ کمرہ۔ اَوْتِيَانُ مَوْتٌ وَوَسْمَانٌ جِوَامِرٌ كَيْسٌ

اور یورپ کے درمیان ہے۔

أَوْقِيَّةٌ نصف ظل کا پھٹا حصہ جو تہائی چٹان تک

ہوتا ہے۔

أَكْسِيَجِنٌ۔ ایک قسم کی گیس۔

أَلٌ نَسْلٌ۔ اہل۔ شریف خاندان۔

أَلَةٌ جِ الْأَتُّ۔ ستھار۔

أَوَّلٌ جِ أَوَائِلٌ وَ أَوَّلُونَ مِ أَوَّلِيٌّ مِ

أَوَّلِيَّاتٍ۔ پہلا۔ ابتدائی۔

أَلٌ يُوْوَلُّ أَوْلًا وَمَا لَ أَلِيٌّ۔ لوثا۔ واپس ہونا

مَالٌ۔ مرجع۔ نتیجہ مطلب۔ انجام۔

أَوَّلٌ وَتَأْوَلٌ۔ تَأْوِيلًا تفسیر کرنا تشریح کرنا

والتفہیم کرنا

الْ اِیَّالَةَ - سردار ہونا کسی جماعت کا حکومت کرنا۔  
 اِیَّالَةٌ ج اِیَّالَاتٌ - صوبہ حکومت سیاست۔  
 اَوْلَادٌ وَاَوْلٰی - اسم اشارہ جمع قریب کا ہوا لاء  
 اسم اشارہ جمع قریب کا اس کے شروع میں (ہا) تنبیہ کے لئے ہے اَوْلِیَّکَ اسم اشارہ جمع قریب  
 وبعید کا اس کے آخر کا (ک) خطاب کا ہے اَوْلَادٍ  
 وَاَوْلٰی - اَلَّذِیْنَ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے  
 اَوْلُوْا جمع ہے مَن ذُوْا یعنی اولے مفرد اس کا ذوق ہے  
 اِنَّ وَاَوَانٌ - وقت لمحہ اَلْاَن اب اس وقت  
 اَبْوَانٌ ج اَبْوَانَاتٌ - محل۔ دیوان خانہ محراب رمرہ  
 اَوَاہُ - آد بھرنے والا۔ درو مند۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا  
 اَهْتَمَّ مَصِیْبَتِ - ج اِهَاتٌ

اَوٰی بِاَوٰی وَاَوٰی اِلٰی گھر میں اتارنا۔ پناہ دینا۔  
 مَاوٰی - جائے پناہ۔ رِبْتُ اَوٰی - گیدڑ  
 اَیْرَجُ اَیَّاتٌ - نشان سلامت۔ قرآن کریم کی آیت  
 اللہ تعالیٰ کا نشان و معجزہ۔ آئی (۱) حرف ندا بمعنی  
 کیا۔ (۲) اور حرف تفسیر بمعنی یعنی (۳) اے۔ اولے  
 اِیُّ سرف جو اسبا۔ لاس۔ بیشک۔ بلاشبہ جیسے اِیُّ  
 وَاَللّٰہِ لَاسُ فَمُحْتَدًا۔

اِیُّ - کئی معنوں میں آتا ہے م اِیَّةٌ جو کوئی بھی جو  
 چیز بھی کون۔ کیا۔ (۱) شرط کے لئے اور اس وقت  
 دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ اِیَّآ تَضْرِبُ اَضْرِبُ  
 جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔ (۲) استفہام کی  
 لئے جیسے اَیُّکُمْ اَنّٰی یعنی تم میں سے کون آیا ہے۔

(۳) اسم موصول جیسے سَلِّمْنَا عَلٰٓی اَبْنٰہُمْ اَفْضَلُ

جو ان میں سے افضل ہے اس کو سلام کرو وہم، کمال  
 کے معنی پر ولالت کرنے کے لئے زَیْدٌ وَاَجَلٌ اِیُّ  
 وَاَجَلٌ یعنی زید کا مل مرد ہے (۵) منادی معرف باللام  
 کے شروع جیسے یَا اَبْنٰہُ التَّجَلُّ لے آدمی۔ اِیَّآ ضمیر  
 منفصل منصوب کے شروع کا حصہ ہے جیسے اِیَّآکَ  
 اِیَّانَا۔ اِیَّآہُ۔ وغیرہ اِیَّآکَ مِنْہُ۔ اُس سے خبر دلا  
 رہنا۔ اِیَّآکَ اَن تَفْعَلَ۔ خبر دلا یہ کام مت کرنا  
 اِیَّآ۔ منادی بعید کے لئے حرف ندا۔

اَیَّدَ یُوَدُّ تَابِیْدًا - مدد دینا۔ پختہ کرنا۔ تاکید کرنا  
 اَیَّدُ۔ قُوْتُ۔ طاقت۔ اِیَّآجُ۔ سہارا۔ طاقت۔  
 اَیْرُ عَضُوْتِنَا سَل۔ اَیْرُ بادشمال۔ اِیَّآدُ۔ ماہ مئی  
 اَیْسُ یَا اَیْسُ اِیَّاسًا۔ س۔ نا امید ہونا۔ مایوس  
 اَیْسُ نا امید۔ مایوس۔ اِیَّاسُ۔ نا امید  
 اَضُّ اِیْضًا۔ لوٹنا۔ فَعَلَهُ اِیْضًا۔ دوبارہ کرنا۔ اِیْضًا۔  
 پر نصب یا تو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے یا حال  
 کی وجہ سے۔

اِیْلُ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام ہے جس کے معنی غبرائی  
 میں قوی اور قدیر کے ہیں۔

اِیْلُ ج اِیَّایِلُ۔ بارہ سنگا۔ گوزن  
 اَمْرَیْتُمْ اِیْمًا۔ راند ہونا۔ بیوہ ہونا۔ اِیْمْرَجُ  
 اِیْمٰحٰی۔ راند عورت۔ بیوہ۔ مجرد عورت یا مرد۔

اِیَّانُ۔ کب اسم شرط ہے اور دو فعلوں کو جزم  
 دیتا ہے جیسے اِیَّانَ تَضْرِبُ اَضْرِبُ جب تو  
 مارے گا میں ماروں گا۔ (۲) اسم استفہام جیسے اِیَّانَ  
 تَرْجِعُ۔ ٹوکب واپس آئے گا (۳) متضمن معنی شرط جیسے

آئین تَقِفْ آتِفْ جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا۔ آئِنَمَا۔ جہاں کہیں الی آئِن۔ کہاں کس جگہ کونسی جگہ  
 اِیْہِ اسمِ فِعْلِ ہے کسی بات کی زیادتی چاہنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

آیْوَاءٌ۔ وَآیْوَا۔ ہاں۔ نَعَمْ

## حَرْفُ الْبَاءِ ۲

ب۔ ساتھ۔ اشارہ۔ دوران۔ واسطے۔ بدلتے۔ پر  
 میں۔ کو۔ بجانب۔ یہ حرف کئی طریقہ سے استعمال ہوتا  
 (۱) الصَّاق۔ جیسے آسَسَكْتُ بِالْعَدْلَاءِ۔ میں نے  
 غلام کو پکڑ لیا (۲) اسْتَعَانْتُ جِيسِي كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ  
 میں نے قلم (کی مدد سے لکھا) (۳) مَضَّجْتُ جِيسِي  
 اَذْهَبْتُ بِسَلَامٍ۔ سلامتی کے ساتھ جادو (۴) نَزَفْتُ  
 جِيسِي سَادَ بِاللَّيْلِ وَهِيَ رَاتٌ كَوِجَلَا۔ (۵) بَدَلُ  
 جِيسِي بَاعَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اُس نے کفر ایمان  
 کے بدلے بیچ دیا۔ (۶) تَدْرِي جِيسِي ذَهَبَ اللهُ  
 بِسُورِهِمُ الشَّرَّانِ كَ نُوْرٍ كُوْلِي كِيَا (۷) قَسَمُ جِيسِي  
 بِاللهِ فِدَا كِي قَسَمُ (۸) سَبَبِيَّتُ جِيسِي كَقِيْدَتُ  
 يَزِيْدِي بِالْأَهْوَالِ زِيْد كِي وَجْهٍ سِي خَطَرَاتُ مَلَا۔  
 (۹) تُوَكِيْدُ خَبْرَاتٍ مَنْفِيَّةٍ۔ خبر کینیں اور مَابِيْن  
 كِيْنِيْنِ اُوْر فِعْلِ تَعَجُّبٍ اُوْر تَاكِيْدِ بِلْفِظِ نَفْسٍ اُوْر عِيْدِيْنِ  
 اُوْر كَفِي كِي مَفْعُوْلٍ اُوْر فَاعِلٍ مِيْنِ زَايِدٍ تَاكِيْدِ كِي  
 آتی ہے اور سماعی طور پر بندار پر بھی آتی ہے جیسے  
 بِعَشِيْمِكَ دِ ذَهْمٌ تَجْمَعُ وَرِهْمٌ كَافِي هِي اُوْر اِذَا

فَجُوْا تِيْبِيْنِ كِي بَعْدَ قِيَاْسَا آتِي جِيسِي مَوْرُجَتْ قَاذَا  
 يَزِيْدِي فِي الطَّرِيْقِيْنِ جِيبٍ مِيْنِ نَكَلَا تُوْزِيْدُ رَاْسَتِي مِيْنِ  
 اُوْر اِسْمَالٍ مِيْنِ جِيسِي كَا عَالِي مَنفِي جِيسِي فَمَا  
 وَجَعَلْتُ بِعَقَابِيْبٍ مِيْنِ نَاكَاْمٍ وَايْسٍ مِيْنِ آيَادِي  
 مَعْنَى عَلِي جِيسِي مَثَلٌ اِنْ تَاَمَنَّهُ بِقِنطَارٍ اِسْمٍ  
 مِيْنِ سِي بَعْنَسٍ كُوْا كَرُوْزَا نِي كِي وَصِيْرِي اِيْنِ بِنَاَسَتِي  
 (۱۱) مَعْنَى عَن جِيسِي فَا سَمَلْتِي مِيْنِ شَبِيْرًا (۱۲) مَعْنَى  
 اِلَى نِيْبِيْ اَحْسِنُ لِيْنِي اِلَى (۱۳) زَايِدِي جِيسِي لَامَا تَقِي  
 بِاَيْدِيْكَ اِلَى الشَّهِيْكَةِ اِيْنِي اِيْبِي كُوْ بِلَاكْتِ  
 مِيْنِ نِي ذَاوِي۔

بَايَا۔ بڑا عالم۔ سردار۔ گریبا کا پوپ۔

بَايِلٌ۔ دریائے فرات پر نروو نے ایک شہر بسایا  
 بَابِيْنٌ۔ جادوگر۔ بَابِيْنُوْزِي۔ سیڑھی۔

بَابُوْزِي تَجَزِيْرُوْ دِيْجُوْلُوْں دَالِي بُوْزِي مِيْنِ كُوْ بَاوْر كِي مِيْنِ اُوْر  
 بِيْسِي تِيْلٍ مِيْنِ جِلَا كَر شَحْلِيْلِيْنِ اُوْر اَم كِي لِي سَتْمَالِي كَرْتِي مِيْنِ  
 بَايِيْجِي۔ شہر کا محصول۔ در آمد کا محصول۔

بَاوْزِيْلُوْ۔ زہر مرہ جو ایک منقوش قلب پتھر ہے بطور  
 کشتہ استعمال ہوتا ہے۔

بَاوْزِيْلُوْ تَجْمَعُ مِيْنِ بِيْسِي كِي كَشِيْرِي  
 بِيْرِنَا كِي مِيْنِ نِيْرَسْتِي كِي۔ دو تیرپن کا حساب

بَاوْزِيْلُوْ۔ بارہ۔ بَاوْزِيْلُوْ بَاوْزِيْلُوْ۔ بازو۔ شکر

بَاوْزِيْلُوْ۔ شکر سی پندے رکھنے والا۔ بَاوْزِيْلُوْ

بَاوْزِيْلُوْ۔ سورا۔

بَاوْزِيْلُوْ كَا نِي۔ سوداگر۔ تاجر۔ بَاوْزِيْلُوْ كِي

بِيْسِي۔ بڑا۔ بدھے بدتر ہے جیسا







بَدَعَ يَبْدَعُ بَدْعًا - ایجاد کرنا شروع کرنا۔ وجود میں لانا۔  
بَدْعَةً - ایجاد و عقیدہ جو ایمان کے خلاف گنہگار جائے۔ ایمان  
کے خلاف جو عقیدہ۔

بَدِيعٌ - اچنبہ کی بات۔ تعجب انگیزہ وجود۔ بغیر نمونہ اور مثال  
کے پیدا کرنے والا (خدا)۔

عِلْمُ الْبَدِيْعِ - کلام کے سنوارنے اور سجانے کا علم جس میں  
مصلح جگت و غیرہ کا ذکر ہو۔

مُبْتَدِعٌ - بدعت نکالنے والا۔ نئے مسائل پیدا کرنے والا۔  
بَدَّلَ يَبْدُلُ بَدْلًا وَ اَبْدَلَ وَ بَدَّلَ بِ اَوْ مِمَّنْ  
بدلنا۔ بدلا لینا۔ بنا دینا۔

تَبَدَّلَ وَ تَبَادَلَا - ایک دوسرے سے باہم زیادہ کرنا۔  
اشْتَبَدَلَا - ایک چیز دیکر اس کے بدلے میں دوسری چیز لینا۔  
اَبْدَالَ - اولیاء اللہ کا ایک گروہ۔ مُتَبَادَلَا - یا ہمی ضمانت کا  
دو طرفہ

بَدَنٌ اَبْدَانٌ - جسم۔ بدن۔  
بَدَهُ بَيْنَهُ بَدَهًا وَ بَادَهُ - اچانک آنا۔ اچانک چلنا۔  
بَدَاهَةٌ وَ بَدَاهَةٌ - یکایک۔ اچانک۔ اگہاں ظاہری طور پر  
بَدِيْهَا وَ عَلَى الْبَدِيْهِ بَدِيْهَا - سوچے بات کہنا یا تقریر کرنا۔

بَدِيْهِجٌ - فوری۔ ظاہری بات جسکی دلیل کی ضرورت نہ ہو  
بَدَا يَبْدُو بَدْوًا - ظاہر ہونا۔ کھل جانا کسی کے دل میں  
تَبَدَّى - ظاہر ہونا۔ نکلنا۔ باد یعنی صحرا میں جا کر رہنا۔

بَدْوٌ بَادِيَةٌ - صحرا۔ ویرانہ بیابان۔ جنگل۔  
بَدْوِيٌّ - بدو۔ خانہ بدوش بادیوں کا۔ جنگل میں رہنے والا  
بَادِي التَّرَايِ - ظاہری یا معمولی یا سطحی رائے والا۔

بَدِيٌّ - بد اخلاق۔ بد زبان۔ بد بطن۔  
بَدْرٌ يَبْدُرُ بَدْرًا - بونا۔ بکھیرنا۔ پھیلانا۔ (علم)

بَدْرٌ مَرَجٌ بَدْرٌ - بیج۔ نسل۔ اولاد۔

بَدْرٌ وَ بَادِرٌ - تَبْدِيْرًا - فتحو لخرجی کرنا۔ مُبْتَدِرٌ  
بَدَلٌ - يَبْدُلُ بَدْلًا - دینا۔ سخاوت کرنا۔ بَدَلٌ عَطِيَّةٌ -  
کلام مُبْتَدِلٌ - ردی کلام۔ عام کلام کثیر الاستعمال کلام  
بَادِلٌ - سخی۔ فیاض۔ کشادہ دل۔ مُبْتَدُوْلٌ خرچ کیا ہوا  
دے والا ہوا۔

بَدُوٌّ يَبْدُو بَدْرًا - اطاعت کرنا۔ والدین سے حسن سلوک کرنا  
بَدُوٌّ يَبْدُو آبْرَارًا وَ بَرَرَةً - نیکو کار۔ راست باز۔ محسن  
والدین کا مطلع۔

بَدُوٌّ خَشِيٌّ - بیابان۔ خشک زمین۔ بَدُوٌّ كَنَمٌ - گہیوں  
بَدِيْجٌ - جنگل۔ خشکی پر رہنے والا۔ (جانور) بَدْرَانِيٌّ - بیرونی  
بَدِيْجَةٌ - بَدْرَانِيٌّ - بیابان۔ صحرا۔

مَبْدُوْرٌ - ایسا کام جس میں کوئی شبہ یا جھوٹ ہو نیک پر بیزگار  
بَدُوٌّ يَبْدُو بَدْوًا - پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عدم یا مادہ  
بَدُوٌّ يَبْدُو بَدْوًا - خلاصی پانا۔ نجات پانا۔ کسی  
بیماری سے اچھا ہو جانا۔

بَدُوٌّ تَبْدِيْرَةٌ - بری کرتا من۔ (دو کرنا) اہمت۔ اَبْدُوٌّ - شفا دینا۔  
تَبْدُوٌّ مِمَّنْ - بیزاری ظاہر کرنا۔ اَشْتَبَدُوٌّ - بریت چاہتا گناہ  
یا قرض سے۔

اَنَا بَدْرَانِيٌّ مِمَّنْ كَدَّ اَبْنُ اسْرِ بَرِيٍّ هُوں یہ لفظ مفرد نہ کرنا  
بَدُوٌّ اَبْدَانٌ - خلاصی۔ اجازت۔ ہاسپورٹ۔ ڈپلوما۔ بَدُوٌّ اَبْدَانٌ -  
بَادِيٌّ - خالق۔ پیدا کرنے والا۔ صحت پانیا۔ اَبْدُوٌّ - صحت شفا  
بَدِيْجَةٌ - بَدْرَانِيٌّ - بَدْرَانِيٌّ - آزادگی۔ خلاصی کا حکم

بَدُوٌّ بَرِيٌّ - بری۔ ملک بربر کار۔ ہنے والا۔ مصر۔ حبش زنجبار کا باشندہ  
بَدُوٌّ بَدِيْجَةٌ - وحشی پن۔ ظلم و استبداد و غیر مہذب کام کرنا۔

بَرْبَطٌ - سادگی۔ بَرْبَطٌ ج بَرْبَطٌ قلعہ کوٹ۔ گڑھی بجل منار۔  
 بَرْبَطٌ ج الْأَفْلَاقِ - آسمانی برج جو بارہ کی تعداد میں ہیں۔  
 بَرْجِيسٌ - مشنری ستارہ۔ بَارِحٌ وَبَارِحَةٌ - شب گذشتہ  
 بَارِحٌ - گذرا ہوا وقت۔ بَارِحَةٌ أُولَى - پہلی رات۔  
 بَرْدٌ - یخ۔ بَرْدٌ بَرْدٌ أَوْ بَرْدٌ بَرْدٌ - ٹھنڈا ہونا۔ سردی محسوس  
 بَرْدٌ تَبْرِيدًا - ٹھنڈا یا سرد کرنا۔ تَسْكِينٌ وَبِنَا -

تَبْرِيدٌ - ٹھنڈا ہونا۔ بَرْدٌ كَهْنٌ بَرْدٌ - اولہ۔ ڈالہ  
 بَرْدٌ بَرْدٌ - ٹھنڈک۔ بَرْدٌ - سردی سے آنکھ ٹھنڈی ہو  
 بَرْدٌ م بَرْدٌ - ایک دوسرا بیدار چل دور یا کپڑا بَرَادَةٌ -  
 لوہے وغیرہ کا چورا۔

أَبْرَدٌ - کسی کو بطور ایچی بھیجا۔ بَرِيدٌ - قاصد۔ ڈاک۔ ایچی  
 بَارِدٌ - سرد۔ خوشگوار۔ غَنِيمَةٌ بَارِدَةٌ - لوٹ جو بغیر لڑائی  
 حاصل ہو۔

بَارِدٌ - بارود۔ أَبْرَدٌ - زیادہ ٹھنڈا۔ صَبْرٌ - ریتی  
 بَرْدٌ يَبْرُدُ بَرْدًا - باہر نکلنا۔ ظاہر ہونا۔  
 بَارِدٌ مَبَارِدَةٌ - مقابلہ پر نکل کر لڑنا۔ مَبَارِدٌ - سامنے  
 نکل کر لڑنے والا۔

بَارِدٌ - باہر نکلنے والا۔ ظاہر ہو مخفی یا مستتر ہونا۔  
 بَرَادٌ - پاخانہ۔ بَرَادٌ - چوڑا میدان۔ کنا بیاز قضا حاجت  
 بَرَادٌ - قضاے حاجت کیلئے باہر جانا۔ مَبْرَادٌ - قضا حاجت  
 کی جگہ۔ مَفْعَدٌ

بَرْزَخٌ - دو چیزوں کے درمیان روک۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے  
 تک کا زمانہ

بَرَسَامٌ - ذات الجنب۔ ذات القدر۔ سینہ یا پسلی کا درد۔  
 بَرَشٌ - جوز مائل۔ دھنورہ۔ بَرَشٌ أَبْلَاهُ - انڈا

بَرَصٌ - يَبْرُصُ بَرَصًا - کورہ یا پھلپھری والا ہونا  
 أَبْرَصٌ - برص کا مریض۔ مَبْرُوصٌ - ساقم أَبْرَصٌ -  
 چلیا سر۔ چھپکلی  
 بَرَطٌ - ٹوپی۔ بَرَطِيلٌ - رشوت۔ مستطیل پتھر۔  
 بَرَعٌ - يَبْرَعُ - بَرَاعَةٌ - دوسروں سے علم۔ صحت۔  
 خوب وقتی میں بڑھ جانا۔ مَتَبَرَعٌ - بخشش کرنے والا۔  
 بَرَاعَةٌ - فضیلت و لیاقت والا ہونا۔

تَبَرُّعَاتٌ - عطیات۔ خیرات بہ نیت ثواب۔ ہدیہ جات  
 بَرَعُوْتُ ج بَرَاعِيْتُ - پشو۔ پیشہ۔  
 بَرَقٌ - يَبْرُقُ بَرَقًا وَبَرِيقًا - بجلی کو ندنا روشن ہونا  
 بَرَقٌ ج بَرَوِقٌ - بجلی۔ چمک دمک۔ بَرَاقٌ - چمکنے والا  
 بَارِقٌ - بجلی والا بادل چمکنے والا۔

بَرَاقٌ - اس پوپا کا نام جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
 شب معراج میں سوار ہوئے تھے۔

بَرَقٌ - قلمی شورہ۔ سہاگہ۔ بَرِيقٌ - بَرِيقٌ جَسَدٌ -  
 بَرَقٌ - برف چہننا۔ تَبَرَقٌ - برف چہننا۔

بَرَقٌ ج بَرَاقٌ - عورت کا روپوش ہونا۔ بَرَقٌ  
 بَرَكٌ وَبَارَكٌ كَمَا وَلَهُ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ بَرَكَتٌ  
 لِي وَعَاكَرْنَا بَرَكَتٌ وَبِنَا - تَبَرُّكٌ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ -

تَبَارَكَ - بلند رتبہ ہونا۔ تَبَارَكَ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ -  
 مَبَارَكَ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ -

بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ - بَرَكَةٌ -  
 أَبْرَمٌ - پکارنا۔ بَرَامٌ - بَرَامٌ - بَرَامٌ - بَرَامٌ -

مَبْرَمٌ - مستحکم یقینی قضا۔ مَبْرَمٌ - اہل تقدیر۔  
 بَرَمِيْلٌ ج بَرَامِيْلٌ - پیہ۔ گپا۔ بَرَامِيْلٌ جَعْدٌ - اوز کوٹ

بُرْنَيْطَةٌ - انگریزی ٹوپی - ہیٹ -

بُرْهَةٌ - عرصہ - زمانے کا حصہ - بَرَهْمَنْجُ بَرَهْمَةٌ

بُرْهَنْ عَلَى وَعَنْ - دلیل دینا - تَبْرُوهَنْ - دلیل سے ثابت ہونا

بُرْهَانٌ ج بَرَاهِينٌ - دلیل ثبوت - مُبْرَهَنْجٌ واضح ثابت

بُرْدَاةٌ - چاقو - چھری - تراشنے کا آلہ -

بُرْدَاةٌ کپڑا فروخت کرنیوالا - بُرْدَاةٌ کپڑے کی تجارت -

بُرْدٌ - يَبْرُدُ - بُرْدًا - یونا - بھیرنا دینا - بُرْدٌ - اندھے دینا

بُرْدٌ - يَبْرُدُ - بُرْدًا - بیج یا مصالح - بیچنے والا -

بُرْعٌ - يَبْرُوعٌ - بُرْعًا وَبُرْعًا - سُورج کا نکلنا - بِأَذْحَمَّةً

بُرْقٌ - يَبْرُقُ بُرْقًا - تھوکنے والی - بُرْقٌ - تھوک - رال - بھلنے والی

مِبْرَقَةٌ - پیکدان -

بَارِزٌ - بَارِزٌ - بَارِزٌ - بَارِزٌ - باغ جو فیصلہ ہو

بَاسُورٌ ج بَوَاسِيَةٌ - بواسیر کا مرض -

بَسَطٌ - يَبْسُطُ بَسْطًا - بچھانا - پھیلانا - وسیع کرنا

إِبْسَاطٌ - پھیلانا - خوش ہونا - اِنْبِسَاطٌ خوشی - مسرت

مُنْبَسِطٌ - خوش و خرم -

بَسِطَةٌ - کُشَادَةٌ - وَسْعَةٌ - بَسَاطٌ - فرش دار و حِطَّاتٌ

بَسِيطٌ - مفرد - چوڑی زمین - بَسِطٌ - فراخی - کُشَادَةٌ

مَنْسُوطٌ - کُشَادَةٌ - پھیلانا - خوش و خرم -

بَوْسَطَةٌ - پوسٹ آفس - ڈاک - بَسَاطٌ تھوک -

بَاسِقٌ - بلند -

بَسَلٌ - يَبْسُلُ - بَسَالَةٌ - بہادر و باہمت ہونا لڑائی میں

بَاسِلٌ - منچلا -

تَبَسَّمَ وَ اِنْتَسَمَ مُسْكِرًا - بَسَامٌ - بہت مسکرانے والا

تَبَسَّمَ وَ اِنْتَسَمَ - مُسْكِرًا ہٹ

بَسْمَلٌ بِسْمَلَةٌ - بِسْمَلٌ بِسْمَلَةٌ - بِسْمَلٌ بِسْمَلَةٌ

بَشٌّ - يَبِشُّ - بَشَّاشَةٌ - خوش و خرم و کُشَادَةٌ ہونا

بَشَّاشٌ - خندہ رو -

بَشْرٌ يَبْشُرُ بِ - خوش ہونا - بَشْرٌ - خوش خبری دینا -

اِسْتَبْشَرَ بِ - اچھی چیز پر خوش ہونا -

بَاشِرٌ الْمَرْأَةُ - مجامعت کرنا - ایک کپڑے میں عورت کے

بَشَارَةٌ ج بَشَارَاتٌ بَشْرًا - خوش خبری -

بَشْرٌ - انسان (مذکر مؤنث واحد) جمع استعمال ہوتا ہے -

بَشْرِيٌّ - اِنْسَانِيٌّ - بَشِيرٌ - خوشخبری دینے والا -

تَبَشِيرٌ - تَبْلِيغٌ - بَشَارَةٌ - مَبَشِيرٌ - مَبْلَغٌ - خوشخبری دینے والا

اَلْمَبَشِّرَاتُ - پانی کی خبر دینے والی ہوائیں - تَبَاشِيرٌ - ہر

چیز کا شروع - صبح -

بَشَاعَةٌ - بَدْمِزَةٌ ہونا - بَدْمِزَةٌ بَدْمِزَةٌ ہونا -

بَصْرٌ - يَبْصُرُ - بَصَارَةٌ - دیکھنا - سوچنا - ادراک کرنا

تَبْصُرٌ - غور سے دیکھنا - سوچنا - تامل کرنا -

اِسْتَبْصَرَ فِي كَيْسٍ - چیز پر غور کرنا - سوچنا -

بَصْرٌ ج اَبْصَارٌ - آنکھ - دیکھنے کی حس - علم -

بَصْرَةٌ - عراق کا ایک شہر سخت زمین - کنکر والی زمین

بَصِيرٌ - دیکھنے والا بَصِيرَةٌ - آنکھ - بَصِيرَةٌ عَقْلٌ

تَبْصِيرَةٌ - وہ چیز جو کسی امر کے علم کا ذریعہ بنے -

بَصَاقٌ - تھوک - بَصَلٌ - پیاز - بَصَلٌ - قَادِرٌ - جنگلی پیاز

بِضْعٌ وَ بِيضَةٌ - چند رات کا ایک حصہ - تین سے

تو تک کی تعداد -

بِيضَةٌ - مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بِيضٌ

مؤنث کے لئے -

بِضَاعَةٌ - پونجی - سرمایہ - رأس المال -

بَطَّ - بطخ - بَطَّاطَةٌ - آلو -

بَطْوَاءٌ - بَطْوَاءٌ - وَاِبْطَاءٌ - دیر لگانا - آہستگی

کرنا - آہستہ آہستہ ہلنا

بَطِيحٌ الْحَرَكَةُ - آہستہ آہستہ چلنے والا - سست حرکت والا

اِسْتَبْطَاءٌ - آہستہ یا دیر کرتا ہوا شمار کرنا -

بَطْحَاءٌ - پانی بہنے کی وسیع وادی جس میں ریت اور

باریک باریک لکڑیوں - بَطِيحٌ - تر بوز -

بَيْطَدٌ - جانوروں کا علاج یا لعیندی کرنا - بَيْطَادٌ

سلوتری - و بیٹری سرجن -

بَيْطَارِيٌّ - سلوتری کا پیشہ - بَيْطَارِيَّةٌ - بیٹری - جہاز

بَطْرِيقٌ - بَطَارِقَةٌ - عیسائی فوج کا جرنیل - کاشختہ

بَطْرِيكٌ - بَطَارِكَةٌ - رئیس گرجا - عیسائیوں کے کسی

گروہ کا مذہبی سردار

بَطَشٌ - يَبْطِشُ - بَطَشًا - سخت پکڑنا - سختی کے ساتھ

بَطَشٌ طَاقٌ - بَطَشَةٌ - سخت گرفت - پورش - جملہ کرنا

بَاطِشٌ - سخت پکڑنے والا -

بِطَاقَةٌ - بِطَائِقٌ - خط چھٹی کارڈ - بیبل -

بَطْلٌ - يَبْطُلُ - بَطْلَانًا - جھوٹا ہونا - بے فائدہ ہونا

بَطَالَةٌ - وَبَطُولَةٌ - بہاوری - بَطْلٌ - سورما - بہاد

اَبْطَلٌ وَبَطْلٌ - رو کر دینا - منسوخ کر دینا -

بَطَالٌ - کابل - سست بے فائدہ - بے کار -

اِبْطَالٌ - تروید - اَبَاطِيلٌ - لغو باتیں - جھوٹی باتیں -

مَبْطُلٌ - باطل پرست -

بَطْمٌ - درخت تارپین - گندہ بہروزہ کا درخت چیل کا چلوڑہ

بَطْنٌ - يَبْطُنُ - بَطْنًا وَبَطُونًا - چھینا - پوشیدہ ہونا

بَطْنٌ وَ اَبْطَنٌ - ولی دوست بنانا - اندرونی

بَطَانَةٌ - بھیدی - ولی دوست -

بَطْنٌ ج بَطُونٌ - پیٹ - اندرون - درمیان -

بَطِيحٌ - بَطِيحٌ - مَبْطُونٌ - پیٹ کی بیماری والا -

اسہال کی مرض والا -

بَاطِنٌ ج بَوَاطِنٌ - اندرون - پوشیدگی - باطنیت

بَعَثٌ - يَبْعَثُ - بَعْثًا - کسی کے پاس کوئی چیز بھیجنا -

بَعَثٌ - يَبْعَثُ - بَعْثًا - کسی کے پاس کوئی چیز بھیجنا -

يَوْمُ الْبَعْثِ - روز قیامت - بَاعِثٌ - بلانے والا

بَعَثٌ - يَبْعَثُ - بَعْثًا - کسی کے پاس کوئی چیز بھیجنا -

وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ - اور جی اٹھانے کے بعد -

بَعْدَ يَبْعُدُ بَعْدًا عَن - دور ہونا - فاصلہ پرست جانا

بَعْدَ وَ اَبْعَدَ - فاصلہ پر ہونا - کسی کے خدا کر دینا

تَبَاعَدَ وَ اِسْتَبْعَدَ وَ اِسْتَبْعَدَ وَ اِسْتَبْعَدَ وَ اِسْتَبْعَدَ وَ اِسْتَبْعَدَ

بَعِيدٌ - دور -

بُعْدٌ - فاصلہ - دُورِيٌّ - بُعْدًا اَللّٰهُ - اسکے لئے ہلاکت

بُعْدٌ وَ بَعْدًا - پیچھے اور بعد از ان -

ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے -

مضاف الیہ مذکور ہوا اس کو بَعْدًا یا بَعْدًا بَعْدًا

بَعَضٌ - تَبْعِيضًا - حسوں اور بکروں میں تقسیم کرنا

بَعْضٌ - حِصَّةٌ - ٹکڑا - کچھ - بَعْضَةٌ - بچھڑ

بَعْلٌ - خاوند م بَعْلَةٌ - خاوند بیوی - ایک بت کا نام

بَعْلَبَكٌ - شام میں ایک شہر کا نام - بَعْدَادٌ - عراق کا

<p>بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ۔ اچھے کام۔ اَلْبَاقِي ہمیشہ رہنے والا ہے۔  بَكَّةٌ۔ مکہ معظمہ کا دوسرا نام قرآن کریم میں۔  بَكَرَ يَبْكُرُ بَكْرًا۔ سویرے اٹھنا نیند سے۔ صبح سویرے نکل جانا۔</p>	<p>بَثَّتَهُ اچانک۔ ناگہاں۔ بَكَيْكُ۔ بکری۔ آبنائے۔  بَغِضَ يَبْغِضُ بَغْضًا۔ نفرت کرنا۔ قابل نفرت ہونا۔  اَبْغَضَ۔ دشمنی کرنا۔ تَبَاغَضَ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔  بَغِضًا۔ دشمنی۔ نفرت۔ عداوت۔ بَغْضَاءً۔ سخت نفرت۔</p>
<p>بَكْرَةٌ نَزَاكٌ۔ صبح سویرے۔ بَكْرُجُ اَبْكَادٌ۔ کنواری بگاری۔  کنوار پن بگاری۔ بگاری۔ پہلا پھل۔ ہر چیز کا شروع۔  بَكْسِمَاءٌ۔ بَكْسِمَاطٌ وَبَقْسِمَاطٌ۔ بکٹ بکلت۔</p>	<p>بَعْلُ جِ بَعَالٌ خَيْرٌ اَيْسَا جَانُوْر جِسْ كَامَا بَابٌ عَلِيْحَهُ جِنْسٌ هُوَ۔  بَعِيٌّ يَبْعِيٌّ بَعِيًّا۔ تلاش کرنا۔ چاہنا۔ کسی چیز کی خواہش کرنا۔  بَعِيٌّ عَلٰى تَعْدِيٍّ كَرْنَا۔ ظلم کرنا۔ بَعِيٌّ اَلْاُمَّةُ لَوْنَدِيٌّ زَنَاكِيَا۔  يَبْعِيٌّ اَنْ يُوْنُ هُوْنَا چاہیے۔ یوں مناسب ہے۔</p>
<p>بَكِيٌّ يَبْكِيٌّ بَكَاءً۔ رونا۔ آنسو بہانا۔ چلانا۔  بَاكٌ م بَاكِيَّةٌ۔ رونے والا۔ بَكِيٌّ بہت ہی رونے والا۔  بَلٌّ۔ مگر۔ برخلاف اسکے۔ بلکہ۔ نہیں یوں نہیں فی الواقع۔</p>	<p>اَبْتَعِيٌّ اِبْتِغَاءً۔ تلاش کرنا۔ طلب کرنا۔  لَا يَبْعِيٌّ۔ لائق نہیں۔ مناسب نہیں۔  كَمَا يَبْعِيٌّ جِيسَا كِه چاہیے۔ بَعِيٌّ بے انصافی۔ نافرمانی۔  بِعَاةٌ زَنَا۔ بَعِيٌّ جِ بَعَايَا۔ کچھنی۔ زانیہ عورت۔ باغ چاہو۔</p>
<p>علاوہ اس کے۔ حرف عطف ہے اس سے پہلے کلام کو نسخ سمجھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ بل سے پہلے حکم کو واضح کر کے اس کے مابعد زاید چیز بیان کی جاتی ہے جیسے بَلٌّ قَالُوْا اَضْغَاثٌ اَخْلَامٍ۔ بَلٌّ اَفْتَرَاةٌ بَلٌّ هُوَ شَاعِرٌ۔ یعنی وہ صرف ہی نہیں کہتے کہ یہ پراگندہ خوابیں ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اس نے افترا بانڈھا ہے اور وہ جھوٹا ہے۔</p>	<p>بَقِيٌّ مَفْرُوْبٌ بَقِيَّةٌ۔ بَقِيَّةٌ۔ بَقِيَّةٌ۔ کپڑوں کی گٹھڑی۔  بَقْرٌ يَبْقُرُ بَقْرًا۔ بھاڑ دینا۔ باقرو کھولنے والا۔  بَقْرٌ دینے والا۔  بَقْرَةٌ۔ گائے۔ جَوْعُ الْبَقْرِ۔ سخت بھوک کی بیماری جس کا مریض سیر نہیں ہوتا۔</p>
<p>بَلْبَلٌ جِ بَلَابِلٌ۔ بَلْبَلٌ۔ لاٹو۔  بَلْدَةٌ وَبَلْدٌ جِ بِلَادٌ وَبِلْدَانٌ۔ شہر۔ قصبہ گاؤں۔ ملک۔ ولایت۔</p>	<p>بَقِيَّةٌ جِ بَقَاعٌ۔ زمین کا قطعہ۔ جگہ۔ پست زمین۔  بَقِيْعٌ مختلف قسم کے درختوں والی جگہ۔ جَنَّةُ الْبَقِيْعِ مدینہ شریف کا قبرستان۔  بَقْلَةٌ سَبْرِيٌّ۔ بَقْلَةٌ اَلْحَمْمَقَاءُ۔ خرف۔ بَقَالٌ سبزی فروش۔</p>
<p>بَلْدِيَّةٌ نِيُوْبِلِيٌّ۔ بَلْدِيٌّ۔ دیہی شہر سے تعلق رکھنے والا۔  بَلِيْدٌ۔ بیوقوف۔ کُذُوْبٌ۔ بِلَادَةٌ۔ کُذُوْبِيٌّ۔ بیوقوفی۔  بَلُوْدٌ۔ بَلُوْدٌ۔ بلور۔ کرسٹل۔ ایک قسم کا شیشہ۔ بَلُوْدِيٌّ۔</p>	<p>بَقْمٌ۔ جِيسْمٌ۔ سَرخ رنگ۔ پَنگ کی لکڑی جو خون کو کٹی ہوئی۔  بَقِيٌّ يَبْقِيٌّ۔ بَقَاءً۔ ہمیشہ رہنا۔ ثابت رہنا۔ رہنا۔  اَبْقَى۔ باقی رکھنا۔ بَقَاءً۔ پائیداری۔ بَقِيَّةٌ۔ باقی ماندہ۔</p>

بَا مَبَا۔ بھنڈی توری۔ بِنٌّ۔ قہوہ کا درخت یا پھل۔ کافی  
بَنَجٌ بھنگ۔ بِنَانٌ۔ انگلیوں کے پورے۔ بَنَجِکِشْتٌ لوٹک  
بَنَدَدٌج بنا دد۔ بند گاہ۔ بِنْدُوقِیَّةٌ۔ بندوق۔  
بِنَصْرٌ۔ چھنگل کے ساتھ کی انگلی۔ بِنْفَسِجٌ۔ بنفشہ  
بَنی یَبْنِی بِنَاءٌ وَبُنِیَانًا۔ بنانا۔ تعمیر کرنا (مکان)  
بِنَاءٌج آئینیۃ۔ مکان۔ عمارت۔ گھر۔ بِنَاءٌ عَلَیْمٌ ہند  
بِنِیۃٌ۔ جسم کی بناوٹ۔ ڈھانچہ۔ بِنِیَاتٌ۔ عمارت  
بِنَاحِی۔ بنانے والا۔ پنیار رکھنے والا۔

مَبْنِیٌ۔ بنایا ہوا۔ تعمیر کیا ہوا۔ نحو کی اصطلاح میں وہ  
کلمہ جس کا اعراب ہمیشہ یکساں رہے اور نہ بدلے جو مفرط ہو  
اِبْنٌج آئِنَاءٌ وَبِنُوۡنٌ۔ بیٹا۔ لڑکا۔ متبنیٰ بولنا بیٹا  
مَبَاطِی۔ عمارتیں۔ اِبْنۃٌ وَبِنَاتٌ بیٹی۔ لڑکی  
بِهت یَبْهَتُ بَهتًا وَبُهتَانًا حیران ہونا۔ ہکا۔ ہکا۔ ہکا  
بُهتَانٌ۔ جھوٹ۔ الزام۔ دروغ۔ افتراء۔ قَبْضُوۡنٌ تیرا  
بَهجٌ یَبْهَجُ۔ بَهجۃٌ خوش کرنا۔ مسرور کرنا۔ بَهجۃٌ خوشی  
اِبْتِهَاجٌ۔ خوشی منانا۔ مَبْتَهَجٌ۔ خوشی منانے والا۔  
بَهْرٌ یَبْهَرُ وَبَهْرًا۔ چکنا۔ باہر۔ چکنے والا۔ بَهْرًا  
بَهْرَمَانٌ۔ زرد رنگ کا یا قوت بھرا ہوا۔ بَهْرَمَانٌ  
بَهقٌ۔ چھپ۔ جسم پر دھنسا ہوا۔ بَهقٌ  
بَهَلٌ یَبْهَلُ بَهْلًا۔ بے ہوش۔ بے ہوش ہونا۔  
بَهْلًا۔ بے ہوش ہونا۔ بَهْلًا۔ بے ہوش ہونا۔

اَبْلِیْسُ یَاوَسٌ ہونا۔ حیران و پریشان ہونا۔ اِبْلِیْسُ  
شیطان کا علم جنس ہے۔

بَلَسَمٌ۔ روغن بلسان۔ بَلَسَاتٌ۔ اس کا روغن خوشبودار  
ہونا ہے تحلیل اور ام کے کام آتا ہے۔ اور سوزاک کی بیماری  
میں استعمال ہوتا ہے۔

بَلُوۡطٌ۔ شاہ بلوط یا اس کا پھل جو محقق دوا ہے  
بَلَعٌ یَبْلَعُ بَلْعًا وَابْتَلَعُ نَکْلٌ لَیۡنًا۔ جذب کرنا۔  
بَالُوۡعۃٌ بدررو۔

بَلَعَمٌ۔ بہت کھاؤ۔ پیٹو۔

بَلَعٌ یَبْلَعُ بَلُوۡغًا وَبَلَاۡغًا۔ پہنچنا۔ سن بلوغ کو پہنچنا۔  
بَالَعٌ فِیۡ کِسٰیۡمِیۡنِ مِبَالَعۃٌ کرنا۔ بَلَاۡغۃٌ۔ فصیح و خوش  
بیان ہونا۔

بَلَعٌ اَبْلَعٌ۔ پہنچانا۔ اطلاع دینا۔ بَالِغٌ پوری عمر کا آدمی  
بَلِیۡغٌ۔ شیریں بیان۔ صاف اور موثر تقریر کرنے والا  
بَلَاۡغٌ۔ پیغام۔ مَبْلَغٌ۔ رقم۔ انتہائی حد۔

مَبْلَغٌ۔ خدائی پیغام کو پہنچانے والا۔ تَبْلِیۡغٌ کرنا۔ بَشْرٌ  
بَلَعَمٌ۔ کف۔ اطباء کے نزدیک ایک خلط کا نام جو ستر تر ہی  
اَبْلَقٌ۔ سیاہ و سفید اغوں والا۔ رنگارنگ

بَلۡیۡۃٌ یَبْلِۡۃٌ بَلَاۡهۡۃٌ۔ سادہ لوح ہونا۔ بیوقوف ہونا۔  
اَبْلَہُجٌ بُلَہُجٌ۔ سادہ لوح۔ بیوقوف۔ احمق۔

بَلَا یَبْلُوۡ بَلَاۡۃً وَرَابِتَلٰی۔ آزمائش کرنا۔ جانچنا۔  
حقیقت معلوم کرنا

بَلِیۡۃٌ وَبَلُوۡی ج بَلَا یَا مَصِیۡبٌ۔ آزمائش۔ بَلَاۡۃٌ  
مُبْتَلٰی۔ مصیبت زدہ۔ ابتلا یا آزمائش میں گرفتار۔  
بَلٰی۔ حرف تصدیق ہے بمعنی ہاں۔ بِسْمِ۔ کس طرح۔ کیوں۔

مَبَاهِیۡۃٌ۔ ایک دوسرے کی ہلاکت کی دعا کرنا۔ بَلَاۡۃٌ  
الی اللہ اس خدا سے عاجزی اور گرا گرا کر دعا کی دعا  
اِبْتِهَالٌ۔ تضرع سے دعا کرنا  
بُهْلُوۡلٌ۔ بہت ہنسنے والا۔ خندہ رو۔ بَهْلُوۡاۡنٌ۔ ننگ

بَهْمَ اَبْهَمَ مُشْتَبِهٌ هُونًا - مُبْتَهَمٌ يَأْخُذُ الْاَهْوَانًا  
 بِهَيْمَةٍ - پارہیہ - بَہْمِيَّةٌ جِوَانِيَّتٌ وَشَيْءٌ مِّمَّا يَحْتَبِئَانَا  
 اِبْهَامٌ - پوشیدہ کرنا - غیر واضح رکھنا - شک میں ڈالنا -  
 سَبْهَمٌ مَخْفِيٌ - پوشیدہ - مشکوک - غیر معلوم -  
 بَهَاءٌ يَبْهَوُ - بَهَاءٌ - خوبصورت ہونا - خوبصورتی سے چمکنا  
 يَبْهَوُ - خوبصورتی - چمک دکھانا - رونق - شان - بَہْمِيٌّ - چمکدار  
 خوبصورت

اَبْهَلِيٌّ - بہت چمکدار و خوبصورت بَابُ جِ اَبْوَابٌ دروازہ  
 بَوَابٌ - دربان - بَابِغَالِيٌّ سلطانِ معظَم - ترک بادشاہ کا لقب  
 اَبَاحٌ يَبِيحُ - اَبَاحَةٌ - مباح ٹھہرانا - جائز قرار دینا  
 اَبَاحَةٌ بے مذہبی - دین سے بے قیدی اور لاپرواہی  
 بَوَاحٌ - کھلم کھلا - آشکارا -

بُورِقٌ - بُورِكٌ اَبْدٌ - بَاذٌ - بَاذٌ - بُورِسِيٌّ - بُوَايِرٌ مَرَضٌ  
 بُورِسِيٌّ - ڈاک خانہ - بُورِسِيٌّ - کٹھالی - بُوْرِسِيٌّ - بوسہ  
 اَوْبَاشٌ - بازاری لوگ - بُورِقٌ - بگل - بُورِقٌ - بجانے کا سنگ  
 بَالٌ يَبُوْلُ بُوْلًا - پیشاب کرنا - بُوْلٌ - پیشاب  
 بُوْرٌ - اَلُوْرٌ - بُورِسِيٌّ - بِلٌ - چمک قبض الوصول - بُورِسِيٌّ  
 بُورِسِيٌّ - پویس - بِيَانٌ - مصری بید کا درخت -

بَاہٌ - شادی - قوت مردی بَہْمِيٌّ - مردانہ طاقت بڑھانا  
 يَاتٌ يَبْدِيْتُ بِيْتًا - رات گزارنا - شب باش ہونا -  
 بِيْتٌ - گھر - مَبِيْتُ رات گزارنے کی جگہ - بِيَاتٌ - بَشْوَنٌ  
 بِيْدِقٌ - شطرنج کا ہرہ جس کو پیادہ کہتے ہیں -

بَاضٌ يَبِيضُ - بَيْضًا - اَنْدُءٌ وِبِنَابِيضٌ سفید کرنا  
 بِيضٌ زہر میٹھا تیلیہ - بِيَاضٌ - سفیدی - نُورٌ بَلٌ  
 بِيضَةٌ - نڈا - بِيضُوِيٌّ - اَنْدُءٌ - کھل طرح گول - بِيَاضٌ  
 سفیدی

اَبْيَضٌ م بَيْضَاءٌ سفید اَيَّامٌ بَيْضٌ - چاندنی راتوں  
 بَاعٌ يَبِيْعُ بَيْعًا - خریدنا - فروخت کرنا - تجارت کرنا -  
 بَايَعٌ کسی سے معاہدہ کرنا - بیعت کرنا - بَايَعٌ - فروخت کرنا  
 بَيْعَةٌ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر فروخت کر لینے کا عہد کرنا  
 مَبَايَعٌ - بیعت کرنے والا کسی ہاتھ پر عہد باندھنے والا -  
 بِيْمَارِ شَتَانٌ وِمَارِ شَتَانٌ - ہسپتال - شفا خانہ -  
 بَانَ - يَبِيْنٌ - بِيَانًا وِتَبْيَانًا - واضح ہونا - ظاہر ہونا  
 بَيِّنٌ - واضح کرنا -

تَبْيِيْنٌ - واضح ہو جانا - کھل جانا - تَبَايِنٌ - ایک دوسرے سے علیحدہ  
 بَيْنٌ بَيْنٌ - درمیان - بَيْنَمَا جِب ذَاتُ الْبَيْنِ -  
 بَيَانٌ تَشْرِيْحٌ - بَيِّنٌ - واضح - صاف - ظاہر - بَيِّنَةٌ دَلِيْلٌ  
 ج بَيِّنَاتٌ

مُبَيِّنٌ - بیان کرنا والا - صاف - ظاہر - نمایاں -  
 بَائِنٌ - مَطْلَقَةٌ عَوْرَتٌ - طَلَاقٌ بَائِنٌ - عورت مرد کو بدل  
 کر دینے والی طلاق -

## بَابُ التَّاءِ

ت کی طرح استعمال ہوتی ہے (۱) فعل ماضی کے  
 آخر میں متکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے ذہبت میں  
 گیا - ذہبت تو گیا - ذہبت تو گئی وغیرہ وغیرہ  
 دس فعل ماضی کے صیغہ واحد غائب میں مؤنث کی علامت  
 جیسے ذہبت وہ گئی -

(۲) فعل مضارع مخاطب و مؤنث غائب کے شروع میں  
 علامت مضارع جیسے تذهب وہ جاتی ہے یا تو جانا ہے  
 تذهبین تو جاتی ہے -

(۴) اسم کے آخر میں علامت تانیث جیسے قَائِمَةٌ  
کھڑی ہونے والی۔

(۵) جنس بھی کے واحد کے لئے جیسے شَجَرَةٌ ایک

(۶) مبالغہ کے لئے جیسے عَلَا مَنَّةٌ بہت ہی جائے والا

(۷) قسم کے لئے جیسے تَاللّٰہِ خدا کی قسم۔ میں خدا کی قسم  
کھاتا ہوں۔

تَامَتْ تَانٍ جَمْعُ أَوْلَادٍ مُونث کے لئے اسم اشارہ معنی  
تَابُوْتُ مَرَّةً کا صندوق۔ لکڑی کا صندوق۔ تَابُوْتُ  
کتاب مقدس کا تابوت۔ قلب۔

تَارَةً ج تَارَاتٌ۔ باری۔ ایک دفعہ۔ وقت۔ کبھی کبھی  
بعض اوقات۔ اب۔ تب۔ دوسری دفعہ۔

تَوَّأَمٌ۔ تَوَّأَمٌ۔ مُجْرَوَانٌ۔ ڈہرے۔ ایک دوسرے  
سے ملے ہوئے۔ جوڑے میں کا ایک۔ ثانی۔

تَبَابٌ۔ کمزوری۔ کمی۔ نقصان تَبَابًا لَكَ تیری تباہی  
ہو۔ تو تباہ ہو۔ خدا کرے کہ تیرا ستیا ناس ہو۔

تَبَرٌ۔ يَتَّبِرُ تَبْرًا وَ تَبْرًا۔ ہلاک ہونا۔

ہلاک کرنا۔ توڑنا۔ تباہ کرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ گم کرنا۔  
تَبَادٌ۔ ہلاکت۔ تباہی۔ تَبْرٌ۔ سونا جو کان سے نکلا

ہو بغیر صاف کیا ہوا سونا۔ یا چاندی۔

تَبِعَ يَتَّبِعُ تَبْعًا وَ تَبَاعًا وَ تَبَاعَةً  
وَ اتَّبَعَ يَتَّبِعُ تَبْعًا۔ پیروی کرنا۔ مرید ہونا

تابع ہونا۔ ساتھ چلنا۔

أَتَّبَعَ يَتَّبِعُ لَكَانًا۔ جا ملنا۔ دوسرے کے ساتھ ملنا۔

تَتَّبَعَ۔ پورا پورا مطالعہ کرنا علم کا مصدر تَتَّبَعَ

تَبِعَ ج اتَّبَعَ۔ مرید۔ رعیت۔ مالکیت۔ تابع ج

تَوَّابِعٌ۔ خادم

تَابِعِيٌّ۔ وہ مسلمان جس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی  
ہو اور اسلام پر مرا ہو۔

بِالتَّبَاعِ متواتر۔ پے درپے۔ یکے بعد دیگرے۔

باری باری سے

مَثْبُوعٌ۔ وہ شخص جسکی پیروی اور اطاعت کی جائے

تَوَابِلٌ۔ مصالحے۔ اچار چٹنی۔ وہ بیج جو ذائقہ دار

کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

تَبِغٌ وَ تَبْنٌ۔ تمباکو۔ تَبْنٌ۔ گھاس۔ تَبْرٌ وَ

تَبَارٌ اسم جمع ترک۔ تاتاری۔

تَبَانٌ۔ بھوسہ فروش تَبْنِيٌّ۔ بھوسہ کے رنگ والا

تَتْرِيٌّ۔ ہرکارہ۔ پوسٹین۔ تَتْرِيٌّ۔ پے درپے

تَجَدَّرَ يَتَجَدَّرُ۔ تَجَادَةٌ وَ تَجَارَةٌ وَ اتَّجَرَ

سوداگری کا کاروبار کرنا۔ خرید و فروخت کرنا۔

تَجَادَةٌ۔ سوداگری۔ تَجَارَةٌ تَجَادٌ۔ سوداگر

مُتَجَدِّرٌ۔ بیوپار۔ تجارت۔ سوداگری کا مال۔

تَحْتٌ نیچے۔ تَحْتَانِيٌّ۔ نیچے کی چیز۔ کم درجے والا

أَتَحَفَّ بِ كسی کو تحفہ دینا۔ تَحْفَةٌ ج تَحَائِفٌ

بدیہ۔ نادار چیز

مُتَحَفٌّ وَ دَارٌ لَتَحَفٍّ۔ عجایب گاہ۔ عجائب گاہ

تَحْتٌ ج تَحَوْتُ تَحْتٌ۔ نیچے۔ تَحْتٌ ج تَحَائِفٌ

تَحْمٌ يَتَحَمُّ تَحْمَةً۔ بدبھی ہونا مَتَحَمٌ بدبھی ہونا

تَذْرُجٌ۔ تَدْرُو۔ لوہ۔ پکور۔ تَرَا جِيدِيَا تَرَا جِيدِيَا

تَرِبٌ۔ يَتْرِبُ تَرِبًا۔ خاک آلود ہونا۔ تَرِبٌ

ج أَثْرَابٌ۔ ہم عصر۔ ہم عمر۔ دوست۔ ساتھی ایک ساتھ

کھیلنے والے۔





اَثْبَاتٌ - ثابت کرنا۔ ثُبُوتٌ مضبوطی۔ ثَابِتٌ مضبوط  
یقینی۔ مستحکم۔ اُثْلٌ۔

مُثَبَّتٌ - اُثْلٌ - ثابت شدہ۔ ثَبَّتْتُ مضبوطا و مستحکم  
ثَابِتَةٌ ج ثَوَابِتٌ - غیر متحرک ستارہ جو ستارہ نہ ہو  
تَثْبِیْتُ - استحکام مضبوطی۔

ثَبَاتٌ - ایسی بیماری جس سے حرکت نہ ہو سکے۔

اَثْبَاتٌ - ایجاب۔ ثابت کرنا۔

ثُبُودٌ - ہلاکت۔ تَدْرِیٌّ پستان۔ تَجَاجٌ موسلا  
تَرْتَادٌ بکواس کرنیوالا۔ تَرِبٌ آنٹوں کی چربی دار جھلی  
یَثْرِبٌ - مدینہ طیبہ کا پرانا نام۔ ثَوْبٌ شوربا۔ میں

بھگوئی ہوئی روٹی۔  
ثَرِيًّا - سات سپیلیوں کا جھمکا۔ بُرْج ثور میں ستاروں  
کا مجموعہ۔ فانوس۔ پروں۔

ثَرْوَةٌ - دولت کی کثرت۔ مالدار ہونا۔ دولت مند ہونا۔

ثَرَى - تری نمٹاکی گیلی زمین۔ ثَعْبَانٌ لمبا اور موٹا  
سانپ اڑوہا

ثَعْلَبٌ - لومڑی۔ دَاعُ الثَّعْلَبِ ہال گر جانے کی بیماری  
عَنْبُ الثَّعْلَبِ مکو۔۔۔ ایک دوا ہے جو امراض

جگر اور اندرونی اورام کو دور کرتی ہے۔

تَخْرُجُ تَخْرُجٌ - سر سے نکلنا۔ کسی سر سے نکلنا  
تُقْلٌ - تلچھٹ۔ پیوگ۔ میل چیل۔

تَقَبٌ يَتَقَبُ ثَقِيًّا - چھیدنا۔ سوراخ کرنا۔  
صائب الرأی ہونا۔

تَقَبٌ م ثَقِيَّةٌ - باریک سوراخ نہر۔ پائپ  
ثَاقِبٌ - روشن ستارہ یا ستارہ (زحل)

تَهَامَةٌ - لکھنؤ شریف۔ حجاز کے جنوبی علاقے۔ تَنَكُّطٌ  
آٹھم کسی بات پر شبہ کرنا۔ تَهْمَةٌ - شک۔ الزام۔

تَابٌ - يَتُوبُ تَوْبَةً وَ مَتَابًا اِلَى اللّٰهِ - ناوم ہو کر  
اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ گناہ چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹنا  
تَائِبٌ - توبہ کرنے والا۔

تَوَابٌ - رجوع برحمت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔  
معاف کرنے والا۔

تَوْتُ - توت کا درخت۔ تَوْتِيَاءٌ - طوطیا۔ جست  
تَاجٌ يَتَوَّجُ تَوَّجًا - تاج پہننا۔ تَاجٌ ج تِيْجَانٌ  
دِہیم تاج۔ کٹ

تَوْدَرِيٌّ - ایک دوائی کا نام ہے جو امراض مخفیہ میں استعمال  
ہوتی ہے۔ یہ سفید و سیاہ دو قسم کی ہے۔

تَوْدَاةٌ - حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔

تَوْمَانٌ - دس ہزار۔ ایک ایرانی سکہ

تَيْسٌ بَكْرٌ - لَحِيَّةُ التَّيْسِ - بڑکی داڑھی

تَيْمًا - صحرا۔ بیابان۔ وادی عرب۔

تَيْمُنٌ - انجیر۔ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نَبِيَّهُ بے آبدین  
غزور۔ تکبر۔

## بَابُ النَّاءِ

تَشَاءُ بٌ - جمائی۔ انگریزی۔ تَادٌ - جرم کا بدلہ  
تَوَلُّوْا ج تَأْيِيْلٌ - مسہ۔ خال ہکا۔ سر پٹا۔ خون کا بدلہ

تَبَيْتٌ يَتَبَيْتُ تَبَاتًا وَ ثُبُوتًا - برقرار ہونا۔ مستقل جا ہونا  
تَبَيْتٌ وَ اَثْبَتٌ - قوی اور مضبوط بنانا ثابت کرنا۔

ولائل سے بیان کرنا۔

رَأَى ثَابِتًا - تہ تک پہنچنے والی رائے۔ درست اور صحیح رائے۔

ثَقِفَ يَثْقِفُ ثَقْفًا وَثِقَافَةً - ذہین ہونا۔ ہوشیار و دانا ہونا۔ کسی چیز میں ماہر ہونا۔ تیز پہنچنے والی عقل والا ہونا۔ جلدی سے معلوم کر لینا۔

ثَقِيفٌ - عرب کے ایک مشہور قبیلہ کا نام۔ ثِقَافَةٌ - ہوشیاری۔ تہذیب و تمدن۔

ثَقُلَ يَثْقُلُ ثِقْلًا وَثِقَالَةً - بھاری و بوجھل ہونا۔ سست ہونا۔ گند ذہن ہونا۔ خورت کا حامل ہونا۔

ثَقِلَ يَثْقُلُ ثِقْلًا - سخت بیمار ہونا۔ مرض کا بڑھنا۔ ثِقْلُ جِ أَثْقَالٌ - بوجھ۔ وزن۔ کشش ثقل۔

ثَقِيلٌ - بوجھل۔ بھاری۔

أَثْقَلَانِ - انسان اور حق۔ بڑے اور چھوٹے آدمی۔ مَثْقَالٌ - ساڑھے چار ماشہ کا وزن۔

مَثَلَبَةٌ جِ مَثَالِبٌ - قصور عیب۔ گالی۔ الزام۔ محاسن کی ضد۔ ثَلَّثْتُ وَثَلَّثْتُ - تیسرا حصہ۔ تہائی۔ ثَالِثٌ - تیسرا۔

ثَلَاثَةٌ تَيْنِ - ثلاثا تین بار۔ مَثَلَّتْ تَيْنِ كُونِ يَأْتِنِ ضِلْعُونَ وَالْأَحْرَفُ - تین لفظوں والا حرف۔

تَثْلِيثٌ - تین خدا ماننا۔ ثَالُوثٌ جِ تَوْتِنٌ - تین سے مرکب ہو یعنی تثلیث۔

ثَلَاثُونَ - ثلاثا تین۔ تین سے عدد۔ ثَلَاثِيٌّ جِ صَغِيرٌ - تین حرف اصلی ہوں۔

ثَلَجٌ بَرَفٌ - مثلوج برف سے ٹھنڈا کیا ہوا مثللاج برف فروش۔ ثَمَّرٌ - وِلاں (دور کا اشارہ ہے) اُس جگہ۔ مِنْ ثَمَّرٍ سَلَةٌ - اس وجہ سے

ثَمَّرٌ وَثُمَّتٌ - تب۔ لہذا۔ پھر۔ علاوہ ازیں۔ بعد ازاں۔ نیز۔ حرف عطف ہے ترتیب اور تراخی کے لئے آتا ہے۔ ثَمَّرٌ كَانِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا - پھر اس میں یہ صفت بھی تھی کہ مومنوں کے زمرہ میں تھا۔

أَثَمَدٌ وَأَثَمَدٌ - سرمہ کا پتھر۔ ثَمُودٌ - عربوں کی ایک قدیم قوم جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔

ثَمْرُجٌ أَثْمَارٌ - پھل۔ جائداد۔ پیداوار۔ منافع۔ دولت۔ ثَمْرَةٌ جِ ثَمَرَاتٌ - پھل۔ نتیجہ۔ بچہ۔ اخلاص اور محبت۔

مُثَمِّرٌ - پھلدار (درخت) زرخیز۔ بار آور۔ ثَمَنٌ يَثْمِنُ - ثَمْنًا آثْمَانٌ ہونا۔ ثَمَنٌ - قیمت کرنا۔

ثَمَنٌ قِيمَةٌ - ثَمِنٌ آثْمَانٌ - ثَمِينٌ - قیمتی۔ مَثْمِنٌ ہشت پہلو۔ آٹھ شعروں کی نظم۔ ثَمِنٌ آثْمَانٌ حصہ۔

ثَمَانُونَ - اشئی۔ ثَنِي يَثْنِي ثَنِيًّا - دہرا کرنا۔ تہ کرنا۔ موڑنا۔ پیٹنا۔

أَشْتَشْنِي مِنْ - کسی عام قاعدہ کلیہ سے نکال دینا۔ مِثْنِيٌّ كَرْنَا أَشْنِيٌّ عَلَى تَعْرِيفِ كَرْنَا - ثنا کرنا۔ ثَنَاءٌ - تعریف۔ خوبی۔ بیان کرنا۔

أَشْنَانٌ - دُو۔ ثَانٍ - ثَانِيٌّ - دوسرا۔ مِثْنِيٌّ - دو بنایا ہوا۔ ثَنِينَةٌ - دو بنانا۔ ثَانِيَةٌ - سیکند۔ منٹ کا ساٹھواں حصہ۔

ثَنَانِيٌّ - و و حرف والا (لفظ) اِشْتِثْنَاءٌ - علیحدہ کرنا۔ یَوْمَ الْاِثْنَيْنِ - سوموار۔ دو شنبہ۔

ثَنِينَةٌ - گھاٹی کا راستہ۔ مَثَانِيٌّ - قرآن مجید کی آیات۔ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔

أَثَابَ يَثِيبُ أَثَابَةً - بدلہ دینا۔ تندرست کرنا۔ ثَوَابٌ - اچھے اور بُرے اعمال کا بدلہ۔ خصوصاً اچھے اعمال کا بدلہ۔

تَوَابُجُ آثَوَابٌ وَ تَوَابٌ - کپڑا، لباس، عورت کا تہنہ  
 تَوَابٌ - کپڑے کا سوداگر، مشابہت، جمع ہونے کی جگہ۔ مَثْوِبَةٌ  
 تَوْدٌ بیل۔ ایک بوج کا نام۔ تَوْدَةٌ بوج۔ بغاوت۔ زیادتی۔ بلوہ  
 تَوْدَانٌ بگولہ، تانکر، غضبناک۔ تَوْمٌ - لہسن۔  
 مَثْوَى - گھر۔ منزل۔ ٹھکانہ۔ سرے۔  
 تَيْبٌ - بیوہ۔ خاوند سے جدا۔ جو کنواری نہ ہو۔

## بَابُ الْجِيمِ

جَاوَدَسٌ - باجرہ۔ ایک قسم کا غلہ۔ جَبْتُ -  
 گہرا کنواں گڑھا  
 جَبَّةٌ - لمبا کوٹ، مَجْبُوبٌ - سہمرا۔ نوبہ۔ چبٹ۔ بت  
 جَبْنَانَةٌ - میگزین۔ کارتوسوں کا صندوق۔  
 جَبْرٌ - یَجْبُرُ - جَبْرًا - ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھنا  
 جَبْرًا عَلَى مَجْبُورٍ کرنا۔  
 جَبْرٌ - زبردستی۔ غرور و تکبر۔ طاقت۔  
 عِلْمُ الْجَبْرِ - الجبر جو ریاضی کے علم کی شاخ ہے  
 اور جس کے موجد مسلمان ہیں۔  
 جَبْرُوتٌ - قدرت۔ طاقت۔ غرور۔ عظمت۔  
 جَبْرًا - قوی مضبوط۔ اصلاح کرنیوالا۔ مَجْبُورٌ بے بس۔  
 جَبْرِيَّةٌ - ایک فرقہ۔ جَبْرَائِيلُ نبیوں پر وحی لانے  
 والا فرشتہ  
 جَبَلٌ - يَجْبُلُ - جَبَلًا - بنانا۔ پیدا کرنا۔ جَبَلٌ  
 پہاڑ۔ جمع جِبَالٌ  
 جَبَلَةٌ - پیدائشی شکل۔ سیرت۔ مزاج۔ طبیعت۔ بناؤ  
 جَبَلُ الطَّارِقِ - جِبْرَالُتُ - جَبَلِيٌّ - فطرتی۔ پیدائشی۔

جَبْمُولٌ - پیداشدہ۔ بڑے جسم والا۔  
 جَبْنٌ يَجْبُنُ - جَبْنًا وَ جَبَانَةً - بزدل ہونا  
 نامرد ہونا۔  
 جَبْنٌ وَ جَبَانَةٌ - بزدل۔ جَبْنٌ وَ جَبْنٌ بِنِيرٍ  
 جَبِينٌ - ماتھا۔ پیشانی۔ جَبَانٌ - بزدل آدمی۔  
 جَبْهَةٌ جِ جَبَاةٌ - ماتھا۔ سردار۔ قوم۔  
 جَبْلِيْقٌ وَ جَبْلِيْقٌ - لاٹ پادری۔ جَبْلَةٌ - لاش  
 جَبَدٌ يَجْبُدُ - جَحْوَدًا اب۔ انکار کرنا۔  
 کسی کے حق کو تسلیم نہ کرنا۔ جَبْلَانًا - باوجود ہم سے  
 کرنا۔ جَحَادٌ - انکاری۔ مرتد۔  
 جَحْوَةٌ حشرات الارض کا بل۔ جَحْوَةٌ - سگھڑے کے  
 ڈھیلے کا بھرا ہوا  
 جَحِيمٌ - دوزخ۔ تیز آگ۔ سخت گرم جگہ  
 جَحْوَنٌ - ترکستان کے دریا کا نام جسے آمین آباد  
 بھی کہتے ہیں۔  
 جَدٌّ يَجِدُّ - جِدًّا - کوشش کرنا۔ کوشش کرنا۔  
 اپنے آپ کو تندہی سے لگانا۔  
 جَدٌّ - تندہی۔ سرگرمی۔ جانفشانی۔ اکتاہٹ  
 جَدَّدٌ يَجِدُّدٌ - تَجْدِيدًا - نیا کرنا۔  
 بنانا۔ از سر نو بنانا۔ مرمت کرنا۔  
 تَجْدِيدٌ - دوبارہ ٹھیک کرنا۔  
 مَجْدِدٌ - اصلاح کرنیوالا۔ نئے سرے سے دوبارہ  
 بنانے والا۔ اسلامی اصطلاح میں وہ شخص جو ہر طرف  
 کے سر پر اصلاح امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے  
 مبعوث کیا جاتا ہے اب تک چودہ صدیوں میں چودہ

مجدد آچکے ہیں جیسے حضرت شیخ احمد سرہندی۔ حضرت

شاہ ولی اللہ دہلوی۔ حضرت سید احمد بریلوی۔ حضرت

امجد صد چہار دہم۔ رحمۃ اللہ علیہم۔

جَدُّنَ آجَدًا۔ داؤ۔ بزرگ۔ نانا۔ اسلاف۔

جَادًا۔ شاہراہ۔ سڑک۔

جَدَّةٌ۔ داوی۔ نانی۔ جدّاً۔ بہت تندہی اور گرمی

جَدِیُّ۔ چپک۔ خسرو۔ جِدَارٌ۔ دیوار۔

جَدِیْرِبٍ۔ لائق۔ مناسب۔ قابل۔

جَادِلٌ۔ یُجَادِلُ۔ جِدَالٌ۔ جھگڑنا۔ لڑنا۔ جِدَلٌ

یُجَدَلُ۔ جَدَلٌ۔ سخت جھگڑالو ہونا۔

جَدَلٌ۔ بحث میں سخت کلامی۔ منطق کی شکل۔

عِلْمُ الْجَدَلِ۔ مناظرہ کا علم۔

جِدَالٌ وَقِتَالٌ۔ لڑائی جھگڑانا اور قتل و غارت۔

جَدْوَلٌ۔ جَدْوَلٌ۔ فہرست۔ رجسٹر کی سرخیاں

ماشبہ کتاب کا۔

جَدِیٌّ۔ ایک بروج کا نام۔ ستارہ۔ پہلے سال کا بکری

کا بچہ خط بوری۔

جَدَبٌ۔ یُجَدِبُ۔ جَدَبًا۔ کھینچنا۔ گھسیٹنا

جَادِبٌ۔ کھینچنے والا۔

جَدُوْبٌ۔ تصوف کی اصطلاح میں وہ شخص جو خدا

کی طرف کھینچا گیا ہو۔ ولی اللہ۔

جَذْبٌ وَجَذْبَةٌ۔ وجد۔ جوش۔ جَادِبِيَّةٌ۔

قوت جاؤ بہ کشش۔

جَذْرٌ۔ جڑ۔ اصل۔ جَذْعٌ۔ کھجور کا تنہ

جَذْمٌ۔ یُجَذْمُ جَذْمًا۔ کاٹنا۔ بے عضو کر دینا

عضو کاٹ دینا۔

جَذَامٌ۔ کوڑھ۔ جذام وہ مرض جس میں انگلیاں

وغیرہ جھڑ جاتی ہیں۔

مَجْدُوْمٌ۔ جذام کی مرض والا۔ جذامی۔

جَزَّ یَجْزُ جَزًّا۔ کھینچنا۔ گھسیٹنا۔ مجرور بنانا کسی کو

جَزِیْرَةٌ۔ جرم۔ گناہ۔ هَلَمَّ جَزًّا۔ ایسا ہی۔ اسی طرح

جَزَّ الرَّثَقَالِ۔ علم جَزَّ ثَقِیْلٌ۔ حُرُوفُ الْجَزْرِ۔ حروف جاز

جَزَّةٌ۔ گھڑا۔ جَزَاؤٌ۔ بڑا شکر۔ بہت کھینچنے والا

جَزَاؤَةٌ۔ زرد رنگ کا بچھو۔ ہوائے ڈنگ کو گھسیٹ کر

چلتا ہے۔

جَوْبٌ یَجْرِبُ جَوْبًا۔ کھجلی والا ہونا۔ جَوْبٌ

کھجلی کا مرض۔

جَوْبٌ یُجْرَبُ تَجْرِبَةً۔ آزمانا۔ امتحان لینا

مُجْرَبٌ۔ آزمودہ۔ تجربہ کیا ہوا۔ جَوْلُوْبٌ۔ جراب۔

تَجْرِبَةٌ۔ تجارب۔ آزمائش۔ امتحان۔

جَرِیْبٌ۔ کھیت ماپنے کا پیمانہ۔

جَوَابٌ۔ بقیہ۔ تھیلہ۔ میان۔ غلاف۔

جَزْؤْمَةٌ۔ جَزَاثِیْمٌ۔ جرم وہ کپڑا جو آنکھ سے

نہ دکھائی دے۔

جَزْجِیْرٌ۔ ترہ۔ ایک قسم کا پودہ۔ تارا میرا۔

جَزْحٌ یَجْرَحُ جَزْحًا۔ زخمی کرنا۔ کسی کی گواہی

کو باطل کرنا۔

اِحْتِرَاحٌ۔ برائی کا مرتکب ہونا۔ صل کر نیکی کے کوشش کرنا۔

جُرْحٌ۔ جِرَاحَةٌ۔ جِرَاحَاتٌ۔ زخم۔ گھاؤ۔

عِلْمُ الْجِرَاحَةِ۔ سرجری۔ جراحی۔ جِرَاحٌ۔ اپریشن کرنا

جِرْحٌ وَجِرْحٌ۔ زخمی۔ جَوَارِحٌ۔ عضو خصوصاً لائق۔

جَوْرِيحٌ - زخمی - مجروح  
 جَوْدٌ يُجْرِدُ - تَجْرِيدًا - نکا کرنا مجرود کرنا - الگ کرنا  
 مَجْرُودٌ - اکیلا - تنہا - تَجْرِيدٌ - تنہا کرنا - تَجْرُدٌ - اکیلا ہونا  
 جَرِيدَةٌ جَ جَوَائِدٌ - اخبار - روزنامہ - اصل معنی پھٹی  
 مَجْرَدَاتٌ - غیر مادی اشیاء بِمَجْرَدٍ مَا - فقط - اس  
 سبب سے کہ  
 جَوْدُجٌ - جَوْدَانٌ - جنگلی چوہا - چھچھوند رگھونس -  
 جَوَسٌ يَجْرُسُ - جَوَسًا - ہلکی آواز سے گفتگو کرنا -  
 زم آواز نکالنا - ہلکے مہین لہجے سے بولنا -  
 جَوَسٌ جَ أَجْرَاسٌ گھنٹی - جَوَسٌ بھنبھناہٹ  
 جَوَارِشٌ مِطْهَانِيٌّ - مِطْهَانِيٌّ چیز ایک قسم کی مرکب مِطْهَانِيٌّ دوائی  
 جو عام طور پر معدہ کی امراض اور جگر کی اصلاح کے لئے کام  
 آتی ہے - مثلاً جوارش جالینوس - جوارش کمونی - جوارش مصطلی  
 وغیرہ وغیرہ - معرب از گوارش -  
 جَوَعٌ - يَجْوَعُ جَوْعًا وَ تَجْوَعُ وَ اِجْتَوَعُ  
 گھونٹ گھونٹ کر کے پینا - یکبارگی نکل جانا - پی جانا - ایک  
 کشش سے نکل جانا یا پی جانا - يَجْوَعَةُ - پانی کا گھونٹ  
 جَوْعَةٌ آب -  
 جَوَارِفٌ - جھاڑو دینے والی طاعون - عام تباہی بھلک  
 جَرَمٌ يَجْرِمُ جَرْمًا - کاٹ ڈالنا - کترنا - قلم کرنا -  
 أَجْرَمٌ وَ اِجْتَرَمٌ - گناہ کرنا - جرم کرنا -  
 جَرَمٌ وَ تَجْرَمُ عَلَا جرم کی تہمت لگانا کسی کو  
 جَرْمٌ جَ أَجْرَامٌ - گناہ - خطا - جَرْمٌ جَ أَجْرَامٌ  
 بسم - ٹیل ڈول  
 الْأَجْرَامُ الْفَلَکِيَّةُ - اجرام سماوی - سورج چاند  
 ستارے - وغیرہ

لَا جَرَمَ وَ اِنْفِي - بے شک - بلاشبہ -  
 جَوَيْمَةٌ جَ جَوَائِمٌ - قصور - گناہ - پاپ - جرم (جرم)  
 مَجْرَمٌ - خطا کار - مجرم - أَجْرَامٌ مِيتَةٌ - ابتدائی گرامر  
 جَوْمُوقٌ - موزہ - موزہ پر پہننے کا بڑا موزہ -  
 جَوْهَرٌ - عرب کا پرانا تہیہ -  
 جَوِيٌّ يَجْرِي جَوِيًّا وَ جَوِيًّا نَا - پانی کا بہنا  
 دوڑنا - جاری ہونا - واقع ہونا - ہو پڑنا -  
 جَوِيٌّ وَ أَجْرِيٌّ - بہا دینا - دوڑانا - شائع کرنا -  
 فیصدہ کرنا - دستخط کرنا - اہم کی گروہ کرنا -  
 أَجْرِيٌّ قِيسْرَاةٌ - ایک بیباک اور شہسوار  
 نامت کرنا -  
 جَوِيٌّ وَ جَوِيَانٌ - رفتار - دوڑ کسی چیز کا بہنا -  
 اصطلاحی طور پر ایک منفی مرض کا نام جس میں مادۃ الحیات  
 قضائے حاجت کے پہلے یا بعد بلا ارادہ خارج ہو جاتا  
 جَوِيٌّ - بہنا - دوڑنا - (ماہ رواں) جاری  
 جَوِيَّةٌ جَ جَوَارِيَاتٌ وَ جَوَارِيَةٌ - نوجوان عورت  
 لونڈی - خادمہ - لڑکی -  
 مَا مُوَدَّ الْأَجْرَاءُ دَرَارِيْنَ مَلَاقَاتِ كَرَلْمِ وَاللَّ  
 اِجْرَائِيٌّ - تعمیل کرنا - اِجْرَائِيٌّ  
 مَا جَرِيٌّ - حادثہ - وَقَدْ قَرَأْتُ مَجْرِيَّةً مَسْرُوعَةً  
 مَجَارِيٌّ - راستہ - اِجْرَائِيٌّ  
 جَوَارِيٌّ يَجْوَرُ أَجْرَاءَ عَصُوْنَ مِيْنَ نَقْسَمِ كَرَمِ  
 تَجْرَاءُ - عَصُوْنَ مِيْنَ نَقْسَمِ كَرَمِ  
 جَوْرَجٌ أَجْرَاءُ كِبْرِيَّةٌ - جَوْرَجِيٌّ نَسُوْبٌ  
 بہ بڑ بھلی کے برعکس - نام میں سے خاص - خصوصاً ج تارا

جَزْوَةٌ رُوبِيَّةٌ جَزِيٌّ - ایسا جز جو بٹ نہ سکے - ایٹم  
 أَجْزَاءُ مَيْتَةٍ - کیمسٹری - علم کیمیا - دوا خانہ -  
 أَجْزَاءُ فَيْءٍ - دوا فروش - عطار - پٹناری -  
 جَزْدَانٌ - بستہ - کیس - جَزْوَانٌ - جَزْوَدٌ (دائم جمع) کا جرین  
 جَزْوَادٌ فَنٌّ كَرِيهٌ أَوْ - ظالم - قاتل - قصاب -  
 جَزْوِيَّةٌ جَزْوَانِيٌّ - زمین کا وہ قطعہ جس کے چاروں  
 طرف پانی ہو -

أَلْجَزِيرَةُ - عراق - دو آب و جلہ و فرات  
 أَلْجَزَائِرُ - شمالی افریقہ - علاقہ الجیریا -  
 جَزْعٌ يَجْزَعُ جَزْعًا - بے تاب ہونا - ٹھیکس ہونا -  
 رنجیدہ ہونا - بے صبر ہونا - رنج ظاہر کرنا -

جَزْعٌ سِلْمَانِيٌّ مَنَكَةٌ جَنِّ مِثْلُ سِيَاهِيٍّ وَسَفِيدِيٍّ هُوَ تَوْتِيٌّ هُوَ  
 سَنَكٌ سِلْمَانِيٌّ

أَجْزَلَ عَلَى وَدَلٍ كَسِيٍّ كَسِيٍّ مَعَهُ فَيَا صَ هُوَ نَابِهَةٌ  
 جَزِيلٌ - بہت بڑا - زیادہ کثیر - بِرَّ آلَةٍ - بہتات - دینا  
 جَزْمٌ يَجْزِمُ جَزْمًا - کاٹنا کسی بات کا نتیجہ کر لینا  
 جَزْمٌ بِالْجَزْمِ - اخیر حرف پر جزم دینا - ساکن کرنا -  
 جَزْمٌ - سکون - جزم - جَزْمٌ جَزْمٌ دِينَ وَالْأَحْرَفُ  
 جَزْوِيٌّ يَجْزِي جَزَاءً بِوَعْدِيٍّ - بدلہ دینا  
 انعام دینا

جَزَائِيٌّ مَجَازَاةً بِبَدَلِهِ دِينَ - جَزَائِيٌّ وَمَجَازَاةً  
 کسی چیز کا بدلہ - فوجداری - قانون معوضہ عوض  
 انعام -

قَانُونُ الْجَزْوِيِّ - ضابطہ فوجداری -  
 جَزِيدٌ - زمین کا خراج - ٹیکس جو غیر مسلم رعایا سے

فی کس کے حساب سے لیا جاوے - لگان زمین -

جَسَّ يَجْسُسُ جَسًّا - محسوس کرنا - ٹٹولنا -  
 چلنا - روندنا -

تَجَسُّسٌ - خبر دریافت کرنا - جاسوس رج

جَوَاسِيْسٌ - جاسوس - حالات دریافت کر نیوالا

جَسَّاسٌ - بہت کھوج لگانیوالا - مونت جَسَّاسَةٌ

تَجَسَّدَ - جسم والا ہونا - مضبوط ہونا - مادی یا جسمانی ہونا

جَسَدٌ أَجْسَادٌ - بدن - جسم - جَسَدِيٌّ - جسمانی

تَجَسَّدَ - اونٹن - مجسم - جسم اختیار کرنا -

جَسْرٌ يَجْسُرُ جَسْرًا عَلَى جِرَاتٍ كَرْنَا - دلیر

سے کام لینا -

تَجَاسُرٌ - دلیر و شوخ ہونا - جسارت دکھانا -

جَسْرٌ يَلُّ - بند - جَسْرٌ صِرَاطٌ - پل صراط -

جَسْوَرٌ - دلیر - بہادر - نڈر - متہور -

جَسْمٌ يَجْسُمُ جَسَامَةً - بڑا ہونا - جسم یا

موٹا ہونا - مضبوط ہونا -

تَجَسَّمٌ - جسم اختیار کرنا - جَسْمٌ أَجْسَامٌ

جسم - بدن -

جِسْمِيٌّ وَجِسْمَانِيٌّ - منسوب بہ جسم - بدنی -

کھوس چیز

جَسِيمٌ - بڑے جسم والا - کھوس - موٹا - مضبوط -

جَسَامَةٌ - فرہی - حجم - موٹاپا - اہمیت -

مَجْسَمٌ - کھوس - مادی - جسم

جَوْشَنٌ - ہتھیار - زرہ - جِصٌّ - چونہ - گچ -

جَصَّاصَةٌ - چونے کی بھٹی -

جَعَدٌ وَجَعَدٌ گھونگر یا لے بالوں والا۔ گندل دار  
بالوں والا۔

جَعْفَرٌ - نہر - دریا - ندی

جَعَلَ يَجْعَلُ جَعْلًا - بنانا - پیدا کرنا - تیار کرنا  
تبدیل کرنا - کسی چیز کو دوسرے کی جگہ رکھنا یا استعمال  
کرنا۔ (جعلی طور پر ایسا وٹی طریقہ سے)

جَعْدًا فَيْدٌ - علم جغرافیہ - زمین کے حالات کا علم۔

جَفَّتْ يَجْفُ جَفًّا - سوکھ جانا - خشک ہو جانا۔

جَفَفًا وَتَجَفَّفَ - سوکھنا - سُکھانا - سوکھ جانا - کھل جانا

تَجَفَّفَ خَشِيٌّ - خشکی - خشک کرنے کا فعل - مُجَفَّفٌ خَشِدٌ

کرنے والا۔

جَفْرٌ - علم جفر - جَفَادٌ - علم جفر جاننے والا - یعنی حروف

تہجی سے غیب کی باتوں - علم جاننے کا مدعی۔

جَفْنٌ جَ أَجْفَانٌ - آنکھ کی پلک پیوٹ۔

جَفَا يَجْفُو جَفَاءً - اجڑپن یا سختی سے برتاؤ

کرنا - ظلم کرنا۔

جَفَاءً - معاشرت میں سختی یا بُرا سلوک - ظلم - ناروا

جَلَّ يَجِلُّ جَلًّا وَجَلَالَةٌ - بڑا ہونا - طاقتور

ہونا - بزرگ ہونا - بڑی شان والا ہونا - عزت والا ہونا

أَجَلٌّ إِجْلَالٌ - تعظیم کرنا۔

جَلَالٌ وَجَلَالَةٌ - حضور - بادشاہ کا خطاب

جَلَالَةُ الْمَلِكِ

جَلَالِيٌّ - نسوب بہ جلال - خلافِ جمال - شان و شوکت والا

جَلِيلٌ جَ إِجْلَاءٌ - بڑی قدر والا - عظیم الشان -

مِنْ إِجْلَالِكَ - آپ کی عزت کی خاطر۔

مَجَلَّةٌ - کتاب - ضابطہ - رسالہ جو وقت مقرر پر شائع

ہو۔ کاغذ کا دستہ - جَالُوتٌ - ایک کافر کا نام جسے حضرت داؤد

جَلَا لَةً - انسانی شان و شوکت - احتشام -

جَلَبَ يَجْلِبُ - جَلْبًا - ہانکنا - کھینچنا - لانا جمع کرنا۔

مُجَلَّبٌ - کھینچنے والا - مادہ کو نکالنے والی دوائی - عرقِ کلاب

جَلْبَابٌ جَ جَلَابِيٌّ - چادر - عورت کا کون - شہد

جُدْبَلٌ جَ جَلَابِلٌ - گھنٹرو - چھوٹی گھنٹی - گویا نجینی۔

جُدْجَالٌ جَلْبَجَلَةٌ - گھنٹی کی آواز - کرک - گونج

جَلَدٌ يَجْلِدُ - جَلْدًا - کوڑے مارنا - کوڑوں سے پیٹنا۔

جَلَادَةٌ - جفاکش ہونا - قوت و صبر والا ہونا - استقلال۔

جَلْدٌ جَلْوَدٌ - کھال - چمڑا - جلد۔

جَلَلًا - کوڑے مارنے والا - جَلَادٌ - بے رحم - سزا دینے والا۔

مُجَلَّدٌ - جلد ساز - مُجَلَّدٌ - جلد کی ہوئی (کتاب)

جَلَسَ - يَجْلِسُ جُلُوسًا وَجَلَسًا - بیٹھنا - بیٹھنے

أَجْلَسَ - بیٹھانا - جَلَسَةٌ - ایک بیٹھک یا نشست۔

جَلِيسٌ جَ جَلِيسَةٌ - دوست ساکن - جَلِيسٌ بیٹھنے کی

جُلُوسٌ بیٹھے ہوئے کی حالت - تحتِ لُشِينِي - جَلِيسٌ

بیٹھنے والا۔

جَلْفَنٌ جَ أَجْلَافٌ - سخت گویا - جَلْفَنٌ

جَلَقَ ب - بمبارڈ کرنا - جَلَقٌ - جَلَقٌ

یعنی لاکھ مادہ الیہ لاکھ لاکھ جَلَقٌ وَجَلَقٌ

اپنے لاکھ سے اپنے مادہ الحیات کو ضائع کرنے والا۔

نامراد انسان۔

جَلَقٌ ایک ایسا کھناؤنا - قبیح اور ہلاکت آفرین

فعل ہے جس سے انسانیت کی مٹی پیدا ہو جاتی ہے



جَمَدٌ - بڑی تعداد۔ جَمَدٌ غَفِیْرٌ - بہت بڑا مجمع  
ہجوم۔ بھڑ۔ اڑوہام۔

جَمَدٌ جَمَدٌ جَمَدٌ جَمَدٌ - کھوپری۔ سردار۔  
جَمَدٌ بَجَمَدٌ جَمَدٌ أَوْ جَمَدٌ أَوْ جَمَدٌ - جمنہ۔ منجھو  
بستہ ہو جانا۔ خاموش ہو جانا۔ جَمَدٌ - ٹھوس چیز۔  
وہ لفظ جو کسی سے نہ نکلا ہو۔ جَمَادٌ جَمَادَاتٌ  
معدنیات۔ ٹھوس چیزیں۔ دھات۔ بے جان چیزیں۔  
نشوونما نہ پانے والا۔ جَمَادِیِ الْأُولَى - قمری مہینوں  
میں پانچواں مہینہ۔ جَمَادِیِ الْآخِرَةُ - قمری مہینوں  
میں سے چھٹا مہینہ۔

جَمَدٌ - اٹکیٹی۔ دھوپ داں۔ آتش دان۔

جَمْرَةٌ - سرطان یعنی کاربنکل کا پھوڑا۔ آتشک کا  
زخم۔ ڈھکنا ہوا انگارہ۔ کنکر۔

جَامُوسٌ - جَوَامِیسٌ - گاؤ بیس۔ بھینس۔ بھینس۔  
جَمَعٌ یَجْمَعُ - جَمْعًا - ملانا۔ اکٹھا کرنا۔ شامل کرنا۔  
مفروضے جمع بنانا۔  
جَمَعٌ - بہت اکٹھا کرنا۔ جامع علی۔ عورت سے  
ہم بستری کرنا۔

اجْتَمَعَ - اکٹھا ہونا۔ متفق ہونا۔ جمع جَمْعٌ - گروہ  
فوج۔ بھڑ۔ مجموعہ۔ الْجُمُعَةُ - جمعہ کا دن۔

جَمَاعٌ - مباشرت۔ قرین عورت سے۔ جَمَاعَةٌ - فرقہ  
جامع۔ مؤلف جمع کرنی والا۔ جَمْعُوعَةٌ - اکٹھا کیا ہوا۔

جَامِعَةٌ - مسجد جامع۔ یونیورسٹی۔ اعلیٰ تعلیم کا مدرسہ۔  
جَمِیْعٌ - تمام سب۔ جَمِیْعَةٌ - مجلس۔ کمیٹی۔ انجمن۔  
اجْتَمَاعٌ - اتفاق کل۔ یکجہتی۔ مذہبی مسئلہ میں سب عالموں کا اتفاق۔

جوانی کی تمام قوتوں کا ستیاناس ہو جانا ہے۔  
قبل از وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ آدمی دنیا  
میں کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ صحت براب  
اور دماغی و ذہنی قوی مردار ہو جاتے ہیں۔ اس  
فعل بد کا عادی بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ اور  
متفرق امراض میں مبتلا ہو کر ایسٹریاں گھٹنے رگڑتا  
ہوا جوانی میں ہی دنیا سے بصد حسرت و یاس رخصت  
ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسی بد عادت سے ہر مسلمان  
کو محفوظ رکھے آمین۔

جَلَقٌ - دمشق باغوطہ۔ جَوَالِقٌ جَوَالِقٌ - اُون  
یا بالوں کا بورا۔

جَلَبِیْتُ - پتھر پھینکنے کی مشین۔ فلاخن۔ گویا۔  
جَلَبِیْتُ - گل قند۔ گل نگبین کا معرب۔

جَلَنَارٌ - انار کی کلی۔ گل انار کا معرب

جَلَا یَجْلُو - جِلَاءٌ وَ جَلَوًا - صاف کرنا۔ صیقل  
پالش کرنا۔

جَلَالٌ - واضح اور ظاہر ہو جانا۔ جَلَا عَلٰی - دکھانا  
ظاہر کرنا (دُہن کا ڈولما پر)

أَجْلَى عَن بَلَدٍ - شہر سے جلا وطن ہونا۔ جَلِيٌّ - ظاہر ہونا۔  
بے نقاب ہونا۔ اِشْجَلِيٌّ - ظاہر ہونا۔ صفا ہونا۔

جَلَاءٌ - صفائی۔ چمکیلا پن۔ جلا وطنی۔ چمک دمک۔  
جَلِيٌّ - صاف۔ ظاہر۔ صریح۔ واضح۔ صیقل شدہ

أَجْلَى - زیادہ چمکیلا۔ زیادہ روشن۔ خوبصورت۔ صاف  
جَلِيٌّ - ظاہر ہوا۔ عیاں شدہ۔

جَلِيٌّ - یَجْلِيٌّ جَلِيًّا - ماتمخفا۔ رگڑنا۔ صیقل کرنا۔ چمکانا۔

تَجْمَعُ جَمْعًا مَجْمُوعًا سَنَكْمًا - جمع ہونے کی جگہ مجلس۔  
 جَامِعِيَّةٌ - کسی بات کا جامع مانع ہونا۔  
 جَمَلٌ يَجْمَلُ جَمَلًا - جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔  
 جَمَلٌ يَجْمَلُ جَمَالًا - خوبصورت ہونا۔ عمدہ ہونا۔  
 أَجْمَلٌ يُجْمَلُ أَجْمَالًا - اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔  
 تَجَمَّلَ - آراستہ ہونا۔ سجا ہوا ہونا۔  
 جَمَلٌ جَمْعٌ جَمَالٌ - اونٹ۔ جہاز کارستہ۔  
 حِسَابُ الْجَمَلِ - حروف سے حساب لگانا۔ حروف سے عدد نکالنا۔

جُمْلَةٌ - مجموعہ۔ میزان کل۔ جملہ۔ فقرہ۔  
 جَمَالٌ - خوبصورتی۔ عمدگی۔ ادب و قاعدہ۔ حُسن  
 جَمِيلٌ - خوبصورت۔ حُسن۔ اَجْمَالٌ خلاصہ۔ اَخْتَصَا  
 جَمَلٌ - مجموعہ۔ خلاصہ۔ میزان۔ بِالْاِجْمَالِ مختصراً  
 بِالْجُمْلَةِ وَفِي الْجُمْلَةِ - مختصر کلام۔  
 جَمَّهَرًا - جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ جَمَّهَرًا - عوام۔ پبلک  
 اکثریت۔ عام۔ بڑا حصہ۔

جُمْهُورِيَّةٌ - جمہوری حکومت بشرط۔ پارلیمنٹری  
 جُمْهُورِيَّةٌ - قوم سے متعلق۔ جمہوری۔ ہر لوجیز۔  
 جَنَّ - يَجْنُ - جَنًّا وَجَنُونًا - پردہ ڈالنا۔ ڈھانک دینا  
 چھپا دینا۔ پاگل ہونا۔ ج - ن کے مادہ میں چھپانے  
 کے معنی تمام مشتقات میں پائے جاتے ہیں مثلاً۔ جَنَّ  
 پوشیدہ مخلوق۔ جَانٌ یعنی روح جو نظر نہیں آتی۔

وہ باریک سانپ جو اپنی تیزی کی وجہ سے نظر نہ آسکے  
 جَنُونٌ - پاگل جسکی عقل بھپ جاوے۔ جَنَاتٌ دل جو  
 سینہ میں مخفی ہے۔ جَنِينٌ وہ بچہ جو رحم مادر میں

پوشیدہ ہے۔

جَنَّةٌ - ڈھال۔ جسکی اوٹ میں لڑنے والا اپنے آپکی  
 چھپاتا ہے۔ جَنَّةٌ جَنَاتٌ - باغ جو پتوں اور  
 شاخوں کی کثرت سے زمین کو چھپاوے۔

جَنَّبَ يَجْنِبُ جَنْبًا - دُور کرنا۔ علیحدہ کرنا جُنْبِي  
 یعنی ناپاک ہو جانا (مرد کا جماع یا اختتام کی وجہ سے)  
 جَنَّبَ يَجْنِبُ جَنْبًا - جنبی یا ناپاک ہونا۔  
 جَنَّبَ وَتَجَنَّبَ وَتَجَانَّبَ وَاجْتَنَّبَ دُور  
 ہونا۔ بچنا۔ دُور کرنا۔

جَنَّبَ جُذُوبٌ - پہلو۔ جسم کا نصف حصہ۔  
 جَانِبٌ جَوَانِبٌ طَرَفٌ - پہلو۔ پسلی۔  
 ذَاتُ الْجَنْبِ - سینے کا درو۔ پسلی کا درو  
 صَاحِبُ الْجَنْبِ - سفر کا۔ اَقْبَلُ

جَنَابٌ - درگاہ۔ بڑے آدمی کے خطاب کا لفظ۔  
 اِجْتِنَابٌ - الگ رہنا۔ جُنْتَبٌ الگ رہنے والا۔  
 جَنَابَةٌ - دوری۔ ناپاکی کی حالت۔ جَنَابَةٌ  
 جُنُوبٌ - دلہن۔ جُنُوبٌ - دلہن کی طرف والا۔  
 اَجْنَبِيٌّ اَجَانِبٌ - خیر۔ دُور۔ اجنبی۔ ماہر کا۔

جَنَمٌ يَجْنَمُ جَنْمًا - گناہ۔ جَنَمٌ  
 جَنَاحٌ - گناہ۔ جَنَاحٌ - گناہ۔ جَنَاحٌ

جَنَابٌ - گناہ۔ جَنَابٌ - گناہ۔ جَنَابٌ

جَنَابٌ - گناہ۔ جَنَابٌ - گناہ۔ جَنَابٌ

جَنَابٌ - گناہ۔ جَنَابٌ - گناہ۔ جَنَابٌ

جَنَاذَةٌ جَجَانِزُ - مروہ - تابوت تجہیز و تکفین  
جَنَزَادٌ - زنگار کا معرب -

جَنَسٌ ہم جنس کرنا - مشابہ کرنا - جَانَسٌ مَجَانَسَةٌ  
ہم جنس ہونا - یا ہم جنس معلوم ہونا - یکساں ہونا -

جِنْسٌ جِ اجْناسٌ - جنس - قسم - ذات - نسل -  
تذکیر و تانیث - قومیت - جنسیت - قومیت - ہم قوم ہونا  
مَجَانَسَةٌ وَ جِنَاسٌ - ہم جنسی علم بدیع میں ایک قسم  
کی صنعت ہے - قافیہ کی یکسانی - جَانَسٌ ایک ہی  
فرقے یا جنس کا -

جَنَفٌ - بے انصافی - ظلم - ایک طرف میدان  
مَنْ جَنَفٌ لِرَاطِيٍّ کی ایک مشین جس کے ساتھ پتھر پھینکے  
جاتے ہیں -

جَنِيٌّ يَجْنِيُّ جَنْبِيًّا - توڑنا - پھلوں کا اکٹھا کرنا -

جِنَايَةٌ گناہ کرنا - جرم کرنا - جِنِيٌّ - تازہ چنا ہوا پھل  
جَانٍ - جانی گنہ گار - مجرم - جِنَايَةٌ ظلم - تعدی - گناہ  
جَهْدٌ جِهَادٌ - نفاذ - وانا - صاحب الراہی -

جَهْدٌ يَجْهَدُ جَهْدًا فِي - بہت کوشش کرنا کسی کام میں

جَاهِدٌ يَجَاهِدُ مَجَاهِدَةً وَ جِهَادًا بے دینوں

سے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا - اللہ کی راہ میں دشمن دین سے جہاد کرنا

اجْتِهَادٌ وَ تَجَاهُدٌ - کوشش کرنا - اپنی طرف سے زور لگانا

جُهْدٌ - طاقت - وسیلہ - قابلیت - کوشش - مشقت -

جَهْدٌ سَخَتْ قَسْمَ كَهَانَا - جِهَادٌ وَ مَجَاهِدَةٌ - لڑائی

جنگ بے دینوں کے خلاف لڑائی - مذہبی جنگ -

اجْتِهَادٌ - شقت - سرگرمی - مسائل دینیہ کا استخراج  
کرنے کی قابلیت - سعی - کوشش -

مَجَاهِدٌ - مذہبی جنگ میں لڑنے والا -

جَهْرٌ يَجْهَرُ جَهْرًا وَ جِهَادًا اب اعلان کرنا -

ظاہر کرنا - زور سے بولنا - مشہور کرنا - عام ہونا -

جَهْرًا - علانیہ طور پر -

الْتَّ جَهَائِرُ الصَّوْتِ - لاؤڈ سپیکر - بلند آواز والا

جَهْرٌ - تیار کرنا - مہیا کرنا - تَجْهِيْرٌ - مردہ کی تجہیز و تکفین

کرنا - جِهَادٌ - دلہن کا جہیز - سامان ضروری -

بَجِهْلٍ يَجْهَلُ جَهْلًا وَ جَهَالَةً - نہ جاننا - ان پڑھ

ہونا - ناواقف ہونا - بے وقوف ہونا -

تَجَاهَلٌ - بناوٹی جاہل بننا - جان بوجھ کر انجان بننا -

بَجِهْلٍ وَ جَهَالَةً - بہالت - حماقت - بے وقوفی -

جَاهِلٌ جُجَاهِلٌ وَ جُهَالٌ - جاہل - ان پڑھ

بے وقوف

جَاهِلِيَّةٌ جہالت کی حالت - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے پہلے اہل عرب کی کفر و شرک کی حالت حضور علیہ السلام

کی بعثت سے پہلے کا زمانہ بے دینی -

جَهْوٌ بہت جاہل - تَجَاهُلٌ - مصنوعی یا بتاوٹی م

ناواقفیت

جَهْوٌ - نامعلوم - گمنام - فعل غیر معروف - ایسا فعل

جس کا فاعل معلوم نہ ہو - نامعلوم الاسم -

جَهْمٌ - دوزخ - زنگ - جَهْمِيٌّ - دوزخی -

جَوٌّ - کرہ ہوائی - فضا - خلا - و سِجِّ وادی -

جَاوِبٌ کسی سوال کا جواب دینا -

أَجَابَ بِجَوَابٍ جَوَابًا - جواب دینا - قبول کرنا  
اسْتَجَابَ لِجَوَابٍ دینا - سُنَّ لِنَا - التجا قبول کرنا -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سہ ماہی آسان عام فہم عربی لغات حصہ چہارم تعلیم العربیہ المعلومہ تلخیص العربیہ محمدیہ و تصالی علی رسولہ الکریم

پاکستان کا

# تلخیص العربیہ

واحد آرگن -

نمبر ۱ تا ۱۲

ماہ اکتوبر - نومبر ۱۹۴۸ء

۱۹۴۹ء

## فرینک لطیف لغات جدید

جلد نمبر

**انتباہ :-** اس سے پیشتر رسالہ میں دو سو اسی صفحات پر قرآن کریم کے ساتھ تین پاروں کے ۹۸ اسباق چھپ چکے ہیں اور چالیس صفحات پر خلاصتہ القرون و خلاصتہ النوا اور اسکے بعد چالیس صفحات پر عربی زبان کی لغات بھی شائع کی گئی ہیں یہ مطالعہ رسالہ میں بھی اسی لغات کا بقیہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اور جب تک لغات ختم نہ ہو جائے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لغات کے دو سو صفحات چھپ جانے پر پہلا سال ختم ہو جائے گا اور پہلی جلد چار سو اسی صفحات پر مکمل ہو جائے گی جو سال بھر کیلئے پورے کورس کا کام دے گی۔

جَوَادٌ مَّجَاوِدٌ - جَوَادًا - کسی کا پڑوس، ہونا ہمسائیگی میں رہنا - جَوَادٌ جِیْرَانٌ پڑوسی - جَوَدٌ زیادتی - جہر و تعدی - جَوَادٌ ہمسائیگی پڑوس - قرب - اِجَادَةٌ حفاظت - پناہ - جَوَادٌ پڑوسی - جِیْرٌ پناہ دینے والا - مَسْتَجِیْرٌ پناہ طلب کرنے والا - جَائِرٌ ظالم - بے انصاف - جَوَارٌ پڑوس - جَوْرَبٌ جَوَارِبٌ - جراب - جَوَارِسٌ باجرہ - جَوَارٌ جَوَارٌ اَوْ جَوَارِبٌ اَوْ جَوَارِبٌ - سفر کرنا - جَوَارٌ جَوَارٌ جَوَارٌ - جائز ہونا ایمان ہونا - درست ہونا - جَوَارٌ - جائز بنانا و سمجھنا - مباح ٹھہرانا - جَوَارٌ جَوَارٌ مَدَّةٌ مَدَّةٌ - آگے بڑھنا - اِجَارٌ جَوَارٌ اِجَارَةٌ - اجازت دینا - انعام دینا -

جَوَابٌ جَوَابٌ - سوال کا جواب - اُتْر - اِجَابَةٌ و اِسْتِجَابَةٌ - درخواست کی منظوری - قبولیت - جَوَابٌ مَسْتَجِیْبٌ - جواب بخیر والا - اِسْتِجَابٌ منظور شدہ درخواست اور سنی ہوئی دعا مقبول دعا یا عرض - جَوَابٌ جَوَابٌ - گریبان - کالر - جَوَادٌ جَوَادٌ - عمدہ ہونا - فضیلت و فوقیت لے جانا - عمدہ صفات والا ہونا - علی کے سلسلے سے فیاض ہونا - سخی ہونا - جَوَادٌ - سخاوت - فِیْضٌ - جَوَادٌ - عمدگی - خوب - جَوَادٌ سخی - فیاض - جَوَادٌ - عمدہ - خوب - جَوَادٌ سخی ایک پار کا نام جس پر حضرت نوح کی کشتی ٹھہری تھی - جَوَادٌ - جَوَادٌ عمدگی سے قاری کا قرآن کریم پڑھنا - سنوارنا - نوا کر تلاوت قرآن پاک کرنا - جَوَادٌ جَوَادٌ جَوَادٌ علی - کسی کو ستانا - کسی پر ظلم و ستم کرنا -

اِسْتِجَارَ - اجازت مانگنا - اجازت طلب کرنا -

جَوْزُ الخُرُوفِ جَوْزُ اَلْهِنْدِیَّیْنِ - اریلیں جوڑا لہندی میں پھل -

جَوْزَاءُ ایک برحق کا نام ہے -

تَجَاوَزَ فِی - حد سے گزر جانا کسی چیز میں حد اعتدال سے

بڑھ جانا - جَوَازُ السُّنَنِ - اہل راقی - پاسپورٹ -

اِجَازَةُ اِجَازَت - ڈپلوما - لائسنس - ادائت کی اجازت

جَوَازُ جَوَازِیْنِ - انا ام رصلہ خطا بخشش -

جَوَازُ - گذرگاہ - وہ لفظ جو کسی مراد سبت کی وجہ سے کسی

دوسرے معنی میں استعمال ہو - استعارہ جو حقیقت نہ ہو

جَوَازُ - استعارہ غیر حقیقی طور پر

جَاسٌ یَجْرَسُ جَوَسًا - جاسوسی کرنا - کھون لگانا -

بہت تازہ کرنا - جَوَاشٌ نکتہ چین بہت جستجو کرنے والا

جَوَسُوٌّ - قصر - محل - حویلی -

جَوَشْنٌ - چار آئینہ زرد کتہ

جَاعَ یَجُوعُ جَوْعًا وَجَاعَةً - بھوکا ہونا -

جَوْعٌ بھوکہ - جَوَاعٌ - بھوکا - گرہ سنا

جَوْعٌ کَلْبِیٌّ وَجَوْعٌ بَقْرِیٌّ - ایک بیماری جس میں سخت

بھوکہ رہتی ہے اور آدمی سیر نہیں ہوتا -

جَوُوفٌ یَجُوفُ جَوْفًا - کھوکھلا ہونا - اندر سے خالی ہونا

جَوُوفٌ - پیٹ سوراخ - ہوا خندا - پیٹ کے اندر میں -

تَجَوُّفٌ سوراخ - غار - خالی - جَوُوفٌ - کھوکھلا ہونا - اندر

اَجْوُوفٌ - وہ فعل جس کا عین کلمہ جو و ن علت ہو -

جَوُوفٌ جمع اَجْوَافٍ گروہ - بڑی جماعت - مجمع

جَبَالٌ یَجُولُ جَوْلًا وَجَوْلَانًا - گھومنا - گردش کرنا -

پھرتے رہنا - جَوَالٌ بہت چکر اگانے والا -

جَبَالٌ - راستہ - (اردو طاقت) گھومنے کی جگہ

جَوْلَانٌ گردش - سیر - آوارگی - گشت -

جَامِرٌ جَامَاتٌ - ساغر - کٹورا - پیالہ -

جَاهٌ - عزت - شان و شوکت - مرتبہ

جَوَاهِرٌ جَوَاهِرٌ - مقابلِ عرض ہوا اپنے وجود میں اور کا

محتاج نہ ہو - ہر ایک پتھر جس سے مفید چیز نکالی جاوے -

قیستی پتھر - موتی - گوہر - مہیرا - نظرت - عنصر - قدر و قیمت -

خوبی روح - جَوَاهِرٌ - قیاتی پتھر -

جَوَاهِرِیٌّ - جواہر فروش - جوہری - ذاتی -

جَاوِیٌّ یَجِیءُ یَجِیءًا - آنا - پہنچنا - واقع ہونا - کرنا -

جَنِیْبٌ جَنِیْبٌ - قید میں ناگرمیان - دل - سینہ کعبہ

تھیلہ - جَنِیْبٌ - گرمیان لافا -

جَنِیْبٌ جَنِیْبٌ - گردن - زرہ

جَنِیْبٌ حَبِیْبٌ جواب ہے جیسا کہ نعمت بھنی ہاں -

جَنِیْبٌ شکر جمع کرنا - جَنِیْبٌ جَنِیْبٌ شکر نون

جَنِیْبٌ لاش - مردار - مردہ جسم - شہری ہونے لاش -

جَبِیْبٌ جَبِیْبٌ قوم - ایک ندی کے لوگ - نسل

## حرف الحاء

حَبَبٌ یَحَبُّ حَبًّا وَحَبًّا مَحَبَّتٌ کرنا محبوب ہونا -

حَبَبٌ ہا پیارا بنانا - محبوب بنانا کسی کو پیارا بنانا -

أَحَبُّ - پسند کرنا - محبت کرنا - کسی چیز سے خطا اٹھانا

تَحَبُّبٌ الی محبت و دوستی کا اظہار کرنا -

اِسْتِحَبُّبٌ محبت کرنا - پسند کرنا - خوش ہونا -

حَبٌّ جَبُّوبٌ - دانہ - بیج - گولی - آبلہ - منکد





اِحْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا - اوپر سے نیچے اترنا۔ کھینکنا۔  
اتار۔ نزل۔ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اترنے والا۔

حَيْدَارٌ شِيرٌ  
هَذَا سِ يَحْدِئُ سِ حَدْ سِ اِقْيَاسِ يَ ا تَحْمِيْنُهُ كَرْنَا و سِ م  
کرنا۔ اندازہ کرنا۔

حَدَّاسٌ - دانائی۔ تیز فہمی۔ فراست۔  
حَدَّاقٌ يَحْدِئُ حَدَّاقًا - اوالہ کرنا۔ گھیرنا۔  
حَدَّاقَةٌ جِ اَحْدَاقٌ بَطْنِي يَ ا سِيَاةً اَحْدَاقًا  
حَدَّاقَةٌ جِ حَدَّاقٌ اِنْتِ - فسیلہ۔ بزمِ جین کے ارد گرد  
دیوار یا احاطہ کھینچا ہوا ہو۔

حَدَّاءٌ يَحْدِئُ حَدَّاءً اَدْنَى اَدْنَى حَدَّاءِي خَوَانِي سِ  
چلانا۔ رگ لگا کر ہانکنا۔ ترغیب دینا۔  
حَدَّاقٌ جِ حَدَّاقٌ - حدی خواں۔ اذمواں کو تیز چلانے  
کیلئے ہدایت لگایا جاتا ہے۔ اس سے تھوٹی کہتے ہیں۔

حَدَّاءِي فُشِّرٌ كَيْفَا سِ حَوَانِ يَ ا زِدْمِ  
حَدَّاءِي يَحْدِئُ حَدَّاءً اَوْ حَدَّاءِي سِ - بچا ہوشیار رہنا۔  
پرہیز کرنا۔ اَحْدَاقٌ - خطرہ سے آگاہ کرنا۔

حَدَّاءٌ - بچاؤ۔ پرہیز۔ احتیاط۔ تَحْدِئُ حَدَّاءً  
حَدَّاءِي - اسمِ فِعْلٍ مَعْرُوفٌ مَعْنَى تَحْدِئُ حَدَّاءً خَوْفًا  
حَدَّاءٌ جِ اَطَّ سِ هُوشِيَارٌ مَحْدَاقٌ و رَّ - خطرہ۔ خوف

حَدَّاءٌ يَحْدِئُ حَدَّاءً حَدَّاءً - گرا دینا۔ کھٹک دینا  
حَدَّاءٌ جِ اَطَّ جِ اَطَّ جِ اَطَّ - کھانا پیرا  
حَدَّاقٌ يَحْدِئُ حَدَّاقًا حَدَّاقَةً - ماہر ہونا۔ کھانے ہونا۔

حَدَّاقٌ - ماہر۔ ہوشیار۔ جمع حَدَّاقٌ - سِدَّاقٌ سِدَّاقٌ  
المقائس - جوتا۔ چپلی۔ تلا۔

تَحْدِئُ حَدَّاءً - آتش سلیمنے۔ طرائق میں میرا۔ مقابلہ  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - آزاد ہونا۔ حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - گرم ہونا۔

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - آزاد کرنا۔ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
وقف کرنا۔ تاب نہ دینا۔ کھینکنا۔ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - گرم۔ حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - آزاد کرنا۔ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - گرم۔ حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - ترک کرنا۔ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - آزاد و شریف ہونا۔ بگڑے ہوئے۔  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا

حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا  
حَدَّاءِي حَدَّاءً اِنْتَدَا - حَرَّاءٌ جِ اِنْتَدَا اِنْتَدَا اِنْتَدَا



حَرَزِيحٌ زَحْرًا - خوب حفاظت کرنا۔

حِرْزٌ - تعویذ۔ حفاظت۔ پناہ۔ بچاؤ۔

حَرَسَ يَحْرَسُ حِرَاسَةً - حفاظت کرنا نگہبانی کرنا۔

حَارِسٌ حِرَاسٌ - محافظ۔ نگہبان۔ چوکیدار۔ سنتی

حِرْصَةٌ - دار الخلافہ۔ زیر حفاظت علاقہ

حَرَسَ يَحْرَسُ حِرْصَةً عَلَى حَرَمٍ - لالچ کرنا۔ بہت چاہتا۔

حَرَسَ عَلَى - اگسا ناخیرا جس لالچی بہت چاہنے والا۔

حَرَفٌ يَحْرِفُ حِرْفًا - پیر وینا۔ مہانا

حَرَفٌ يَحْرِفُ حِرْفًا - کلام میں کانٹ چھانٹ کرنا۔

اِحْتَرَفَ كُنَّارَةً - مائل ہو جانا اشرف کرنا۔

اِحْتَرَفَ - اختیار کرنا۔ حَرَفٌ كُنَّارَةً

حَرَفٌ ج حُرُوفٌ - معنی حرف۔ لفظ۔ بخولوں کے نزدیک

وہ کلمہ جو دو حرفوں سے مل کر معنی دے حَرَفٌ نَفْلٌ

حَرَفٌ نَفْلٌ لَفْظٌ بِلَفْظٍ - حِرْفَةٌ - پیشہ۔ مہر۔ حَرَفٌ مَهْرٌ

حَرَفٌ زَبَانٌ كَيْ حَبْنٌ وَالِي دَوَا - حَرَفٌ اِبْنِي اَصْلٌ سِ

پھیرا ہوا کلام کانٹ چھانٹ کی ہوئی کتاب (نا درست۔

بیرس۔ کج سخنور کج۔ بیسوا۔ ایک طرف جھکا ہوا

حَرَقٌ يَحْرِقُ حَرَقًا - آگ سے جلانا۔

اِحْتَرَقَ - جل اٹھنا۔ بھڑکنا۔ جلنا۔

حَرَقٌ كَرْمٌ - سوزش۔ جلن۔ تڑپ۔

حَرَقَةٌ - آتش نشان جہاز۔ تار پیدو۔

حَرَقٌ كَرْمٌ - شعلہ۔ آگ لٹنا

حَرَقٌ كَرْمٌ - جلانے والی (تپ) احتراق جل جانا جل اٹھنا

حَرَكٌ يَحْرِكُ حَرَكَةً - ہلنا جلنا۔ حَرَكٌ - ہلانا۔

اگرانا۔ ابھارنا۔ حَرَكٌ حَرَكَةٌ - حرکت دینے والا۔ تحریک کرنا۔

ترغیب دینے والا

حَرَكَاتٌ - اردو میں (نا جائز کام)

حَرَمٌ يَحْرَمُ حَرَمًا - منع کرنا۔ روکنا۔ حرام کرنا۔

حَرَمٌ يَحْرَمُ حَرَمًا - ناجائز ہونا۔ ممنوع ہونا۔

حَرَمٌ يَحْرَمُ حَرَمًا - حرام قرار دینا یا مقدس ٹھہرانا

اِحْرَامٌ - حرم میں داخل ہونا۔ حج میں مقدس حد میں داخل

ہونا۔ احرام باندھنا۔ اِحْتَرَمَ مَقَدِسٌ سَجْدًا - عزت

وحرمت کرنا۔ بزرگ جاننا۔ تعظیم کرنا۔ حَرَمٌ كَرْمٌ

بیت اللہ شریف۔ حَرَمَانٌ - مکہ و مدینہ شریف۔

حَرَمَةٌ - حَرَمَاتٌ مقدس چیز۔ ممنوع چیز۔

حَرَمٌ - بیوی۔ خاندان۔ گھروالے۔

حَرَمٌ - مکان کا زمانہ حصہ۔ شاہی محل کے گرداگرد

کی وسیع جگہ۔

اَلْاَشْهَرُ الْحَرَمُ - عزت کے چار مہینے۔ ذوالقعدہ۔

ذوالحجہ محرم اور رجب ان میں عرب ارمانی ناجائز سمجھتے

تھے اسلام نے بھی اس بات کو برقرار رکھا۔

حَرَامٌ - خلاف حلال۔ ناجائز۔ قابل عزت۔

حَرَمٌ اِسْلَامِيٌّ - سال کا پہلا مہینہ۔

حَرَمٌ - ممنوع۔ ملعون۔ مردود۔

اِحْرَامٌ - معین مقامات سے زیارت کعبہ اور حج کرنے

کے چند جائز باتوں کو چھوڑ دینا اور بن سب کپڑوں کے

ساتھ بدن کو ڈھانکے رکھنا۔

مَحْتَرَمٌ - بزرگ۔ معظّم۔ معزز۔

مَحْرَمٌ واقف۔ لازداد بہ زبان اردو

حَرَامِيٌّ - چود۔ ڈاکو۔ بددیانت۔

مَحْرَمٌ ج مَحَارِمٌ - ناجائز کام - حرم  
 حَوْمَلٌ ہرمل - کالا دانہ - اسپندہ - ایک قسم کی بودار  
 بُوٹی جو دھونی کے کام آتی ہے -

حِزْبٌ یَحْزِبُ حِزْبًا - کتاب کو ابواب میں تقسیم کرنا  
 حِزْبٌ ج أَحْزَابٌ - گروہ - پارٹی - جتھا - کتاب کا حصہ  
 اوراد و وظائف کی کتاب -

حِزْمٌ یَحْزِمُ حِزْمًا - پکے ارادہ والا اور مستقل  
 مزاج ہونا حِزْمٌ مَضْبُوطٌ ارادہ والا -

حِزْنٌ یَحْزِنُ - رنجیدہ کرنا - غمناک کرنا -  
 حِزْنٌ ج أَحْزَانٌ - غم - رنج - اوداسی محزُونٌ غمگین  
 حِزِیْنٌ غمگین - اداس -

حِشٌّ یَحِشُّ وَاحِشٌ حِشًّا - معلوم کرنا - محسوس کرنا  
 حِشٌّ - حرکت - آہستہ آواز - احْشَاسٌ اوراک  
 حَاشَتْ ج حَوَاشٍ دریافت کرنے کی قوت  
 حَوَاشٍ خَمْسٌ پانچ نہیں (سو گھنٹا - سنڈا - دیکھنا -  
 پکھنا - چھوٹا -) حِشِیْسٌ آہٹ - نرم آواز  
 حَسِیْبٌ یَحْسِبُ حِسَابًا - شمار کرنا - گننا - پرواہ کرنا -  
 حَاسِبٌ حساب چکانا -

حَسِیْبٌ یَحْسِبُ حِسْبَانًا - خیال کرنا لگان کرنا ہوج  
 بچار کرنا - غور کرنا -

حَسَبٌ یَحْسَبُ حَسْبًا حَسْبٌ نَسْبٌ والا ہونا بشارت  
 اور معزز خاندان سے ہونا -

حَاسِبٌ مَحَاسِبَةٌ کسی سے حساب پوچھنا -

إِحْتِسَابٌ اندازہ کرنا - ثواب کی امید رکھنا -

حَسْبٌ بَوَکَافٍ ہو - کفایت - اندازہ - خاندانی شرافت شمار -

حَسْبًا - موافق - مطابق

حَسِیْبٌ بدلہ لینے والا - معزز - منتقم -

حِسَابٌ ج حِسَابَاتٌ - شمار - اندازہ - تعداد - کافی -

حِسَابَاتٌ مصیبت - محسوب شمار کیا ہوا - گناہوا

حَاسِبٌ حساب لینے والا حَسِیْبٌ مساوی - برابر -

حَسَدًا یَحْسِدُ حَسَدًا - حسد کرنا حَاسِدٌ حسد کرنے والا -

حَسُوْدٌ ج حَسَوَاتٌ - حسد کرنے والا -

حَسْرٌ یَحْسِرُ حَسْرًا - تھکنا - جانا - کمزور ہونا -

حَسْرٌ - افسوس کرنا - تھکنا - افس بھرنا -

حَسْرَةٌ - افسوس - ندامت - تھم - تھکنا - افس -

حَسِیْرٌ افسوس کرنے والا -

حَسَمٌ یَحْسِمُ حَسْمًا - کاٹنا حَسَامٌ کھنڈے والی تلوار

حَسُوْمٌ بدبختی -

حَسَنٌ یَحْسِنُ حَسَنًا - خوبصورت ہونا -

أَحْسَنٌ - نیک سلوک کرنا -

إِحْتِسَانٌ - اچھا جاننا - پسند کرنا -

حَسَنٌ ج حَسَائِنٌ - خوبصورتی - زینت - نیکی -

حَسِیْنٌ خوبصورت - أَحْسَنٌ زیادہ اچھا

حَسَنَةٌ ج حَسَنَاتٌ نیک - اچھا کام

إِحْسَانٌ - فائدہ - شرف - نیکی -

حَسِیْنٌ پسندیدگی - زینت زیبائش -

حَسَائِنٌ - اچھے کام - نیک عمل -

حَشِیْشٌ - خشک گھاس - بھنگ کا پودا

حَشَا شِیْنٌ - بھنگ پینے والے -

حَشْرٌ یَحْشُرُ حَشْرًا جمع کرنا - اکٹھا کرنا -

یَوْمَ الْحَشَاةِ - قیامت کا دن - اَلْکَا ہونے کا روز  
حَشَاةٌ ج حَشَاةَاتٌ کثیر سے لکڑیوں -  
حَشَاةٌ جمع ہونے کی جگہ - میدان قیامت  
اِحْتَشَمَ - شرمندہ ہونا - مرعوب ہو جانا - ہدیت  
زور اور خوف زور ہو جانا -

اِحْتِشَامٌ ایک مروانہ مرض جس میں باوجود قوت باہ  
اور طاقت مردی کے موجود ہوتے ہوئے فریق ثانی  
کا رعب پڑے جس کی وجہ سے طاقت مردی زائل ہو  
جاتی ہے اور مرد اپنے آپ کو نامرد خیال کرنے لگتا ہے  
اس مرض کا علاج تقویٰ و مفرح قلب اور یہ کے استعمال  
سے کیا جاتا ہے -

حَشَمٌ و حَشَمَةٌ خاندان کو کہہ کر جاہ و جلال  
حَشَمٌ - کنارہ لگانا - حاشیہ لکھنا -

حَاشِيَةٌ اونی لوگ کتاب کا حاشیہ (اردو)  
حَشَوِيٌّ کلام کا زائد حصہ -

حَشَوِيٌّ فضول کلام والا - بکواسی  
حَشَمِيٌّ - بھرتی والا - بھرا ہوا - وہ کتاب جس کے  
کنارے پر حاشیہ لکھا ہوا ہو -

حَاشَا - استنہا کرنے کا کلمہ جیسے مَرَبْتُ الْقَوْمَ  
حَاشَا زَيْدًا سوائے زید کے میں نے قوم کو مارا  
کلمہ تشریح جیسے حَاشَا لِلَّهِ خدائی پناہ -

حَاشَا لِلَّهِ خدائی پناہ -

حَصٌّ يَحْصُ حَصًّا کسی کے حصہ میں آنا -

حِصَّةٌ ج حِصَصٌ - بخرہ - بجز حصہ قیمت نصیب  
حَصِبٌ يَحْصِبُ حَصْبًا - چوپا کا نکل آنا -

جَعَتِبٌ شکر ہے - لکڑی - ایندھن

حَصْبَةٌ - چوپا - خسہ - مٹا

حَاصِبٌ ایسی سخت اور تیز آمدی جو چھوٹے پتھروں  
کو اڑالے جائے

حَصَّصَ - صاف اور عیاں ہو جانا -

حَصَرَ يَحْصِرُ حَصْرًا وَاَحْصَرَ - گھیرنا - قید کرنا

روکنا - باندھنا - حَصْرًا حَصْرًا چاروں طرف سے شے

گھیرنا - اِحْصَرَ رُكَا جَانَا باندھا جانا - حَصْرًا قِيدًا

بِحَصْرٍ - حَصْرًا قَلْعَةً - ناکہ بندی

بِالْحَصْرِ - فِي الْحَقِيْقَةِ - صحیح طور پر حَصْرًا پزیرگار

حَصِيْرٌ ثِبَالِيٌّ حَصُوْرٌ قَلْعَةً بند گھرا ہوا - بند کیا ہوا

حَصَلٌ يَحْصُلُ حَصُوْلًا - ثابت ہونا - باقی رہنا -

حَصَّنَ تَحْصِيْلًا - حاصل کرنا - جمع کرنا - اکٹھا کرنا -

حَاصِلٌ مَجْ حَوَاصِلٌ - باقی نتیجہ اَلْحَاصِلُ - قصہ کوتاہ

المختصر - نتیجہ - نائدہ - نفع حَصُوْلٌ - وقوع - وصولی -

حَصُوْلٌ ج حَاصِلٌ نتیجہ - پیداوار - حاصل زمین

حَصْنٌ يَحْصِنُ حَصِيْنًا و حِصَانَةً - منسوب و مستحکم

ہونا - عورت کا پاک دامن ہونا تَحْصِنُ قَلْعَةً بند ہونا -

حِصْنٌ ج حِصَوْنٌ - قلعہ حصین مضبوط حصان

گھوڑا حِصِيْنٌ حِصِيْنَةٌ پاک دامن -

حَضَرَ يَحْضُرُ حَضُوْرًا - موجود ہونا - حاضر ہونا کسی جگہ

آنا - پہنچنا -

حَضْرَةٌ - حضور - سرکار کلمہ تعظیم ہے

حَضْرَتِي شہر کار ہونے والا - حَاضِرٌ ج حَضَارٌ

موجود - آنکھوں کے سامنے

الْحَاضِرُ - زمانہ موجودہ - زمانہ حال  
 حَضْرَةٌ وَحَاضِرَةٌ - شہری زندگی کی تہذیب  
 حَاضِرَةٌ - گفتگو سوال و جواب - حاضر جوابی -  
 حَضْرًا - جمع ہونے کی جگہ - دستاویز - تمک  
 حَضَنَ يَحْضُنُ حِضَانَةً - اندھے سینا  
 حِضَانَةٌ - بچوں کی پرورش اور خبر گیری اور تربیت  
 حِضْنٌ - گور - بغل

حَطَّ يَحْطُّ حَطًّا - گر جانا اِنْحَطَّ - گرنا اترنا - نیچے آجانا  
 اِنْحَطَّ - انا - مغزولی - تنزل حَطًّا - اِنْحَطَّتْ اَنْبُش  
 حَطَّبَ يَحْطِبُ حَطْبًا - جلانے کی لکڑیاں کاٹنا یا جمع کرنا  
 حَطِّبٌ - ایندھن چننے والا -

حَاطِبُ اللَّيْلِ - کلام میں رطب دیابس ملانے والا -  
 بہت کلام کرنے والا والا -  
 حَطَّامُ الدُّنْيَا - دنیا کا سامان -

حَطِيمٌ - کعبہ شریف کی دیوار جو بیت اللہ سے باہر ہے  
 حَطْمَةٌ - دوزخ کی آگ -

حَطَّ يَحْطُّ حَطًّا - نصیب والا ہونا

حَطَّ خَرِشٌ - قسمتی - سعادت - حصہ دولت -

حُظُوْظٌ - نعمت سے متمنع ہونے والا

اِحْتِطَاطٌ - حط یا لطف حاصل کرنا -

حَذَرَ يَحْذَرُ حَذْرًا - موشی کو باڑ کے اندر بند کرنا - وگنا

منع کرنا - حَظِيْرَةٌ - باڑ - باڑا -

حَظِيْرَةُ الْقُدْسِ - بہشت - فردوس - جنت

حُظُوْرَاتٌ - منع کی ہوئی یا حرام چیزیں -

حَقَّةٌ - عورت کی سواری کی پالکی -

حَقِيْدٌ - حَقًا - پوتا - بیرو پسری

حَفْصَةٌ - بھلائی کو اکٹھا کرنے والی -

حَفِظَ يَحْفَظُ حِفْظًا - عنایع ہونے سے بچانا - یاد کرنا

تَحَفُّظٌ - محتاط رہنا - چوکنا اور ہوشیار رہنا

حَافِظَةٌ - قوت حافظہ یاد رکھنے کی طاقت -

حَافِظٌ - حَفَظَ - زبانی یاد رکھنے والا -

حَافِظَةٌ - نگہبانی - سرپرستی - حَفُوْظٌ - بچایا ہوا یا دیکھا ہوا

حَفَلٌ - يَحْفَلُ حَفْلًا - لڑکوں کا اکٹھا ہونا -

اِحْتِفَالٌ - مجلس جہنا - جلسہ منعقد ہونا - اکٹھا ہونا -

حَفْلٌ - حَفَايِلٌ - مجلس - جلسہ - انجمن - محفل -

حَقٌّ - يَحِقُّ حَقًّا - بحث میں غالب آنا ثابت کرنا -

معاوم کر لینا - یقین رکھنا -

حَقَّقَ - تصدیق کرنا - تحقیق کرنا -

تَحَقَّقَ - ثابت ہونا - یقین کرنا - ضروری ہونا -

اِسْتَحَقَّ - حقدار ہونا - ضروری ٹھہرانا

حَقٌّ - سچائی - درست - ٹھیک - سچ - بطور ثابت ثابت ہونا

حَقِيْقٌ - عزادار - حق - لائق

حَقِيْقَةٌ - حَقَائِقٌ - واقفیت - چوگان - حقدار ہونا

حَقِيْقِيٌّ - اتلی - واقع - درست - ٹھیک

اِحْتِقَاقٌ - زیادہ حق دار - حقدار ہونا

حَقِيْقٌ - تحقیق یا یقین کرنے والا -

حَقَّةٌ - تہ بند و بچی عطر وغیرہ کی

حَقَبَةٌ - حَقَابٌ - لہاء - جہاں سے اس سال یا زیادہ

حَقْدًا - کینہ - پوشیدہ دشمنی - نفرت

حَقْرٌ - يَحْقِرُ حَقْرًا - حقیر یا ذلیل جاننا - اہانت کرنا -

تَحْقِرُ - تحقیر کیا ہوا - ذلیل سمجھا ہوا۔  
 حَقِیرٌ ذلیل - رسوا - خوار - تحقیر ذلیل سمجھنا  
 حَقْلٌ ج حَقُولٌ سبز کھیتی - زرخیز کھیت  
 حَقْنَةٌ ہر ایسی دوائی جو بیمار کی مقبرہ میں نشانی نکالنے  
 کے لیے چڑھائی جائے۔  
 اِحْتِقَانٌ حَقْنَةٌ کرنے کا عمل و پچکاری کرنا۔  
 حَقْنَةٌ پچکاری کرنے کا آلہ۔  
 حَاتٌ یَحْتُ حُكَّابٌ او علی رُطْنَا - ملنا - چھیلنا۔  
 کھڑچنا - سونا کسوٹی پر کرنا۔  
 حِلَّةٌ کھجلی - خارش کی مرض حِکَّ کسوٹی - حِکَّ رُکَّ  
 چھیل چھال۔  
 حُكَّ کُکَّ پتھروں کو رگڑ کر تھریں اور نگینہ بنانے والا۔  
 حُكْمٌ حُكْمٌ حُكْمًا وَحُكُومَةٌ ب فیصلہ کرنا حکم دینا اختیار کرنا  
 حُكْمٌ حُكْمٌ حُكْمًا عاقبت ہونا - دانا ہونا۔  
 حَاكِمٌ وَاحَاكِمٌ حَاكِمٌ کرنا - حاکم بنانا - فیصلہ صادر کرنا  
 حَاكِمٌ - اپنی مرضی سے فیصلہ نہوانا اپنی رائے سے  
 فیصلہ دینا اِسْتَحَاكَمَ - اچھی طرح عمل میں لانا مضبوط بنانا  
 حَاكِمٌ ج اَحْکَامٌ - فیصلہ دانا - قانون - حَاكِمٌ حَاكِمٌ نَاكِمٌ  
 حَاكِمَةٌ ج حَاكِمٌ عقل - علم - دانائی - فلسفہ فن طبیب - نبی  
 باتوں کا علم - حکمت کی بات۔  
 حَاكِمَةٌ - باور شاہت - گورنمنٹ۔  
 حَاكِمٌ ج حَاكِمٌ - قاضی - جج - گورنمنٹ کے عہدہ دار  
 حَاكِمٌ ج حَاكِمَاءٌ - دانا - طبیب - فلاسفر - عالم - ڈاکٹر  
 حَاكِمَةٌ حَاكِمَةٌ - حَاكِمَةٌ کچھری - عدالت  
 حَاكِمٌ مَآخِذٌ حَاكِمٌ مَآخِذٌ - مستحکم۔

حَاكِمٌ یَحْكِي - حَاكِمَةٌ عَن - بیان کرنا - نقل کرنا - کہنا۔  
 قَصْدٌ كَاذِرٌ كَرِيْمٌ - حَاكِمٌ - حَاكِمَةٌ بیان کرنے والا۔  
 حَلٌّ یَحْلُ حَلًّا حَلُولًا - اترنا - آرام کرنا - مشیم ہونا۔  
 آزاد کرنا - کھولنا - آزاد کرنا۔  
 حَلٌّ یَحْلُ حَلًّا وَحَلًّا لًا - جائز ہونا - حلال ہونا - حلال ہونا  
 درست ہونا - اَحَلَّ - اِحْرَامٌ سے نکلنا - حلال قرار دینا۔  
 اِسْتَحَلَّ - جائز سمجھنا یا حلال شمار کرنا۔  
 حَلٌّ - جائز - حلال - قسم سے بیت۔  
 حَلَّةٌ ج حَالٌ - بنبہ - لہارہ - پوشاک  
 حَلِيلَةٌ ج حَلَالٌ - بیوی - ساتھی۔  
 اِحْلَالٌ حج کی رسومات سے فارغ ہونا۔  
 حَلَّلٌ ورم اتر جانا - حل ہو جانا - گلانے کا عمل  
 حَلُولٌ کھولا ہوا - حل کیا ہوا۔  
 حَلَّةٌ سَرَّةٌ - اِسْتِشْنٌ - قیامگاہ۔  
 حَلٌّ - اترنے کی جگہ - ٹھہرنے کا مقام  
 حَلَبٌ یَحْلِبُ حَلَبًا - دودھ دوہنا۔  
 حَلَبٌ وَحَلِیْبٌ نکالا ہوا دودھ  
 حَلَوْبٌ گڑ گڑ دودھ کی طرح بنایا ہوا۔  
 حَلْبَةٌ سِیْئَةٌ - حَلَاجٌ رَوْنٌ وَهَنْنٌ وَال  
 حَلَزُونٌ گھونگا - سنگھ۔  
 حَلَفٌ یَحْلِفُ حَلْفًا - قسم کھانا۔  
 حَلِیْفٌ پکا دوست - ہم عہدہ - رفیق۔  
 حَلْفٌ ج اِحْلَافٌ - قسم - عہدہ - پیمانہ۔  
 حَلَقٌ یَحْلِقُ حَلَقًا - سر توڑنا - حلق پر مارنا  
 حَلَقٌ ج حُلُوقٌ - گلا - حلقوم - نالو۔

حَلَقَةٌ ج حَلَقَاتٌ - دائرہ کنڈل - گھیر - بالی - چھلا - کڑا  
لوگوں کا مجمع - حَلَاقٌ نائی - حجام - شتر تراش -  
حَلَقُومٌ نرزا - گلا -

حَلَمٌ يَحْلُمُ حَلْمًا - خواب دیکھنا - نیند میں رویا دیکھنا -  
حَلَمٌ يَحْلُمُ حِلْمًا - نرم خو ہونا - نرم دل اور بردبار ہونا -  
اِحْتَلَمَ - جوان ہونا - بالغ ہونا - حِلْمٌ تَحْلُمٌ - نرم خوئی  
حَلْمٌ ج اَحْلَامٌ خواب - رویا - بلوغت  
فَحْلَمٌ خواب دیکھنے والا حَلِيمٌ ج حَلَمَاءٌ نیک مزاج  
برابر - درگزر کرنے والا -

حَلَا يَحْلُو حَلَاوَةً - میٹھا ہونا - لذیذ ہونا -

حَلِي الْجَلِي حَلِيًّا - عورت کا زیور پہننا -

حَلَاوَةٌ مِثْهُاسٌ حَلَوِيٌّ - مٹھی پیر مٹھائی -

حَلْوَانٌ - عطیہ - بخشش - نیس -

حَلْوَانِيٌّ - شیرینی فروش - حلوانی -

حَلْوٌ مِثْهُا - اُحْلَى - بہت میٹھا -

تَحْلِيٌّ مَزِينٌ ہونا - حَلِيَّةٌ زیور -

مَحْلِيٌّ - آراستہ - زیور پہنایا ہوا -

حَلِيَّةٌ - حلیہ - شکل و صورت -

حَمٌّ يَحْمُ حَمًّا - گرم ہونا - کلا ہونا -

حَمٌّ يَحْمُ حَمًّا - بخار آجانا -

حَمِيمٌ - گرم پانی - گہرا دوست -

حَمِيٌّ ج حَمِيَّاتٌ - بخار -

حَمُومٌ بخار والا - جسے بخار چڑھا ہو -

اِسْتَحَمَ - گرم پانی سے نہانا - حمام کرنا -

حَمَامَةٌ ج حَمَامٌ کبوتر - فائنٹہ ہر طوقدار پرندہ حمام ہوت

حَمَامِيٌّ - حمام والا -

حَمْدٌ يَحْمَدُ حَمْدًا او حَمْدَةً تعریف کرنا - قدر دانی کرنا -

بلکہ دینا حَمْدًا خدا کی تعریف کرنا - الحمد شد کہنا -

حَمِيدٌ - تعریف کیا گیا قابل تعریف -

الْعُودُ اَحْمَدُ - اعادہ زیادہ قابل تعریف ہے -

تَحْمِيدَةٌ ج مَحَامِدٌ - قابل تعریف کام

حَمَادٌ بہت تعریف کرنے والا -

فَحَمَدٌ تعریف کیا ہوا - مہرا اور ثنا

اَحْمَدٌ زیادہ ... تعریف کرنے والا -

مَحْمَدٌ ہے شمار عمدہ خصالتوں والا -

حَمْسٌ لَالٌ رَنُكُنَا - لال کرنا

اِحْمَرٌ لَالٌ ہونا یا ہونا - سرخ ہونا -

حَمْرٌ مَسْرٌ حَمْرٌ حَمِيَّةٌ گدھا

اِحْمَرٌ ج حَمْرٌ مَسْرٌ حَمْرٌ مَسْرٌ کرنے والا

اِحْمَرِيٌّ - سخت سرخ - حَمْرٌ مَسْرٌ رنگ سے رنگا ہوا

حَمِيٌّ يَحْمِقُ حَمَقًا و حَمَاقَةً ہوقوف ہونا -

حَمَقٌ ہوقوف کہنا - اِحْمَقٌ ہوقوف

بِقَلَّةٍ اِحْمَقَاءٌ خُزْفَةٌ -

حَمَلٌ يَحْمِلُ حَمْلًا اِطْحَانًا - برداشت کرنا -

حَمَلٌ حَمَلَةٌ عَلَيَّ حَمَلَةٌ كَرِيْمَةٌ - حَمَلٌ اِحْتِمَالٌ اِطْحَانًا -

اِحْتِمَالٌ ہے ہونا - ممکن ہونا -

حَمَلٌ ج اِحْمَالٌ - بوجھ - جنین - بچل -

حَمَلٌ ج حَمُولَةٌ بوجھ - بار - حَمَلٌ ج حَمْلَانٌ - بھیر کا بچہ

بَرَجٌ حَمَلٌ - حَمْلَةٌ - دھاوا - یوش - لِسَانٌ اِحْمَلٌ اَبْرَتُكُ

حَمَالٌ پانڈی - قلی - بوجھ اٹھانے والا -



مَحِيْطٌ اَعْلَاهُ كَرْنِي وَاللَّحْمُ سَمْدٌ

حَاكٌ يَحُوْكُ حَوْكًا وَحِيَاكَةٌ بِنَا كِبْرًا وَغَيْرُهُ

حَايِكٌ - جَلَاهَا كِبْرًا بِنِي وَاللَّحْمُ كَهْدِي -

حِيَاكَةٌ بَانْدُكِي كَاكَامٌ -

حَاَلٌ يَحُوْلُ حَوْلاً اِيكٌ حَاَلَتٌ سِي دُوَسْرِي مِي بَدَلْنَا

حَوَّلَ تَبْدِيْلٌ كَرْنَا - تَحْوِيْلٌ كَرْنَا - اَحْوَالٌ اَنَّهُ طِيْرٌ صِي بَنَا -

تَحْوَالٌ اِلَى الْمَنْتَقَلِ هُوْنَا اِحْتِمَالٌ اِحْتِيَآلًا - مَكَارٌ هُوْنَا جَاكِرٌ

اِسْتِحْوَالٌ مَتَغِيْرٌ هُوْنَا جَانَا - بَدَلٌ جَانَا - مَحَالٌ وَنَا مَكْنٌ هُوْنَا

حَاَلٌ جَ اَحْوَالٌ - حَاَلَتٌ - صَفَتٌ - وَضَعٌ قَطْعٌ

فِي الْكِحَالِ وَحَاَلًا - فَوْرًا - مَسْرُوْمَتٌ حَاَلَةٌ مَحَاَلَاتٌ

حَاَلَتٌ - طَوْرٌ - طَرِيْقَةٌ - حَاَلِيٌّ مَسُوْبٌ بِرِزْمَانَةٍ مَحَالٌ هُوْجُوْدٌ

حَوْلٌ - طَاَقَتٌ - اِيكٌ سَالٌ - اَحْوَالٌ - بَهِيْنِكَا -

حَوْلٌ بَهِيْنِكَا بِنٌ - حَوْلٌ - چَارُوں طَرَفٌ كَرُوَا كَرُوْدٌ -

حَوَالَةٌ - قَرْضٌ اَنَا رْنَا - حِيْلَةٌ جَ حِيْلٌ - دَاوُكَاَتٌ

تَدْبِيْرٌ - حَكْمَتٌ - بَهَانَةٌ - تَحْوِيْلٌ وَ اِحْوَالَةٌ تَغْيِيْرٌ تَبْدِيْلٌ -

اِتْقَالٌ - مَحَالٌ خِلَافٌ عَقْلٌ لَّا مَحَاَلَةٌ بِي شَبَهٌ مَسْرُوْمَتًا

مَحْتَالٌ مَكَارٌ جَدِيْدٌ مَسْتَحْيِيْنٌ - نَا مَكْنٌ -

حَيْثٌ طَرَفٌ مَكَانٌ مَبْنِيٌّ رِضْمَةٌ مَعْنِي كِهَالٌ - چُونَكُه -

حَيْثَمَا - جِهَالٌ كِهِيں جِبٌ كِهِيں -

حَوَاءٌ حَضْرَتٌ اَدَمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي بِيُوِي - نَسْلٌ اِنْسَانِي

كِي مَاں - حَيْثِيَّةٌ - اَرُوْدٌ مِي لِيَاَقَتٌ - ثَرُوْتٌ طَاَقَتٌ

پَر بَلَا جَا تَا هِي - مِيْنٌ هِيْنَا الْحَيْثِيَّةُ اِس دِه سِي

حَوِيٌّ يَحْوِي حَوَايَةً - اَكْمَا كَرْنَا - جَمْعٌ كَرْنَا -

اِحْتَوَى تَبَدُّدٌ كَرْنَا - جَا مَعٌ هُوْنَا -

حَاوِيٌّ مَحْتَوِيٌّ كِيْرُنِي وَاللَّحْمُ كَرْنِي وَاللَّحْمُ كَرْنِي وَاللَّحْمُ كَرْنِي

حَاَرٌ يَحَارُ حَيْرَةً وَحَيْرَانًا حَيْرَانٌ وَپَرِيْشَانٌ هُوْنَا -

رَاہ بھول جانا تَحْيِيْرٌ كِي كَامٌ مِيں كَبِيْرًا حَيْرَانٌ وَحَاَرٌ

پَرِيْشَانٌ - بِي قَرَارٌ - مَحْتَحِيْرَةٌ جَ مَحْتَحِيْرَاتٌ سِيَارُه -

حَيْرٌ وَهٌ كُنْجَالُشٌ يَافْتَحَا جِسْمٌ مِيں كُوْنِي جِسْمٌ سَا جَا و سِي -

حَيْضٌ وَبَيْضٌ مَحْيِيْدٌ بَا تَجِسُّ سِي نَكْلُنَا مَحَالٌ هُو -

مَحْيِيضٌ مَحَاكِنِي كِي جَاہ -

حَاَصَتِ الْمَرْأَةُ عُوْرَتُهَا كِيُوْنٌ حَيْضٌ اَنَا -

حَيْضٌ مَا هُوَارِي كَا خُوْنٌ حَمَايِضٌ حَيْضٌ وَ اَلِي عُوْرَتٌ

اِسْتِحَاَصَةٌ خُوْنٌ حَيْضٌ كِي كَثْرَتٌ -

حَيْفٌ نَا اِنْسَانِي - شَرْمٌ وَ اَلِي بَا تَ ظَلْمٌ مَسْتَمٌ - عُوْرٌ تَعْدِي -

حَاَنٌ يَحْيِيْنٌ حَيْدًا وَ قَتٌ كَا نَزْدِيكٌ اَنَا -

حِيْنٌ جَ اَحْيَانٌ - وَ قَتٌ - رِزْمَانَةٌ -

اَحْيَانًا - كِهِيں كِهِيں - وَ قَتًا فَوْقًا - حَيْثِيْنٌ - تَبٌ - اِسْوَقَتٌ

حَيْيٌ يَحْيِي حِيَاَةً - زَنْدَهٌ هُوْنَا - جِيْنَا - زَنْدُكِي بِيْرٌ زِيْنَا -

حِييٌ حِيَاَةً شَرْمَانَا -

حِيَاَتِيَّةٌ سَلَامٌ كَرْنَا - كِي كُو زَنْدُكِي كِي دَعَا دِيْنَا - اِسْتَحْيِي

كِي كُو زَنْدَهٌ رَكْنَا -

حَيٌّ وَ حَيٌّ هَلَا وَ حَيْهَلٌ اُو - بَلَدِي اُو - پُحْرِي كُو

مَتَوَجُّهٌ هُو - اِسْمٌ فَعْلٌ هِي -

حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ - نَسْلٌ كِي بِيُوِي كَرُوِيَا نَا زِيْرُفِي كُو

حِيَاَةٌ شَرْمٌ - حِيَاَةٌ زَنْدُكِي - حَيٌّ جَمْعٌ اَحْيَاءٌ زَنْدَه -

حَيْئَةٌ جَ حِيَاَتٌ سَا نَبٌ حِيَوَانٌ جَ حِيَوَانٌ جَا نُوْرٌ -

هُو چِيْرٌ جَانٌ رَكْتِي هُو - جَا نَدَارٌ -

حِيَوَانِيٌّ فَطْرَتٌ تَتَلَقُّ بِاِسْبَابِ رَكْنِي وَاللَّحْمُ كَرْنِي

حِيَوَانِيَّةٌ حَمَاَقَتٌ - جَا نُوْدِيْنٌ - بِيُو قُوْنِي -









خَصَّ يَخْصُّ خُصُوصِيَّةً کسی چیز کو اس کی خصوصیت کے ذریعہ امتیاز دینا۔ خاص کرنا۔ ممتاز کرنا۔ اِخْتَصَّ بِکسی چیز سے ممتاز ہونا۔ مختص ہونا۔ خَاصٌّ عام کی ضد۔ مشہور۔ لائق۔ علیحدہ۔ اول درجہ کی یا نہایت اعلیٰ چیز۔

خَاصَّةً جِ خَوَاصُّ خاص صفت یا کسی چیز کی خاصیت خَوَاصُّ بڑے سے لگ۔ خَاصِّيَّةٌ جِ خَصَائِصُ خاص صفت۔ خصوصیت۔ قَلَى الْخُصُوصِ خاص کر خصوصیت کے ساتھ۔ سب سے بڑھکر۔ خُصُوصِيٌّ خاص خصوصیت والی

الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے آدمی۔ اِخْتَصَرَ يَخْتَصِرُ اِخْتِصَارًا مختصر کلام کرنا یا مختصر کرنا۔ مَخْتَصِرٌ چھوٹا۔ تھوڑا۔ کم کیا ہوا۔

خَاصِرَةٌ۔ پہلو۔ کمر۔ درد پہلویا کمر درد کی بیماری۔ خَصَلَ يَخْصِلُ خَصْلًا کھٹا۔ لگ کرنا۔ خَصَلَةٌ جِ خِصَالٌ وَخِصَائِلٌ خصوصیت۔ چچی یا پری صفت۔ عادت۔ رواج۔ خو۔ رسم۔ دستور۔

خَصَمٌ يَخْصِمُ خَصْمًا جھگڑے میں غالب ہونا۔ خَاصِمٌ يَخَاصِمُ خِصَامًا وَخِصَامَةً جھگڑا کرنا۔ باہم مقابلہ کرنا۔ مقدمہ لڑنا۔ کسی پر نالاش کرنا۔

مَخَاصِمٌ۔ آپس میں جھگڑنا۔ خَصْمٌ جِ خُصُومٌ۔ نہ مقابل۔ مخالف دشمن۔ خِصَالٌ منافع۔ مخالف خِصِيٌّ يَخْصِي خِصِيًّا خصی کرنا۔ آخرت گزارنا۔ نامردی یا خوب بنانا خصی جس کے خصیے نکال دیئے گئے ہوں

خوبہ۔ ہیچرا۔ خواجہ سرا۔

خَصِيْبٌ يَخْصِبُ خَضِبًا وَخَضَبٌ زَنْكًا خَضَابٌ لُكَا نَا خَضَابٌ۔ رنگ۔ مہندی۔ وسمہ وغیرہ جو بالوں اور ہاتھ پاؤں کو رنگنے کے لئے استعمال ہوتا ہے خَصِيْبٌ وَخَضُوْبٌ رنگا ہوا خضاب کیا ہوا۔ خَصِيْرٌ يَخْصِرُ خَضْرًا۔ سبز ہونا۔ تروتازہ ہونا۔ ہر ایک ہونا خَضْرٌ وَخَضِرٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کا نام خَضْرَةٌ سبزی۔ سبز گھاس پھوس۔ اَخْضَرٌ۔ سبزی سیاحی مال سبز۔ خَضْرَاءُ آسمان۔ خِضْرَانِيٌّ فارسی لوگ جو اسلام کے شروع میں سیریا میں آباد تھے۔

خَفَعٌ يَخْفَعُ خَفُوعًا عاجزی کرنا۔ فروتنی کرنا یا انکساری و اطاعت کرنا خَافِعٌ عاجزی کرنے والا اطاعت کرنے والا خَطٌّ يَخْطُ خَطًّا فعلی کسی پر نشان کرنا۔ لکھنا۔ لکیر کھینچنا۔

خَطُّوطٌ واحد خَطٌّ خط۔ لکیر۔ تحریر۔ رقم۔ مَخْطُوْبٌ جِ مَخْطُوْبَاتٌ لکھی ہوئی تحریریں۔ خَطَّاطٌ۔ کاتب۔ نوشتنویس۔

مَخْطُوطٌ خوبصورت۔ دھار پدار۔ خَطِيٌّ يَخْطِئُ خَطَاءً غلطی کرنا۔ چوک جانا۔ خطا کرنا یا کامیابی

اِخْطَاءً يَخْطِئُ اِخْطَاءً غلطی کرنا یا قصور کرنا۔ خَطَاءٌ جِ خَطَايَا وَخَطِيئَاتٌ قصور۔ گناہ۔ غلطی خَاطِيٌّ قصور والی خَطِيٌّ غلط کار۔ تفسیر والی

خَطْبٌ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَخَطَابَةٌ دُخَا کرنا۔ پھیرنا۔ خطبہ پڑھنا خَاطِبٌ يَخَاطِبُ خِطَابًا وَخَاطِبَةٌ کسی سے گفتگو کرنا مخاطب ہونا۔ مخاطبٌ باہم باتیں کرنا۔

خُطْبَةٌ خِطَابٌ بیکر۔ ایڈریس۔ تقریر۔

خِطْبَةٌ - منگنی کرنا - نسبت کرنا شادی کا پیغام دینا -

خَطِيبٌ خطبہ پڑھنے والا - مقررہ لکچرار

مَخَاطَبٌ جس سے خطاب کیا جاوے -

مَخَاطَبٌ خطاب کرنے والا خَطْبٌ مثل اور دشوار کام آیت

خَطَرَ خَطْرًا و خَطُورًا فِي قَلْبِهِ - ب او علی

دل میں خیال رزنا - بھولی بات کا یاد آنا مَخَاطَرَةٌ خطرہ

خَاطِرٌ بِنَفْسِهِ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنا -

خَطْرٌ جَ اَخْطَرُ و خَطَرَ اَيْتٌ - خطرہ - جو کھم - اندیشہ

خَاطِرٌ جَ خَوَاطِرٌ - دل - فکر - تصور

مَكْسُورٌ اِنَا طِرٌ - دل شکستہ - اداس

خَطِيرٌ - بڑا - مقررہ - عالی درجہ -

خَطَفٌ يَخْتَفُ خَطْفًا اَجْبَ لِيْنَا يَلِيْنَا

خَطَافٌ اَبَابِلٌ خَاطِفٌ چکا چونڈ ڈالنے والی بجلی -

خَطَامٌ - نیل - رسی -

خَطْمِيٌّ مَلٌ نِيرٌ - خطمی

خَطِيئَةٌ جَ خَطَايَا - گناہ - جرم - غلطی

خُطُوَةٌ جَ خُطُوَاتٌ - قدم

خَفٌّ يَخْفُ خِفَةً بَلَا هُونًا - سبک ہونا -

خَفَفَتْ تَخْفِيفًا بَلَا كَرْنَا - گھسانا -

خَفِيفٌ بَلَا - آسان - کم وزن -

مَخْفَفٌ بَلَا كَمَا هُوَا - کم یا آسان کیا ہوا -

اِسْتَحْفَافٌ بَلَا جَانَا - بے قدری کرنا بے وقعتی کرنا تحقیر

و تَذَلُّلٌ كَرْنَا -

خُفٌّ مَوْزٌ - چمڑے کی جراب یا جوتی -

خَفْتَانٌ - جنگ کا کرتہ - زرہ -

خَفَّاشٌ - چمگا ڈر شب پر

اَخْفَشٌ کمزور نظر والا - ایک نحوی کا نام -

خَفَضٌ يَخْفِضُ خَفَضًا يَسْتَكْرَا - نیچا کرنا -

خَافِضٌ اسماء اللہ میں ایک نام ہے عاجز کرنے والا -

خَفِقٌ يَخْفِقُ خَفِقَانًا و لٌ كَا و صُرْكُنَا يَا بِيْرُكُنَا - یا بیکر

خَافِقَانٌ مشرق و مغرب - ایشیا و یورپ -

خَفِيٌّ يَخْفِي خَفَاءً يَحْصِبُ جَانَا - پوشیدہ ہونا -

اَخْفَى يَخْفِي اِخْفَاءً و خَفِيَ كَرْنَا - خفیہ نظر سے لوجھل مخفی

خَفِيٌّ جَ خَفَايَا پوشیدہ - لڑے - مجید -

خَافِيٌّ - مخفی - اِخْفَاءٌ پوشیدہ کرنا -

خَافِقَانٌ جَ خَوَاقِينٌ - بادشاہ - شہنشاہ -

خَلَّلٌ - ترش ہونا - سکرہ بنانا مَخْلَلٌ اَبُو يَسِيْنٌ خَلٌّ سَكْرٌ

خَلٌّ كِي رُوْسِي خَلِيْلٌ عَابِلِي رُوْسِي -

خَلَّلٌ بَطْمِيٌّ - رخنہ خَلَّةٌ محبت و دوستی شفقت و محبت

خَلَالٌ وَا تَمَلُّوْا خَلَالٌ - اِخْتِلَالٌ وَا مِغِي خِرَابِي - ذہنی فساد

مَخْلَلٌ ذہنی طوع پر خراب شدہ - فاسد العقل

مَخْلٌ و سَمٌ بَرَسَمٌ كَرْنَا وَا اِسْحَالٌ - خرابی - رخنہ - فساد

خَلَجٌ يَخْلُجُ خَلَجًا كَانِنَا - پھر کرنا - پہلنا -

اِخْتَلَجَ اِخْتِلَاجًا كَانِنَا - لرزنا -

خَلَجَانٌ وَا غِ يَابِلٌ كُو رِيْشَانٌ كَرْنَا وَا لِي خِيَالَات

كَ اِسْتَرَدْرُ كَرْنَا خَلِيْمٌ - کھاڑی - پانی کا وہ حصہ جو تین

طرف سے خشکی سے گھرا ہو اور ایک طرف سے سمندر

سے ملا ہو ہو - مَخْلَلٌ - اجزاء کا ایک دوسرے سے

دور ہونا - مَخْلَلٌ منتشر پر آگندہ غیر پویستہ -

خَلَجَالٌ بَارِيْبٌ - جھانجیر -



تَخْلِيْقٌ بِدَاكِرْنَا - بنانا -

خُلُقٌ حِ اَخْلَاقٌ عَادَاتٌ طَبِيعَتٌ سِيْرَتٌ نَخْلَتٌ لِقْوٌ

خَلِيْقٌ - صَاحِبُ اَخْلَاقٍ حَسَنَةٍ مَنَارٌ -

خَلِيْقٌ - طَبِيعٌ - فَرَقِي - جَبَلِي

خَلَا يَخْلُو خَلْوًا وَخَلَاءٌ خَالِيٌ هُوْنَا - تَنَا هُوْنَا عَلَيْهِ

هُوْنَا - زَمَانَةٌ كَالْمَدْرَ هُوْنَا - تَخْلِيْقٌ تَهْنَأِي - عَلِيْدِي

خَلْوَةٌ تَهْرَاجَةٌ - بَيْتُ الْخَلَاءِ پَاخَانَةٌ كِي مَجَلَةٌ -

خَالِيٌ فَارِغٌ - خَالِيٌ - خَمٌّ يَسْكَا - ثَمْرٌ شَرَابٌ كَالْمُهْرَا

خَمًا يَخْمَدُ خَمْدًا - يَجِدُ جَانًا - مَوْشٌ هُوَ جَانًا -

خَامِلٌ - بِي حَرَّتٍ - بِي مَسِّ خَمُوْدَةٍ - اَزْنَا يَخْمِيْنَا - دِيْمَا پَرَايَا

خَمْرٌ يَخْمَرُ خَمْرًا - نَقَابٌ وَالدُّنَا - مَهْپَا نَا نَشَةٌ پِيْدَا كَرْتِيْدَالِي حِيْرِي

بَلَا نَا - خَمِيْرٌ بِنَا نَا - خَمْرٌ شَرَابٌ هُوَ مَقْلٌ كُوْ دِهَانِ رَسِي

خَمْرًا نَشَةٌ - بِي هَرَشِي مَقْلٌ كَا زَمَلٌ هُوْنَا خَمْرًا شَرَابٌ

خَمِيْرٌ - خَمِيْرِي رُوْلِي - مَخْمَرٌ شَرَابٌ مَسْتٌ يَا خَمِيْرٌ كِيَا يُوَا -

خَمُوْدٌ شَرَابٌ كَسِي نَشَةٍ فِي مَبْتَلَا -

خَمَامٌ اَوْ دُهْنِي - دُوْپُتٌ - پَرْدَةٌ - نَقَابٌ -

اَخْمَسٌ يَخْمَسُ خَمْسًا - پَا پُخْوَالٌ هُوْنَا - نَخَامِسٌ

پَا پُخْوَالٌ - خَمْسَةٌ پَا پُخْوَالٌ - خَمْسٌ پَا پُخْوَالٌ حِصَّةٌ -

خَمِيْسٌ جَمْعَاتٌ - خَمِيْسٌ پَا پُخْوَالٌ مَصْرُوْعٌ وَدَالِي نَظْمٌ بِنَا نَا

خَمِيْسٌ پَا پُخْوَالٌ مَصْرُوْعٌ وَدَالِي نَظْمٌ جَسْمِيْنٌ مِصْرُوْعٌ لِيْنِي

اَوْ رُوْ كِسِي كَسِي هُوَل -

خَمَاسِيٌ پَا پُخْوَالٌ اَصْلِي حُرُوْفٌ وَدَالِي لَقَطٌ -

خَمْسُوْنٌ وَخَمْسِيْنٌ - پِجَاسٌ

مَخْمَصَةٌ - مَهْوَكٌ - اِسْتَهَارٌ - اِرْدُوْمِيْنٌ مَجْمُوعٌ - اَلْمَجْمُوعِيْنٌ

وَدُوْسَرِي اَوْ رَتَكَلِيْفٌ كِيْلِيْنِي اِسْتِعْمَالٌ هُوَتَا هِي -

خَلَّ يَخْلُ خُلُوْلًا - كَمْنَا مِ هُوْنَا - غَيْرٌ مَعْرُوْفٌ اَوْ رِيْمِيْرٌ

خَامِلٌ - كَمْنَا مِ - غَيْرٌ مَعْرُوْفٌ -

خَمْلٌ - مَلَا تَمَّ كِيْرَا - مَخْلٌ دِنْبَاتٌ

خَمْنٌ يَخْمِنُ خَمْنًا - اِنْدَازَةٌ لِكَا نَا -

تَخْمِيْنَا وَ عَلِي اَلتَّخْمِيْنِيْن - اِنْدَازًا - فَرْضًا - اِنْدَازَةٌ وَ تَخْمِيْنَةٌ

كَسِي طُوْرِي - تَخْتَتٌ زَنْجَةٌ بِنَا نَا مِهْپَا كَرْنَا - رُوْ كَسِي كِي

عَادَتِيْنٌ بَكَا رْنَا - مَخْتَتٌ - نَامُوْدٌ - مِهْپَا - زَنْجَةٌ

خَمْتِي - اَخْتَةٌ - مِهْپَا - زَمَانَةٌ

خَمْرٌ - مِهْپَا مِشِ قَبِيْسٌ - مَخْمَرٌ - كَسَارَةٌ

خَمْدَانِيٌ جِ خَمْدَانِيٌ - كَهَانِيٌ - كُرْهَانٌ - مَوْرِجٌ - غَارَةٌ

خَمَزِيْرٌ جِ خَمَزِيْرِيٌ - سُوْرٌ - اِعْتِلَاحٌ طَبِيْبِي

كَدْمَةٌ مَالَا يَا كَلِي فِي كَلْمِيَا مِهْپُوْلِيْنِي اَوْ رِي سَنِي كِي مَرِيضٌ

كَانَا مِ هِي كِيُوْنِكِي يِي مَرِيضٌ عَامٌ طُوْرِي مَوْرٌ كُوْ هُوْتِي هِي

خَمْسَاءٌ اَكِيْمَةٌ هُوْرٌ شَاوَةٌ كَانَا مِ هِي -

خَمَاسٌ شَيْطَانٌ - مِهْپَا جَانِي وَدَالِي - مِهْپِي مِشِ

جَانِي وَدَالِي (بِي مِي كِي تَحْرِيْكِي كَرَسِي)

خَمَصْرٌ - مَخْمَلٌ سَبٌ سِي مِهْپُوْلِي اَنگَلِي -

خَمَقٌ يَخْمَقُ خَمَقًا - دَمٌ كُوْ مَنَا - كَلَا دِيَا نَا - سَانِسٌ مَبْكُرْنَا -

خَمَاقٌ مَلِي كَا مِهْپُوْرَا مِ فِي دَمٌ كَمْتٌ كَرِي مَرِيضٌ كَا خَاتَمَةٌ

هُوْ جَانَا هِي - مَلِي كِي بِيَا رِي -

اِخْتِنَاقٌ دَمٌ كَمْتٌ جَانَا - كَلَا كَمْنَا -

مَخْمُوْقٌ جَسْمٌ كَا مَلَا كُوْنُوْتٌ دِيَا جَانَا هِي - مِهْپَا نَسِي دِيَا هُوَا -

دَمٌ كَمْنَا هُوَا - خَوْخَةٌ رُوْدَرِنٌ - مَدَشْتٌ مَدَانٌ - كَمْرٌ كِي اُرْدٌ

خَافٌ يَخَافُ خَوْفًا وَخَافَةٌ وَخَيْفَةٌ مِ مَنٌ كِسِي

سِي خَوْفٌ كَرْنَا -

خَوَفَ وَأَخَافَ تَخَوَّفًا خَوْفٌ وَلاَنَا. دُرَانَا. دَمَكَانَا  
خَافٌ دُرْسَةٌ وَاللَّاءُ -

خَالٌ جَ أَخْوَالٌ مَأْمُونٌ خَالَةٌ جَ خَالَاتٌ مَا  
كِي هُنَّ - خَوْلَةٌ بَهْرِي -

خَانَ يَخُونُ خِيَانَةً. خِيَانَتٌ كَرْنَا. دَعَا بِأَرْضِي كَرْنَا.  
عَوْدَةً شَكْنِي كَرْنَا. خَائِنٌ اِمَانَتٌ مِي خِيَانَتٌ مِي بَلِي بِلِي  
كُرْنُوَالَا -

خَانٌ جَ خَانَاتٌ كَارِ وَالسَّرَاءُ سِرَائِي مِسَافِرُ خَانَةٍ  
بَادِشَاهُ رِشَا نِهْرَادَه - دُكَانٌ -

خَوَانٌ - خَوَانٌ - دَسْتَرُ خَوَانٌ - مِي نِي جِسْ پَرِ كِهَانِي نِي كِهَانِي  
خَابٌ يَخِيْبُ خَيْبَةً نَا كَامٌ رِهْنَا - نَا مِرَادٌ رِهْنَا -

خَائِبٌ نَا مِرَادٌ - نَا كَامٌ  
خَارٌ يَخِيْرُ خَيْرًا نِي كٌ هُونَا - نِي كِي كَرْنَا

تَخِيْرٌ وَ اِخْتَارٌ - اِيْنَا كَرْنَا - چِيْن لِيْنَا -  
اِسْتِخَارٌ - اَللّٰهُ سِي بَهْلَانِي چَا نِهْنَا - فِدَا سِي دَعَا كَرْنَا

كِه بَهْتَرُ كَامٌ نِهْيَا فَرَاوَسِي -  
خِيْرٌ جَ خِيَارٌ وَ اِخْيَارٌ - نِي كٌ - بَهْرَتٌ - فِدَا - دَرْدُ

مَالٌ - مَفِيْدٌ چِيْرٌ -  
اِخْتِيَارٌ اِخْتِيَارَاتٌ چِيْن لِيْنَا - اِتْحَابٌ كَرْنَا اِيْنَا كَرْنَا

اِخْتِيَارِيٌّ - اِيْنَا مِيْدِي - مَرْغُوْبٌ  
تَخِيْرٌ - صِدْقٌ وَ نِيْرَاتٌ كَرْنِي وَاللَّاءُ -

تَخْتَارُ - اِتْحَابٌ كَرْنِي وَاللَّاءُ مِيْنْتَحَبٌ -  
خِيَارٌ سَبِيْرٌ - اَلْمَدَاسُ - اِي كٌ مَسْهَلٌ دَوَا -

خِيْرِيٌّ - كَلٌّ نِيْرِي - اِي كٌ زَرْدٌ زَنْكٌ كَا بَهْلُولٌ -  
خَاطٌ يَخِيْطُ خَيْطًا وَ خِيَا طَةٌ - كِيْرٌ اِسِيْنَا -

خَيْطٌ تَا كَا - خَيْطَا طٌ دَرْدِي -

خَيْفٌ جَمْعٌ اَخْيَافٌ فَتَمَاتٌ شَكْلٌ اِلْتِبَاعِيَّتِ كِي لُو كٌ  
اَخْيَافِيٌّ مَالٌ كِي طَرَفٌ سِي بَهَانِي -

اَخْيَافٌ جِسْ اَدْمِي كِي اِي كٌ اَنَكُو كِي تَهْلِي سِيَا هِي دُو دُو سَرِ كَرْنَا  
خَالٌ يَخَالُ مَخِيْلَةً - كَمَانٌ كَرْنَا - تَصَوَّرُ كَرْنَا - قِيَا سٌ دُوْرَانَا -

خِيَالٌ جَ خِيَالَاتٌ - وِلٌ كَا وِسْوَسَه كَمَانٌ - تَصَوَّرُ  
تَخَيَّلٌ جَ تَخَيَّلَاتٌ - دَاغٌ مِي تَصَوَّرُ سُوْجِنَا خِيَالٌ دَعَا

خَالٌ مَسَه - مَهْ كَا - رَلٌ - مَخِيَالِيٌّ قِيَا سِي -  
مَتَخَيَّلَةٌ - خِيَالٌ وَ تَصَوَّرُ كِي قُوْتٌ -

خَيْلٌ عَجَبٌ - خُوْبٌ مَسْهِي - غُرُوْرٌ -  
نَخِيْلٌ جَ خِيُوْلٌ كَمُوْرٌ سِي كَا سُوَاْرٌ - مَسَالَه

خَيْمٌ وَ اَخْيَامٌ - خِيْمَه لِكَا نَا مَخِيْمٌ جِهَانٌ پَرِ خِيْمَه كَا اَرَا بَادُ  
خِيَامٌ خِيْمَه سَا زِي خِيْمَه دُوْرُ خِيَامٌ - كِيْرٌ - خَامٌ -

خِيْمَةٌ اِيَا كَرُوْرٌ تَهْرَا اِيْنِي كٌ كَا نَه بُوْرٌ -  
خَانٌ - خَاقَانٌ - جَ خَوَانِيْنٌ وَ خَوَاقِيْنٌ مَسَا بَرَاهُ

سَلْطَانٌ - بَادِشَاهُ -

## بَابُ الدَّلَالِ

دَابُّ طَرِيْقَةٌ - عَادَتٌ - اِسْمٌ لِكَا نَا مَسَالَه دَسْتُوْرٌ  
دَا رَجِيْنِيٌّ - دَا رَجِيْنِيٌّ اِي كٌ كَرْمٌ دَا كَا نَامٌ -

دَبٌّ رِيْحٌ دَبُّ الْبُرِّ وَ اَصْفَرُ بَنَاتُ النُّعْشِ اِيْسَاتُ  
سَهْلِيُوْلٌ كَا تَهْمَا -

دَابَّةٌ جُوَابٌ جَ دَوَابُّ  
دَبَابَةٌ قَلْبٌ شَكْنٌ اَلَمْ جِسْ سِي سَا تَه قَلْمُوْنٌ مِي سَرْمَكٌ لِكَا تَه مِي





دَرَبَانٌ - دربان - دروازہ کا محافظ -

دَرَجَ يَدْرَجُ دَرَجًا يَرْجِيهِمْ يَرْجِيهِمْ - درجہ

اِنْدَرَجَ شَاعِرٌ هُوَ اِسْتَدْرَجَ اِلَى قَرِيبٍ اِنْدَرَجَ اِلَى قَرِيبٍ اِنْدَرَجَ اِلَى قَرِيبٍ

دَرَجَةٌ وَتَدْرِيحًا وَبِالْمَدْرِجِ رَفَعَهُ رَفَعَهُ رَفَعَهُ رَفَعَهُ

اَهْتَمَّ دَرَجٌ مَسْدُوقِي - دَرَجَةٌ بِسُرْمِي - مرتبہ طبقہ -

درجہ ج دَرَجَاتٌ عِبْدٌ دَرَجَةٌ سَائِلٌ - دَرَجٌ

تَيْتَرٌ - تَدْرَجٌ - پیر - تیر - ہزار چ - سب سے - راستہ -

مسک - دَرِيْزِي - درزی - دَرُوْدٌ اَبُو بِنَانِي قَوْمِ

کا نام ہے -

تَدْرَسُ يَدْرُسُ دَرَسًا وَدَرَسَةً كِتَابٌ يَدْرُسُ

دَرُوْسٌ نِشَانٌ مِثْلَانَا - دَرَسًا وَدَرَسًا كُنْمٌ كَانَا

تَدْرَسُ تَدْرِيْسًا - پڑھانا - پکھردینا -

تَدْرَسُ اِلْ كَرِيْمًا اِنْدَرَسُ مِثْلُ جَانَا -

تَدْرَسُ ج دَرُوْسٌ سَبَقُ - مطالعہ - پکھر - مَدْرَسَةٌ

ج مَدَارِسُ اِسْكُوْلٌ - کالج - مَدْرِسٌ مَعْلَمٌ - استاد

اِنْدَرِيْسٌ اِيكٌ نَبِيٌّ كَانَا مَهِي -

دِرْعٌ قَمِيْسٌ كَرِيْمٌ - زرہ - چار آئینہ دَاوُدُكٌ پَالِيْنَا -

اَدْرَكُ بِنِيْجٌ جَانَا - اِدْرَاكٌ عَمُوْدٌ كَرِيْمٌ - کسی معاملہ کی تہ

تک پہنچ جانا - سجدہ - فہم - دریافت - تَدْرِكُ سُدْحَانَا

تَلَانِيْ مَافَاتٌ كَرِيْمٌ - اصلاح کر دینا -

اِسْتَدْرَاكٌ وَرِسْتُ كَرِيْمٌ - اصلاح کرنا -

دَرَكٌ ج دَرَكَاتٌ - پہنچ - پَالِيْنَا اَمَلْنَا - دَرِكَةٌ

قُوْتٌ فِهْمٌ - تَدْرَاكٌ - سمجھنا - دَرَكَةٌ ج دَرَكَاتٌ

طبقہ - درجہ (یعنی بہنم یا دروخ کا)

حُرُوْفٌ اِسْتَدْرَاكٌ سَابِقَةٌ هَلَامٌ سَعِيٌّ مَهِي مَهِي

اس کو دور کرنے کے حروف مثلاً اَبٌ - اَلِكِيْنٌ - اَلَا اَبٌ

غَيْرٌ اَبٌ وَطِيْرٌ مَثَلًا اِرْكٌ عِلْمٌ عَرَضٌ مِيْن اِيكٌ بِحُرُوْفِ كَانَا

مَدَارِكَاتٌ - حواس - مَدْرِكٌ مِيْلٌ - دَرِكٌ مِيْلٌ اِنْدَرَاكٌ

دِرْهَمٌ ج قَدْرَاهِمٌ پونے چار ماشہ - حواس کا

اَنھواں حصہ ہوتا ہے - دَرُوْنِيْسٌ جَمْعٌ دَرَاوِنِيْسٌ

گدا - بھکاہی - فقیر - در آویز -

دَرِيْ يَدْرِيْ دَرِيًّا وَدَرِيًّا يَدْرِيْ جَانَا - اَدْرِيْ اَكَاكِرَا

يَدْرِيْ عِلْمٌ كَانَا - دَرِيْ مَدَارَاكٌ نَرِيْ اِنْدَرَاكٌ مَدَارِيْ

کارتاؤ کرنا - خلق سے پیشہ آنا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

مَدْرِيْ كَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

مَدْرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا - دَرِيْ يَدْرِيْ سُدْحَانَا

مَدَّ عَيْنِي بِمَا دَرَأْتَنِي - سبب - وجہ  
 مَدَّ عَيْنِي - دعویٰ کرنے والا - نالش کتنہ  
 مَدَّ عَيْنِي بِمَطْلَبٍ - مقصد مَدَّ عَيْنِي عَلَيَّ حِينَ يَرِنَ نَالِشِ كَيْ يَجُوكَ  
 دَعْوِيٌّ بِمَا دَرَأْتَنِي بِمَا دَرَأْتَنِي - منہ بولا بیٹا  
 دَعْوِيٌّ كَمَا دَرَأْتَنِي - شک میں پڑنا۔  
 اَدَّ عَيْنِي وَ اَدَّ عَيْنِي - کسی حرف کا کسی دوسرے حرف  
 میں داخل کرنا - مشتہر کرنا - یوقام کرنا۔  
 اَدَّ عَيْنِي اِيك حَرْفٍ كَا دَوْسَرِي مِّنْ دَاخِلٍ هُوَ كَرْمُ شَدَدٍ  
 هُوَ جَانِبُ مَدَّ عَيْنِي وَ هُوَ حَرْفٌ يَأْتِي بِحَرْفٍ دَوْسَرِي حَرْفٍ  
 يَأْتِي فِيهِ مِثْلُ هُوَ كَرْمُ اس كَا جَزْدِيْن جَاوِي -  
 دَفَّ جَدَّ قُوْفٌ وَ دَفَّ وَ دَفَّ - طبلہ  
 دَفَّ وَ دَفَّ طَبْلَةٌ يَأْتِي بِجَانِبِي وَ اَلَا - بَيْنَ الدَّفَّاتِيْنِ يَدُ  
 تَحْوِيْلٍ كَمَا وَرَمِيَان - دَفَّ اَيَّامًا - چولہا - سٹوو۔  
 دَفَّ وَ دَفَّ دَفَّ اَيَّامًا - رَحْبُور - حساب کی کتاب - محکمہ آفس  
 دَفَّ وَ دَفَّ دَفَّ اَيَّامًا - دَفَّ اَيَّامًا - دَفَّ اَيَّامًا  
 زور سے ہٹانا دَفَّ اَيَّامًا وَ مَدَّ اَيَّامًا بَحَا نَا حِفَاظَتِ كَرْمَا  
 مَزَا حَمَتِ كَرْمَا - دَفَّ اَيَّامًا - دَفَّ اَيَّامًا - دَفَّ اَيَّامًا  
 مَدَّ قَعَّ قَعَّ تَرَب - ہٹانے کا آلہ۔  
 دَفَّ قَعَّ اِيك بَارٍ وَ زَمِيْرٍ دَفَّ قَعَّ وَ دَفَّ قَعَّ مَمْبَرٍ  
 اَيَّامًا قَعَّ وَ دَفَّ اَيَّامًا جَانِبًا - پچھے دھکیلا جاتا۔  
 دَفَّ قَعَّ - کنیر کا درخت - خمر زہرہ  
 دَفَّ قَعَّ دَفَّ قَعَّ دَفَّ قَعَّ - زمین میں داب دینا۔  
 دَفَّ قَعَّ - گھاڑا ہوا مال - خزانہ - مَدَّ قَعَّ دَفَّ قَعَّ  
 كِي جَانِبٍ مَدَّ قَعَّ زَمِيْنٍ فِيْهِ كَرْمَا هُوَا -  
 دَفَّ قَعَّ كِي كُو دَفَّ قَعَّ كَرْمَا -

دَقَّ يَدِي دَقَّ - پس کر باریک ہونا۔ سترہ کی طرح ہوجانا  
 دَقَّ يَدِي دَقَّ - گھٹکھٹانا۔ کوٹنا۔ باریک پینا۔  
 دَقَّ - باریکی۔ تنگی۔ تکلیف۔  
 دَقِيْقٌ بَارِيْكٌ - نازک۔ باریک آٹا۔ دشوار فہم۔ دُبا پتلا  
 لاغز۔ دَقِيْقٌ - دَقِيْقٌ كِي بِيَارِي مَدَّ تَوَقُّفٌ دَقِيْقٌ كِي مَرَضٌ وَ اَلَا  
 اَدَّقُ بَهْتٌ بَارِيْكٌ (مسئلہ) بہت تکلیف دہ (معالجہ)  
 دَقِيْقَةٌ جَدَّ قَائِيْقٌ - منٹ گھنٹے کا ساتھیوں حصہ۔  
 کوشش۔ حیلہ۔  
 اَلسِّحْرُ كُلُّ مَا دَقَّ وَ لَطْفٌ مَا خَذَا جَادُو دِهْ  
 جو بہت باریک ہو اور اس کا مانند بہت لطیف و نازک ہو  
 مَدَّقِيْقٌ - باریک ہیں۔ دقیقہ رس۔  
 تَدَّقِيْقٌ بَارِيْكٌ مَبْنِي - ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی  
 جانچ پڑتال کرنا۔  
 حَتَّى اَلذِّي دَقَّ كَا بَخَارِيْسٍ كَا مَرِيْفِيْسٍ لا غرور دُبا ہو کر اکثر  
 مرجاتا ہے۔  
 دَكَاْنٌ جَدَّ كَا كِيْنٌ - دکان۔ بیٹھنے کی جگہ۔  
 دَكَاْنِي دَكَاْنِي -  
 دَلَّ يَدِي دَلَّ دَلَّ وَ دَلَّ لَآئِنَ عَلَيَّ بَتَانَا - راہ نمائی کرنا۔  
 ہدایت کرنا۔ اِسْتِدْلَالٌ دَلِيْلٌ چاہنا۔ ثبوت چاہنا  
 نتیجہ نکالنا۔ دَلَالٌ - دلال۔ اِيْحِنْتٌ  
 دَلِيْلٌ جَدَّ دَلِيْلٌ - ثبوت۔ حجت۔ نشان۔ علامت۔  
 دَلَّ اَلَّ بَادِيْلٌ - باثبوت۔ دَلَّ اَلَّ رَاہِ سَمَاءٍ  
 دَلَالٌ نَازِ نَخْرٌ - ناز و ادا۔ لاڈ پیار۔  
 دُوْكَابٌ رَمِيْكٌ - محور پر گھومنے والا۔  
 دَلَّلَ حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كِي خَمْرٍ كَا تَامٌ -

ذَلَّ لَيْسَ فَرِيبَ دِينَا - دھوکہ دینا -

ذَلِكَ يَدُّ لَكَ ذَلِكَا - ہاتھ سے ملنا - مالش کرنا - بھیتل کرنا  
ذَلُوكُ الشَّمْسِ - سورج کا ڈھلنا -

ذَلُوكُ الْمَالِ - خوشبودار عطر جو جسم پر لا جاوے  
ذَلِيمٌ كَرُودٌ - میں ایک قوم کا نام ہے -

ذَلِي وَأَذِي - کنویں میں ڈول لگانا -

تَذَلِّي نَزُولٌ - نیچے اترنا -

ذَلُوكُ دُولٌ - گیارہویں ہجرت کا نام -

ذَمِيمٌ الصَّوْرَةُ - بد شکل - بد صورت

ذَمْرٌ يَدُّ مَرْدٌ مَوْرًا وَذَمَارَةٌ وَذَمَارًا بِالْكَامِ  
جاننا - پر باد ہو جانا - تباہ اور ملیا میٹ ہو جانا -

ذَمْرُ شَامٍ - ایک قدیمی شہر جو دمشق کے قریب  
تھانیز ایک قلعہ کا نام - ذَمْرُ شَامٍ - شام کا مشہور شہر

ذَمْعٌ يَدُّ مَعَهُ دَمُوعًا - آنسو کرنا -

ذَمْعٌ جِ ذَمُوعٌ آنسو - اشک -

ذَمْعٌ يَدُّ مَعَهُ دَمْعًا اس طرح سر پھوڑنا کہ دماغ تک سر پہنچے  
ذَمْعٌ جِ أَدْمَعَةٌ بھیجا - منفر - مَدَمْعٌ منفرہ - صاحب دماغ

ذَمَلٌ يَدْمَلُ وَإِنْدَمَلٌ زَحْمٌ كَابِهْرًا يَأْتِي أَيْحَا هُوَ جَانَا -  
ذَمْرٌ قَدَمَلٌ جِ ذَمَامِيلٌ دَنَلٌ - پھوڑا - پھٹسی -

ذَمْلُجٌ بازو بند - جوشن - (زیور)

ذَمْرٌ آؤ الدِّمَنِ سَبْرِي جَوَكَا دِرْ أَلْتِي هُ -

ذَمْنَةٌ - کھاو کا ڈھیر - گوبر کا تودہ - ذَمْمٌ جِ دِمَاءٌ خُونٌ  
ذَمُّ الْأَخْوَيْنِ - خون بیاوشاں

ذَمِيٌّ - خون سے نسبت رکھنے والا - دَامِيَةٌ ایسا نرم  
جس سے خون جاری ہے - ذَمٌّ - مٹکا - مرتبان - خم -

ذَلِيٌّ خَيْسٌ - کمینہ ڈاناؤ کا کینٹی ہونٹ -

ذَوْنَارٌ جِ ذَوَانِعُورٌ - سونے کا ایک پرانا سکہ

ذَنَسٌ جِ أَدْنَانٌ - میل کھیل - پلیدی -

ذَنِي يَزْنُو - ذَنُوًّا - قریب ہونا - آذِنِي بہت قریب دنیاؤ  
جہان - موجودہ زندگی - ذَنِيوِيٌّ نَسُوْبٌ بَرْدِيَا - دنیاوی -

ذَنِيَّةٌ كَيْفِيٌّ - برائی - معمولی درجے کی چیز -

ذَهْرٌ جِ ذَهْوَرٌ لمبا وقت - لمبا زمانہ - عرصہ دراز -

ذَهْرِيٌّ - منکر خدا جو زمانہ کو غیر مخلوق جانتا ہو -

ذَهْسَةٌ حَيْرَانِيٌّ - پریشانی سمیت -

ذَهْشٌ - حیران کرنے والا مَدْمُوشٌ مضطرب -

ذَهْقَانٌ جِ ذَهَاتِيْنٌ - گسان - نمبر دار -

ذَهْلِيْبٌ ذِيوْرِيٌّ - آستانہ ذَهْمٌ جِ ذَهْوْمٌ بڑی تعداد -

أَذْمٌ سِيَاهٌ رَنَكٌ - قَدْحَنٌ وَقَدْحِيْنٌ تیل کی مالش کرنا -

ذَهْيَةٌ جَلْنَابِيْنٌ - چکنا چٹ -

مَدَاهِنَةٌ خوشامد - پہلاوا - پھلاندہ - نافعہ - ریاکاری

چکنی پٹری باتوں سے پھیلانا - ذَهَانٌ تیلی - روغن فروش -  
ذَاهُجٌ آذَوَاءٌ - بیماری مرض -

ذَاهُ الْمَلُوكِ نَفْسٌ جَوْرُوْنٌ كَاذِرُو -

ذَوْحَةٌ بَرَاوْرٌ او نچا درخت ذَوْحٌ جِ ذَوْحٌ بَرَاوْرٌ

ذَاوُدٌ ایک نبی کا نام ہے -

ذَاوِيْدٌ ذُو كُوْسَرَا - چکر کھانا - گوسنا - ذَوْرَتَاوِيْدٌ

کھانا - مَدَوْرٌ گول - آداسب انتظام کرنا -

إِدَارَةٌ محکمہ - مَدِيْرٌ منظم - چلانے والا -

ذَارٌ جِ دِيَارٌ دَوْدٌ - گھر - مکان -

ذَوْرٌ جِ آذَوَارٌ حرکت - چکر ذَوْرَةٌ ایک چکر

دَوَائِرُ سُرْمِیْنَ جگر آنے کی بیماری دَوَائِرُ بَہْت چکر کھانے والا  
 دَائِرَةٌ سُرْمِیْنَ - دائرہ - حلقہ -  
 دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ - انسائیکلو پیڈیا -  
 دَیْرٌ - مندر - گرجا - خانقاہ - درویشوں کا تکیہ -  
 دَیَّارٌ بِنْسِیْنِ وَنَلَا - دَوَّانٌ - گردش - چکر -  
 دَارَةٌ - راجاٹھ - خانہ - مکان - مُسْتَدِیْرٌ کَوْلٌ  
 مَدَارٌ دُھرا - نکتہ - جس پر کوئی چیز چکر کھائے - زیر بحث  
 امر - چکر کھانے یا گھومنے کی جگہ -  
 دَالٌ یُدْوِلُ دَوْلَةً بدلنا گردش میں رہنا -  
 مَدَّ اَوَّلَهُ اِلٰی بَلٍ کر یا باری باری لانا -  
 دَوْلَةٌ جِ دَوْلٌ - حکومت - بادشاہی - دولت  
 دَوْلَتُلُوْ - اعلیٰ حضرت - جناب والا -  
 دَوَالِیٌّ - ایک جلدی مرض کا نام ہے -  
 دَا مَرِیْدُوْمَ دَوَامًا وَ دَیْمُوْمَةً ہمیشہ ہونا -  
 ٹھہرنا - قائم رہنا - مَدَّ اَوَّلَهُ ہمیشگی - قیام - ثبات  
 عَلَی الدَّوَامِ - لگاتار مسلسل -  
 دَا لَیْمٌ ہمیشہ رہنے والا - دَائِمًا ہمیشہ -  
 مَدَّ اَمْرٌ شَرَابٌ مَدَّ اَمٌّ ہمیشہ - لگاتار -  
 دَقْنٌ تَدْوِیْنٌ - مرتب کرنا -  
 دَوْنٌ پست - نیچے - آگے - نزدیک - بچیر - بخلان  
 دَرِیْوَانٌ جِ دَوَائِرِیْنَ - دربارہ عدالت عالیہ - اردو  
 میں کسی شاعر کا مجموعہ اشعار - بصورت کتاب -  
 مَدَّ وَّنَ تَالِیْفٌ کیا ہوا ترتیب دیا ہوا -  
 دَاوِیٌّ مَدَّ اِحَاةٌ بیمار کا علاج کرنا - بیمار داری کرنا -  
 چارہ کرنا - تَدَاوِیٌّ اپنا علاج کرنا -

دَوَائِرُ جِ اَدْوِیَّةٌ دوا - علاج  
 دَوَائِرُ سِیَاحِیِّ دَانٍ - دوات -  
 دَیْوَتٌ - بے غیرت - بھڑوا -  
 دِیَّةٌ خُونٌ بہا - رقم جو خون کے عوض لی جاوے -  
 دِیْکٌ جِ دِیْوِکٌ مَرْفَا -

دَانٌ یَدِیْنِ دَیْنًا - قرض لینا -

دَانٌ یَدِیْنِ دِیْنًا وَ دِیَانَةٌ - پابند مذہب ہونا - ایمان  
 تَدَائِنٌ بہ کسی مذہب کا پابند ہونا -

مَدَّیْنٌ - دیندار آدمی - دَیْنٌ جِ دِیْوَنٌ - قرضہ اردو  
 دِیْنٌ جِ اَدِیَانٌ - دِیَانَةٌ جِ دِیَانَاتٌ مذہب وین -  
 تَدَائِنٌ بہ کسی مذہب کا پابند ہونا -

مَدَّیْنٌ - دیندار آدمی - دَیْنٌ جِ دِیْوَنٌ - قرضہ - اورھا  
 دِیْنٌ جِ اَدِیَانٌ - دِیَانَةٌ جِ دِیَانَاتٌ - مذہب دین  
 عقیدہ دَانٌ قَرْضٌ رِیْنٌ والا -

مَدَّیْوَنٌ - جسے قرض دیا گیا ہو - قرضدار -  
 یَوْمَ الدَّیْنِ - قیامت کا دن - دِیَانٌ بدلہ دینے والا -  
 مَدَّیْنَةٌ جِ مَدَّائِنٌ - شہر - بستی - ملک -  
 مَدَّیْنٌ - مدینہ شریف کا رہنے والا - شہری - باشندہ

## بَابُ الدَّالِ

دَامَ ذِیْ وَ ذِیْ مَثَ دَانٍ بِجَالَتِ رَفَعِ

ذِیْنِ بِجَالَتِ نَسَبٌ وَ جَمْعٌ اَوْلَاعٌ بِہِ اِشَارَةٌ قَرِیْبٌ

ذَاكَ مَثَ ذَانِكَ وَ ذِیْنِكَ جِ اَوْلِیْكَ - وہ - وہ

شخص (اشارہ متوسط)

ذَٰلِكَ م - تِلْكَ ج اُولَٰئِكَ وَه (اشارہ بعید)

مَاذَا كَمَا؟ رَاكَ ذَاكِيوں؟ كَذَا - اِيَا - اِسْطَرَح -

كَذَا اَيْك اِسْطَرَح - نِيْر - هَذَا مَث -

هَذَا اِنْ وَهَاتَا اِنْ ج هُوَ لَا اِيْه لَوْگ - يِه پِيْرِي - (اِسْم

اِسْرَارَه كِه شَرْعِيْ مِيْن اِيْه تَبِيْه لُكَا لِيْ كِيْ هِيْ)

هَذَا اِسْطَرَح - يَلِن - ذِيْئِبْ ج ذِيْاِبْ بِيْطِيْرَا -

ذَا اِثْر الذِيْئِبْ - بِيْوَك كَا مَرِيْض -

ذَبْ يَذَبْ ذَبًا عَن - دَفْع كَرْنَا دُوْر كَرْنَا بِيْطَانَا - رُوْكُنَا -

مَحَاظَنَت كَرْنَا - ذَبَابٌ ج اَذِيْبَةٌ كَهْطِيْ شَهِيْدِيْ كَهْطِيْ -

ذَبِيْحٌ يَذْبَحُ ذَبِيْحًا - چِيْرِيَا - بِيْطَانَا - كَا لُتْنَا - كَا لُتْنَا كَا لُتْنَا فَيُحْ كَرْنَا

ذَبِيْحٌ مَث ذَبِيْحَةٌ ذَبِيْحٌ كِيَا هُوَا - قُرْبَانِيْ كِيَا هُوَا (جَانِي)

مَذْبُوحٌ ج مَذَابِيْحٌ بُوْجُورْ خَانَه - جَانُوْر ذَبِيْح كَرْنِه كَا مَقَام

مَذْبُوْحٌ - حَلَال كِيَا هُوَا - قُرْبَانِيْ كِيَا هُوَا -

ذَبِيْحٌ اِلٰهِيْ وَ حَضْرَت اِسْمَاعِيْل عَلَيْهِ السَّلَام كَا لَقَب -

ذَبَابٌ وَ قَدْ ذَبَبَ هَلْنَا - تَرُوْد كَرْنَا - تَرُوْد كَرْنَا -

مَتَذَبِبِيْنٌ مَث مَتَرُوْد - شَك وَ شَبِيْه كَرْنِه اِلَا -

مَتَذَبِبٌ مَث مِيْن كِه مَعَاظِلَه يَنْدِه سَبِيْ عَقِيْدَه مِيْن تَمَذُّد كَرْنَا -

شَك وَ شَبِيْه مِيْن مَبْتَلَا هُوْنَا كِه شَايِدَه يِه عَقِيْدَه غَلَط هُوَا -

ذَبُوْلٌ پُتْرُوْگِيْ - كَلْمَا لِيْط - مَنَعَف - دُوْبَلَا پُوْرِيْ اِنْوَالِيْ -

تَرُوْتَا نَرُگِيْ كَا كُوْبَا جَانَا - ذَا اِبْلٌ مَنَعِيْفَا - لَافِر -

ذَخِرٌ يَذْخُرُ ذَخْرًا وَ اِذْخَرُوْا اِذْخَرًا - اِيْذِه كِه لِيْ

بِجَانَا - جَمْع كَرْنَا - ذَخِيْرَه كَرْنَا - كِيْ كِه لِيْ تُوْشَه مَبِيَا كَرْنَا -

ذَخِيْرَةٌ ج ذَخَائِرٌ - بَحِيْث - ذَخِيْرَه - رَسَد - بِيْا كِه

كُوْبُوْگِيْ چِيْرِيَا - تُوْشَه -

ذَوِيْدٌ ذَوَا - بَكِيْرِيَا - چِيْرْتَا - ذَمْرَةٌ چِيْرِيَا چِيْرِيَا

ذَرَّةٌ اَيْك ذَرَه - چِيْرِيَا چِيْرِيَا - ذَرُوْرٌ پُوْرِيَا - چِيْرِيَا كَرْنِه

كِي دُوْا لِيْ - سَفُوْط -

ذَرِيَّةٌ ج ذَرِيَّاتٌ اُوْلَا دِيْنَسَل - بَعْد مِيْن اِنْوَالِه جَانِي

ذَدْبٌ - اِسْبَال كِي مَرِيْض - سَنَكْرَهِيْ چِيْش -

ذَرَعٌ يَذْرَعُ ذَرْعًا - اِيْتُوْن سِه مَپِنَا -

ذِيْ سَرَاخٌ اَيْك اِيْتَه - اُوْدَهَا گَز -

ذَرِيْعَةٌ ج ذَرَايِعٌ وَ سِيْدَه - ذَرِيْعَه - وَ اِسْطَه - سَبِيْبَا

ذَعْنٌ يَذْعُنُ ذَعْنًا وَ اَذْعَنَ لِيْ كِيْسِيْ كَا مِطْع وَ فَرَا نَبْرَا

هُوْنَا كِيْسِيْ كِه اِيْگِه سِرْ هَجَا دِيْنَا - اِذْعَانٌ - اِطَاعَت

فَرُوْتِيْ - تَسْلِيْم تَا بُوْدَارِيْ -

ذَفْرٌ تِيْز خُوْشِيُوْ وَا لَا -

ذَقْنٌ ج اَذْقَانٌ مِثُوْرِيْ - رُوْطِيْ -

ذَكَرٌ يَذْكُرُ ذِكْرًا وَ يَذْكُرُ ذِكْرًا - يَاد كَرْنَا -

يَاد رَكْنَا - تَذَكَّرَ يَاد رَكْنَا - خِيَال كَرْنَا -

مَذَاكِرَةٌ بَاهِمٌ كَفْتُوْ كَرْنَا - بَا ت دِيْنَه - بَاهِمٌ مَشُوْرَه كَرْنَا

ذَاكِرٌ يَاد كَرْنِه اِلَا - ذَاكِرَةٌ قُوْت عَاقِلَه -

مَذْكُوْرٌ بِيَان كِيَا هُوَا - تَعْرِيْف كِيَا هُوَا -

تَذْكُوْرَةٌ يَاد كَرْنَا - يَاد دِلَالَسِه اِلَا - يَاسِيُوْرِيْط - سَنَد

اِحَاذَت نَامَه - نَشَانِيْ -

تَذَكَّرَ نُوْشَه كَرْنَا - يَاد رَكْنَا - نَشَانِيْ - رُوْدَه نَا مِجَر -

ذَكَرٌ ج ذَكَوْرٌ - نَر - اَلَه تَنَا - ل -

ذِكْرِيْ - يَاد دِهَانِيْ - نَصِيْحَت - اِطْلَاع - دِل يَاد زَبَان

سِه ذَكْر كَرْنَا - مَذْكُوْرٌ - نَر - مَذَكَّرَ (لَفْظ)

تَذَكَّرَ كِيْرُ زَبَانَا - مَذَكَّرَ جَانَا

ذِكْرِيْ يَذْكُرُ ذِكْرًا - تِيْز دِيْن هُوْنَا - زِيْر كِه ذُوْد فِهْم نِيْ ذَاكِرِيْ

ذَوَاتَا وَ دَوَانِجِ ذَوَاتِ مَالِكٍ - قابض - علوی  
مشتمل - رکعتی والا -

ذَاتُ بَدْرٍ - بین - نفس - شخص - حقیقت - ماہیت - خود  
ذَاتُ الْبَيْنِ - باہمی تعلق -

ذَاتُ الصُّدْرِ - راز - نمونیا - پذیرتیر - اپنے آپ  
فی ذَاتِهِ - آپ ہی -

إِسْمُ الذَّاتِ - وہ اسم جو ذات سے پر ولالت کرے  
بمخلاف اسم صفت کے -

ذَاتِي - منسوب بہ ذات - ذاتی - فطری -

ذَاتُ الْجَنْبِ - ہل کا درد

ذَابَ يَذُوبُ ذَوْبًا وَ ذَوْبَانًا - بگھل جانا گھل جانا

يَذُوبُ كُفَّالِي - بوتہ

ذَاقَ يَذُوقُ ذَوْقًا وَ مَذَاقًا - چھکنا - آزمانا - مزے

کا احساس کرنا - ذَوْقٌ وَ ذَائِقَةٌ - مزہ - احساس لذت

ذَوْقٌ سَلِيمٌ - طبع درست - وجدان صحیح - مذاق اصلی

مَذَاقٌ وَ قَتٌ يَأْكُلُهُ حَكِيمٌ -

أَذَاعَ يَذِيعُ إِذَاعَةً بَحِيلًا - عام کرنا -

ذَالَ يَذِيلُ ذَيْلًا - لمبا ہونا - دامن دار ہونا -

نَذِيلٌ تَمَّةٌ لُكَاةٌ - ایڈ کرنا -

ذَيْلٌ جِ ذَيْوُلٌ - بچھلا حصہ - دم - تسمہ - حاشیہ -

## بَابُ الرَّاءِ

رَاتِيْنٌ دَرَجَتٌ حَيْسَلٌ كَالْوَدِّ -

رَأْسٌ يَرَأْسٌ رِيَّاسَةٌ سِرْدَارٌ هُونَا - چودھری ہونا -

ذَكِيٌّ جِ أَذْكِيَاءٌ - تیز فہم - آدمی ذکاوت جس کی تیری -

ذَكَاءٌ سَوْجٌ - آفتاب -

ذَلَّ يَذِلُّ ذُلًّا وَ ذِلَّةٌ وَ مَذَلَّةٌ - خواہ ہونا - فراموش ہونا

اور مطیع ہونا تَذَلُّ لِكُلِّ مَطِيعٌ هُونَا - انکساری -

ذَلِيلٌ - پست - خوار - مطیع - ذُلٌّ اطاعت -

ذَمٌّ يَذُمُّ مَذْمُومٌ الزَّامُ دِيْنَا - ملامت کرنا عیب

کرنا - ذَمٌّ بِرَأْيٍ - مذمت - ذَمَّةٌ جِ ذِمَامٌ مَمَاتٌ جَمَاعَةٌ

فرض - ذِمْيٌّ - اسلامی حکومت کے ماتحت دوسرے مذہب

کا آدمی - ذَمِيْمٌ مَلَامَةٌ كِيَا هُونَا - مَذْمُومٌ سَرِيْسٌ كِيَا هُونَا

أَذْنَبَ يَذْنِبُ ذَنْبًا قَصُورًا كُنْهًا هُونَا - ذَنْبٌ كُنْهًا

ذَنْبٌ جِ ذُوْبٌ كُزَاهٌ قَصُورٌ - ذَنْبٌ جِ أَذْنَابٌ - دم بہل

ذَوَالذَّنْبِ - دوار - دنیا لہ دار (ستارہ)

ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا وَ مَذْهَبًا - جانا کسی راستہ چلنا

مَذْهَبٌ جِ مَذَاهِبٌ مَذْهَبِيْنٌ - راستہ طریقہ -

ذَهَبٌ سَوْنَا - مَذْهَبٌ - طبع شدہ - سنہری -

ذَاهِبٌ جَانِيٌّ وَ اللّٰهُ هَيَّيْ نَسُوْبٌ بِهٖ مَذْهَبٌ

ذَهَلَّ يَذْهَلُّ ذَهْوَالًا سَنَ كَيْ جَوَلٌ جَانَا غَافِلٌ هُونَا

ذہن سے اتر جانا -

ذَهْنٌ يَذْهَنُ ذَهْنًا - تیز فہم ہونا - پلٹا پڑنا ہونا

ذَهَانَةٌ سَمْحَدَارٌ هُونَا -

ذِهْنٌ جِ أَذْهَانٌ - فہم - عقل - سمجھ بیاداشت -

ذِهْيْنٌ - صاحب فہم و فراست تیز عقل اور سمجھ والا دانا -

زود فہم - ذِهْيْنِيٌّ نَسُوْبٌ بِهٖ ذِهْنٌ - دماغی - خیالی -

ذُوٌّ - ذَا ذِيٌّ - تشبیہ - ذَوَا وَ ذَوَانٌ جِ ذُوٌّ مَوْنٌ

ذَاتٌ تَشْبِيْهٌ -





رَتَبًا يَرْتَبُ وَتَرْتَبٌ - وَرَتَبٌ تَرْتَبًا مَضْبُوطٌ  
کردینا۔ قائم کردینا۔

رَتَبَةٌ جَ رَتَبٌ - مَرْتَبَةٌ مَرْتَبَةٌ جَ مَرَاتِبٌ  
درجہ۔ رتبہ۔ درجہ۔ مرتبہ۔ منصب۔ درجہ۔ ترتیب۔ نظام۔  
رَتَبٌ وَذَلِيلٌ - تَرْتِبٌ نَظَامٌ - مَرْتَبَةٌ جَ مَرَاتِبٌ  
درجہ۔ رتبہ۔ درجہ۔ مرتبہ۔ ترتیب دینے والا۔  
مَصْنُوفٌ وَمَوْثُوفٌ - مَرْتَبَةٌ جَ تَرْتِبٌ دِي تَرْتِبِي مَوْثُوفَةٌ  
بالترتیب۔ نظام کے ساتھ۔

رَقْلٌ تَرْتَبًا لَأَوْضَاعٍ وَرُصَافٌ بِرُصْنَا لُطْهُرِ طَهْرِكُ  
الک الگ ہونے کے پڑھنا۔

رَبِّي يَرْبِي رَشِيًّا - مَرْدٌ بِرُؤْيَا -

مَرْتَبِيَّةٌ وَهِيَ تَقْرِيرٌ يَنْظُمُ جُودَ مَرْدٍ فِي تَعْرِيفِ مَرْتَبِيَّةٍ  
مَرَاتِبِيٌّ - قُوَّةٌ شَدِيدَةٌ كَانَتْ مَعَهُ مَعَانِي كِي نَظْمِيَّةٍ -  
ایک قوم جو توفی لوگوں کے نام وغیرہ اور شجرہ نسب  
یا درکھنے کا کام کرتی ہے۔

رَجَبٌ - قَمَرِيٌّ سَالٌ كَالسَّائِلِ مَبِينٌ - مَرَجَبٌ  
عزیزت والا۔

رَجَحٌ يَرْجَحُ رَجْحًا نَازًا - جَهَاكُ جَانَا تَرَازُوكَ بِرُؤْيَا  
ایک طرف جھکانا۔

رَجِيحٌ قُوَّةٌ دِيْنَا - تَرْجِيحٌ دِيْنَا - زِيَادَةٌ وَزِيَادَةٌ جَانَا  
رَجِيحٌ وَزِيَادَةٌ - غَالِبٌ - قَابِلٌ وَثِقٌ مَرَجِحٌ تَرْجِيحٌ دِيَا هُوَا  
زیادہ معتبر۔ زیادہ وثوق کے قابل۔

رَجْحَانٌ جَهَاكُ - مِيلَانٌ - رَغْبَةٌ - مَرَجِحَةٌ اِسْلَامٌ  
کا ایک فرقہ جن کا عقیدہ ہے کہ ایمان کافی ہے عمل  
کی ضرورت نہیں۔

رَجَزٌ يَرْجُزُ رَجْزًا نَظْمٌ بِحُرُوفٍ مَبِينَةٍ - يَاشَعْرُ بِنَا  
رَجَزٌ كِنَاهٌ - رَجَزٌ كِنَاهٌ - رَجَزٌ كِنَاهٌ - رَجَزٌ كِنَاهٌ

رَجَزٌ كِنَاهٌ - رَجَزٌ كِنَاهٌ - رَجَزٌ كِنَاهٌ - رَجَزٌ كِنَاهٌ  
تَعْقِدُ نَوْشِي سَكْرَتٌ - بِيْرِي تَبَاكُو وَغَيْرُهُ كِي عَادَتٌ -  
أَمْ رَجُوزَةٌ - اِيك قِسْمٌ كِي نَظْمٌ يَاقَعِيْدَةٌ جِسْ كِي بِرُصْرَعَةٍ  
میں قافیہ معین ہوتا ہے۔

رَجَسٌ يَرْجُسُ رَجْسًا بِرَاكَامٍ كِرْنَا رَكْنًا هُونَا -  
رَجَسٌ وَرَجَسَةٌ - عَذَابٌ - غَضَبٌ - پَلِيدِي -  
براکام۔ نجاست۔ ناپاکی۔

رَجَعٌ يَرْجِعُ رَجْعًا - لَوْثَا - وَاپس آنا۔

رَجَعَةٌ دُوْبَارَةٌ زَمْدَةٌ هُونَا - حَشْرٌ وَنَشْرٌ -

رَاجِعٌ لَوْثَةٌ وَآلَا - مَرَجُوعَةٌ وَاپس لوٹا گیا۔

مَرَجِعٌ لَوْثَةٌ كِي جَلَّةٌ - تَرْجِيحٌ وَاپس لوٹانا۔

رَجْعِيٌّ شَرِيْعَتٌ مِيْنِ وَهِي طَلَاقٌ جِسْ مِيْنِ مَرْدٍ بِرُؤْيَا دُوْبَارَةٌ هُونَتْ كُو  
اپنے ساتھ رکھ سکتا ہو۔ مَرَا جَعَةٌ وَاپس۔

اِسْتِرْجَاعٌ وَاپس لینے کا مطالبہ کرنا۔

رَجْعِيٌّ - وَاپس۔ رَجْلٌ يَرْجُلُ رَجْلًا - پیدل چلنا۔

اِرْتَجَلٌ اِرْتَجَالٌ فِي الْبَدِيَّةِ كِنَاهٌ - بَغِيْرُوَيْ حَمْمٌ شَعْرَانَا  
رَجْلٌ جَ رَجَالٌ - پیدل۔ مرد۔

رَجْلٌ جَ اِرْتَجَلٌ پَاؤُنْ - طَائِفٌ -

مَرْتَجِلٌ بِرُحْبَتِ كَلَامٍ - فِي الْبَدِيَّةِ تَقْرِيرٌ -

رَجْلٌ اَلْعَرَابُ اِيك جَمْنَاكُ - پائے زانواں - اِبْرَاطَانُ

ایک بوٹی کا نام ہے جس کی گڑھ میں کپڑے

ہوتے ہیں۔ رَجْوَلِيَّةٌ - قُوَّةٌ مَرْدِيَّةٌ - طَاقَتٌ بَاہُ -

مَرَجَلٌ - وِيك كِنَاهٌ -

رَجْمٌ يَرْجُمُ رَجْمًا سَكْرًا كِرْنَا - لَعْنَتٌ كِرْنَا - پھر مارا کر قتل کرنا

رَجْمًا اَلْغَيْبُ - اِحْلَ بُو بَاتِيْنُ كِرْنَا - قِيَاسٌ دُوْرَانَا -

رَحِيمٌ لعنتی۔ پتھر اڑ کیا ہوا۔

رَجَا يُرَجُو رَجَاءً کسی چیز کی امید کرنا۔ انتظار کرنا۔

رَاجِحٌ امید کرنے والا۔ مَرَجُوْهُ جس سے امید کی جائے۔

أَرْجُوَانٌ۔ ارغوانی رنگ۔ ارغوان کا پھول

رَحِبٌ يُّرْحَبُ رَحْبًا وسیع ہونا۔ کشادہ ہونا۔

أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا مراد یہ کہ وَصَلْتُ أَهْلًا یعنی اے

اے والے تو اپنے اہل میں آ پہنچا ہے وَسَهْلًا اور نرم

زمین میں آ گیا ہے وَمَرْحَبًا اور کشادہ جگہ میں داخل ہو گیا

تُرْحِبُ کسی کو مَرْحَبًا کہنا۔ کسی کی اذیت بھگت کرنا۔ کسی

کو شتاب دینا۔ خوش آمدید کہنا۔ رَحِيْقٌ عمدہ خالص شرب

رَحَلٌ يُّرْحَلُ رَحْلًا وَرَحِيْلًا وَارْتَحَلَ عَنْ وَالِي الْكُوفِ

کرنا۔ ہجرت کرنا۔ سفر کرنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔

انفعال مکان کرنا۔ رَحَلْتُ سفر کا روز نامہ۔

ارْتِحَالٌ نقل مکانی۔ مَرَحَلَةٌ ج مَرَاحِلُ منزل مسافر

کے ایک دن کا سفر۔ اہم مقام۔

الرَّحِيْلُ الرَّحِيْلُ کوچ کے لئے تیاری کردہ کوچ کا

وقت پہنچا۔ رَاحِلٌ مسافر۔ خانہ بدوش۔

رَحِمٌ يُّرْحَمُ رَحْمَةً وَمَرْحَمَةٌ نرم دل ہونا۔ ہرانی

کرنا۔ معاف کرنا۔ تَرَحَّمْتُ کسی سے ہرانی کا ساوک کرنا۔

مَرْحَمَةٌ ج مَرَاحِمٌ۔ ہرانی۔ ترس۔

رَاحِمٌ رَحْمَانٌ رَحِيمٌ ہرانی کرنے والا بغیر عمل کے شفقت

کرنے والا۔ بلا مبادلہ رحم فرمانے والا۔ معمولی عمل کا بڑھ پڑھ

کر بلا دینے والا۔

رِخْمٌ ج الرِّخَامُ۔ عورت کی بچہ وانی۔ گریبہ دان۔ پورس۔

زَوَالِ الرِّخْمِ رشتہ دار۔

مَرْحُوْمٌ رحم کیا ہوا۔ بخشا ہوا۔

أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔

رَحْمَانِيَّةٌ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جس سے وہ بندوں پر

بغیر کسی عمل کے ہر بانی فرماتا ہے۔

رَحِيمٌ ج رَحَائِمٌ۔ نیکی کا بڑھ پڑھ کر بدلہ دینے والا۔

رَحِيْمِيَّةٌ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جس سے وہ آخرت

میں اعمال کا اچھا بدلہ دے گا۔

رُخٌ۔ ایک خیالی جانور جس کو سیرف کہتے ہیں۔

رُخْتُ۔ سامان۔ ساز۔ زمین۔ جہول۔

رُخَصٌ يُّرْخَصُ رُخْصًا سستا ہونا۔

رُخِصٌ سستا۔ رُخْصَةٌ اجازت چھٹی۔ تعطیل۔

مُرْخَصٌ ڈیلی گیٹ۔ رُخَامٌ سنگ برمر۔

تُرْحِيْمُ اسم منادی۔ سے آخری حرف حذف کرنا۔

رُخِي يُّرْخِي رُخْوَةً نرم ہوجانا۔ ڈھیلا ہونا۔

اِسْتَرْحَاؤٌ ڈھیلا ہوجانا مُسْتَرْحِيٌّ ڈھیلا پڑ جانے والا۔

سست ہوجانے والا۔ تَرَاخِيٌّ۔ ڈھیل دینا۔

رَدٌّ يُّرَدُّ رَدًّا۔ واپس کرنا۔ پیچھے ہٹانا۔

تَرَدَّدٌ۔ کبھی آگے آنا کبھی پیچھے ہٹنا۔

تَرَدَّدِيٌّ۔ رد کرنا۔ غلط ثابت کرنا۔

اِرْتِدَادٌ۔ دین کو جھوٹا کرنے اور لامذہبیت اختیار کرنا

مَرْتَدٌّ جو دین کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے۔

مُتَرَدِّدٌ۔ شک و شبہ میں گرفتار۔

اِسْتِرْدَادٌ۔ واپسی کا مطالبہ کرنا۔

مَرْدُوْدٌ۔ رد کیا ہوا۔ لعنتی۔ رَدٌّ جواب۔ رد۔ تردید۔

رَدِيٌّ۔ ردی۔ بُرَا۔ خراب۔ شریر۔

رَدِّیْعٌ پیچھے آنے والا۔ شعر کا موزون لفظ سوار  
کے پیچھے دوسرا سوار۔ تَوَادُّقٌ۔ الفاظ کا ہم معنی ہونا۔  
مُتَرَادِفٌ ہم معنی لفظ۔ متشابہ المعنی  
أُرْدُنُّ۔ فلسطین کا ایک دریا جس کے ایک طرف کا علاقہ  
دو شرق اُردُن کہلاتا ہے۔

رِدَاؤُ جادو

رَذِیْلٌ۔ پُورِذَلٌ رَذَا لَتَّ کمینہ ہونا حقیر و ذلیل ہونا  
رَذِیْلٌ کمینہ۔ حقیر۔ کم اصل۔ أَرْدَلٌ ج اَرَادِلٌ۔  
خواب۔ کمینہ بہت حقیر۔ رَذُّ أَرْدٌ۔ چاول۔ بد بچ  
إِرْزِیْقٌ قلعی۔ بست۔

مَرَزِبَانٌ۔ گسان۔ رئیس۔ گورنر

رَمَاقٌ یُرْزَقُ رَمَاقًا۔ دینا۔ بخشنا عطا کرنا۔ ضرورتاً  
زندگی مرحمت کرنا۔

رِزْقٌ۔ روزی۔ غذا۔ عطیہ۔

رَازِقٌ روزی دینے والا۔ اسباب معاش بہیا کرنے والا  
مَرَزُوقٌ جسے رزق دیا جائے۔

رَمَاقٌ اللہ تعالیٰ کا نام۔ بہت رزق دینے والا۔  
رِزَانَةٌ سنجیدگی۔ رائے کی مضبوطی۔

رَمَازِیْنٌ سنجیدہ رائے والا مضبوط۔ باوقار۔ بوجھل۔  
رَازِبٌ۔ سونف۔ بادبان۔

رُزْقَانَةٌ روزنامہ۔ تقویم۔ جنت سری۔ کیلنڈر۔  
(روزانہ اخبار اردو)۔ رُسُوبٌ۔ بچھٹ۔ گاد۔ دُود۔

رُسَاقٌ۔ گسان۔ دہقان۔ روستا۔

رَسَخٌ یُورِثُ رَسُوخًا۔ گر جانا۔ جمنہ۔ قائم ہونا۔

رَاسِخٌ مضبوط گرا ہوا۔ کائناتش فی البحر ہونے والا۔

رَاسِخٌ فی الْعِلْمِ۔ علم میں خوب ماہر۔

أَرْسَلْتُ یُرْسِلُ إِرسَالًا۔ بھیجا۔ آند کرنا۔ فصحت  
کرنا۔ بھاگنا۔

رَسُولٌ ج رَسُلٌ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا۔

مُرْسَلٌ خدا کا رسول اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دنیا کی طرف  
بھیجا ہوا۔ رَسَالَةٌ پیغمبری۔ ایچی گری۔ وفد۔

مُرَاسَلَةٌ ج مَرَاسِلَاتٌ خط و کتابت۔ نامہ و پیام۔  
رَسَمٌ یُرْسَمُ رَسْمًا اھلی۔ زمین پر نشان ڈالنا۔ خط  
کھینچنا۔ نقش کرنا۔

رَسْمٌ ج رُسُومٌ و رَسُومَاتٌ نشان۔ خط۔ خاکہ نقش  
قاعدہ۔ قانون عام رواج۔ رَسْمِیٌّ رواجی۔ سرکاری۔

رَسْمًا۔ رسم اور رواج کے طور پر۔

مُرْسُومٌ منقش۔ نشان کیا ہوا۔ فَاکْمٌ شدہ رواج و قاطع  
جمع۔ مَرَامٌ تعلقات۔ آپس کے تعلقات۔

مُرْتَسِمٌ کھدا ہوا۔ منقوش۔

رَسْمٌ۔ رسی۔ جالندہ کو ڈالنے کی رسی۔

رَشْحَةٌ عرق۔ پسینہ۔ تری۔ مَرْتَشِمٌ ٹپکنے والا۔

تَرَشَّحٌ۔ ٹپکنا۔ بہنا۔ قطرہ قطرہ گرنا۔ رَسْنَا۔ پھوٹنا۔

رَشْدٌ یُرْشَدُ رَشَادًا۔ صحیح راستہ پر چلنا۔ ہدایت  
یافتہ ہونا۔ راہ پر ہونا۔ أَرَشَدَا إِرشَادًا۔ ہدایت دینا۔

راہ نمائی کرنا۔ سیدھے راستے پر چلانا۔

إِشْرَاقٌ۔ ہدایت اور راہ نمائی چاہنا۔

رَشْدٌ۔ سعادت۔ راستی پر استقلال۔

رَشَادٌ صحیح دستور العمل۔ رَشِیدٌ سیدھے راستے پر چلنے والا۔  
ہدایت پایا ہوا

مُرْتَبِدٌ - سیدھا راستہ بتانے والا - ہادی - راہ نما

حَبَبُ الرَّشَادِ - ہالیوں

سَبِيلُ الرَّشَادِ - سیدھا راستہ

رَشْوَةٌ - پھدہار - رَشْوَةٌ - آنکھ میں ڈالنے کا پھدہار

باریک دوا جو آنکھ میں ڈالی جائے - ذرور

رَشِيدٌ - اچھی صورت والا - خوشنما

رِشَاقَةٌ - خوشنالی - نفاست - پاکیزگی - لطافت - اچھی نورت

وَشْكَالٌ - نفاست - تحریر -

رَشَائِدٌ - رَشْوَةٌ - رشوت لینا

رِشْوَةٌ - رشوت - رَاشِيٌّ - رشوت دینے والا

مُرْتَشِيٌّ - رشوت لینے والا - رشوت وہ چیز یا روپیہ

جو کسی دوسرے کا حق غصب کرنے کے لئے کسی حاکم کو

دیا جائے -

رَاشِيٌّ - وظیفہ جو کاریگر کے شاگرد کو دیا جاتا ہے -

رُشْدٌ - کھڑکی - جھروکہ - روشن دان

رِصَاصٌ - قلعی - سکہ - سیہ

رِصَاةٌ - مَرْمُوسٌ - مضبوط عمامت جس کی وزروں میں

سکہ بگھلا کر ڈالا گیا ہو -

رِصَاةٌ - سیہ کے رنگ کا

رِصَاةٌ - سکی گولی جو بندوق میں ہوتی ہے -

رِصْدٌ - يَرِصِدُ - رِصْدًا - حفاظت کرنا - نگہبانی کرنا

رِصْدًا - حفاظت رکھنا - لگانا -

رِصْدٌ - کینگہ - سیادل کی حرکت کو دیکھنے کی جگہ -

مَرِصِدٌ - کینگہ - رصد گاہ

مَرِصَعٌ - جواہرات سے بڑا ڈکھا ہوا -

رَضَعٌ - تَرَضُّعٌ - سوئے یا جواہرات سے بڑا ڈکھا ہوا

تَرَضُّعٌ - ترتیب دینا -

رَضٌّ - دُلنا - کوٹنا - کچلنا - کچلا جانا -

رَضِعٌ - يَرْضَعُ - رَضَاعَةٌ - بچے کا دودھ پینا - پستان چوسنا -

مَرَضِعَةٌ - دانی - دودھ پلانے والی -

رَضَاعَةٌ - دودھ پلانا -

رَضِيْعٌ - دودھ بھائی - مَرَضِعَةٌ - دودھ بھائی ہونا -

رَضِيٌّ - يَرْضِيٌّ - رَضْوَانًا - مَرَضِيَّةٌ - عن کسی سے خوش ہونا -

خوشنود ہونا -

اِسْتَرْضَاءٌ - خوشنودی چاہنا -

رَاضٍ - خوش ہونے والا -

رِضَاءٌ - خوشنودی - رضامندی - خوشی -

مَرَضِيٌّ - پسندیدہ - مَرَضِيٌّ - پسندیدہ - رضامندی - باہم ہونا

عَيْشَةٌ - رَاضِيَةٌ - اچھی زندگی - راحت و آرام کی زندگی -

رَضِيٌّ - تالی یافتہ

رِضْوِيٌّ - فسوب - رضی جو امام علی رضی اللہ عنہ علیہ کی اولاد کو

رَطَبٌ - يَرطِبُ - رَطُوبَةٌ - گیلا ہونا - تر ہونا - بیلا ہونا -

تَرطِيبٌ - گیلا کرنا - تر کرنا -

رَطَبٌ - گیلا - تر - مَرطُوبٌ - تری ہونا

رَطُوبَةٌ - تری - تازگی - تازگی

رَطْلٌ - آدھ سیہ کا وزن -

رَعَبٌ - يَرعِبُ - رَعْبًا - ڈرانا - ڈر جانا -

رَعْبٌ - دہشت - خوف - ڈر - مَرعُوبٌ - خوفزدہ - ڈرا ہوا

رَعْدٌ - يَرعَدُ - رَعْدًا - گر جانا -

لَرَعْدٌ - اِرْعَاؤًا - کانپنا - تمہرانا - لرزانا - ڈرنا خوف کرنا -

رَعَاكَ رُن

رَعَشَ يَرَعَشُ رَعَشًا - رزنا - تھرتھانا - رعش پڑنا

رَاعِيًا شُ تَهْرَتَانَا مَرْتَعِيًا كَانِيَةً اور تھرتھانے والا -

رَعَشِيَّةٌ اطراف کے کانپنے کی مرض -

رَعَاكَ (رَعَفًا) نكسیر - ناک سے خون پھونکنے کی مرض

رَعْنٌ يَرَعْنُ رَعُونَةً - بیوقوف ہونا احمق ہونا -

رَعُونَةٌ بیوقوفی حالت - کبتر - مجب - خود پسندی جسکے ساتھ

ابھی بھی شامل ہو -

رَعَا يَرَعُو رَعُوًا كَرِيًّا تیز سے باز رہنا اجنباب کرنا - پزیر کرنا -

رَعِيٌّ يَرَعِي رَعِيًّا وَرِعَايَةً وَمَرَعِيٌّ - چرنا - خبر گیری کرنا -

نگرانی کرنا - حکومت کرنا - رَعِيَّةٌ ج رَعَا يَا كَلِمَةً يَا غُول

جسکی کوئی نگہبانی کرتا ہے محکوم افراد - رِعَايَةٌ حفاظت

(اردو لحاظ - طرفداری - حمایت) ایتفات

رَاعِيٌّ ج رِعَاةٌ - گویا - حاکم - نگہبان -

مَرَعِيٌّ خیال رکھا ہوا - نگرانی کیا ہوا

مُرَاعَاةٌ لِ لِمَحَاظٍ - بنیال مَرَعِيٌّ چراگاہ

رَغِبَ يَرُغِبُ رَغْبًا وَرَغْبَةً نَوَازِش کرنا - تمنا کرنا - رَغْبَةٌ سَخْتٌ

تمنا - انتہائی خواہش - رَاغِبٌ رَغْبَتٍ کرنے والا - مَرُغِبٌ سَخِيٌّ

رَغِيْفٌ رَوِيٌّ - رَغِيْفَةٌ پیرا

عَلَى الرَّغْمِ - خلاف -

رَغْوَةٌ - رَغْفٌ - جھاک - اَبَالٌ - بالائی -

رَغْنٌ - رَغْدُونٌ - آرگن - باجا - ہارمونیم

رِفَادَةٌ (رَفْدًا) زخم کی پٹی -

رَفْرَفٌ - تکیہ - جھپونا - الماری -

رَفِضٌ يَرَفِضُ رَفِضًا - چھوڑ دینا - ترک کر دینا -

مَرَانِضِيٌّ ج رَوَا فِضٌ - کو ذیول کا ایک فرقہ جس نے

زید بن علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں شیخین رض

(حضرت ابو بکر و حضرت عمر رض) کے براکتے پر مجبور کیا لیکن انہوں نے کہا

رَفَعٌ يَرْفَعُ رَفْعَةً - مرتبہ بلند کرنا -

رَافِعٌ إِلَى حَاكِمٍ کے پاس مقدمہ لے جانا

ارْتِفَاعٌ - بلند ہونا - اونچا ہونا -

رَفَعٌ - اُطْحَانًا - بلند کرنا - درجہ بڑھانا -

رَفْعَةٌ مرتبے اور درجے کی بلندی -

رَفَعَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى نے اس کو اعلیٰ مرتبہ بخشا - اَلَيْهِ اللهُ

پاک نے اسکو بزرگی عطا کی - اسکو اپنا قرب مرحمت فرمایا -

رَافِعٌ اپنا قرب بخشنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے ننانویں اسما

عَسَىٰ میں سے ایک نام ہے مَرْفُوعٌ - مَقْرَبٌ جَسَ اللهُ

پاک نے اپنا قرب بخشا ہو

رَفِيعٌ بلند مرتبہ - اونچا کرنے والا

رَفِعٌ بِشَيْءٍ ضَمِيمٍ

مَرْتَفِعٌ اونچا ہونے والا - بلندی والا -

حَيَاتٌ مَرْفُوعَةٌ وہ حدیث جس کی زندہ آنحضرت صلی اللہ

مَرَا فَعَةٌ - مقدمہ - اپیل - دعویٰ -

رِفَاةٌ خوشحالی - تَرْفَةٌ خوشگوار زندگی - مَرْفَعَةُ الْحَالِ خوشی

کی زندگی والہ - رَفُو كِبْرٌ کی مرتبت کرنا - رفو کرنا

رَفِيقٌ يَرْفِقُ رَفِيقًا وَرَفِيقَةٌ بِ سَا تھی ہوا - نرمی کرنا

رَفِيقٌ ج رَفِيقًا سَا تھی - مَرَا فَعَةٌ ایک دوسرے

ساتھی بنا - رَفِيقٌ زَمِيٌّ -

رَفِيقٌ زَمِيٌّ کا برتاؤ کرنے والا -

مَرْتَفِقٌ آرام کی جگہ -



میں مصروف رہتے ہیں لہذا آخری عشرہ (دس دن) اللہ پاک کی محبت اور عشق اور تامل قرب اللہ رضا اللہ خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے احتکاف یعنی تنہائی میں کاٹتے ہیں رَمَقٌ زندگی کا آخری سانس - نزع کی حالت -

رُمَقَةٌ قوت لامیوت

رَمَلٌ ریت - بالو علم الترمیل ایک علم ہے جس میں ریت پر خطوط کھینچ کر اٹکل پتھر سے غیب کی باتیں بتلاتے ہیں جو عام طور پر سیاہ جھوٹ ہوتی ہیں -

رَمَلٌ علم عروض میں ایک بحر کا نام جس میں آٹھ بار فاعلاتن آتا ہے رَمَالٌ قیافہ اللہ اٹکل پتھر سے غلط خبریں بتلانے والا - اَرْمَلٌ اَرْمَلَةٌ ج اَرْمَلٌ - بیوہ - زبڈوا - رائد

رَمَانٌ انار کا پھل اور درخت

رَمَانِيٌّ - انار کے رنگ والا - سرخ رنگ والا

رَمِيٌّ يَرْمِيٌّ رَمِيٌّ ترمینا تیر بھینکا کرام تیر انداز -

اَرْنَبٌ ج اَرَانِبٌ خرگوش -

رَوْفٌ - چمک دمک - خوبصورتی - آب و تاب - حسن و

خوبی - شان و شوکت - جاہ و جلال -

تَوَكَّمٌ آواز میں لہر پیدا کرنا - تَوَكَّمَةٌ - لوری - وہ

نظم ہر بار بار دہرائی جاوے -

مَتَرَنِيٌّ سرسلی آواز سے گانے والا - تَرَنٌ یعنی خوش آوازی

سے گیت گانے والا -

رَمْدٌ - رَمْدٌ - اوباش - شراب نوش -

رَهَبٌ يَرْهَبُ رَهَبَةٌ ڈرنا - خوف کرنا -

رَاهِبٌ زاہد - گوشہ نشین - عابد - درویش

رَهْبَانِيَّةٌ راہب کا طریقہ - گوشہ گزینی

رَكْعَةٌ نماز کی ایک رکعت رُكْعَاتٌ

رَكِيْنٌ يَرْكُنُ رُكُونًا الخ کسی چیز کی طرف ٹیک لگانا -

رَكْنٌ ج اُرْكَانٌ ستون - سہارا - جزو - مضبوط

رَكِيْنٌ - مضبوط - مستقل - ثابت قدم

ج اُرْكَانٌ - سردار - منبر دار الخ

اُرْكَانٌ اُرْبَعَةٌ ہوا - پانی - خاک - آگ

رَمٌّ وَتَرَمٌّ - ترمینا - درست کرنا مرمت کرنا -

مَرَمٌ مرمت کرنے والا درستی اور اصلاح کرنے والا -

جُونٌ کاتوں کر دینے والا - تَرْمِيْمٌ اصلاح اور درستی

کرنا ج تَرْمِيْمٌ وَتَرْمِيْمَاتٌ اصلاح کے طور پر پڑنا

رَمِيْمٌ - بوسیدہ - گلی سڑی ہوئی ہڈی -

رَمِيْحٌ ج رِمَاْحٌ نیزہ - رَامِيْحٌ نیزے والا

رَمْدٌ اَشْوَبٌ شَمٌ - آنکھ کا دکھنا - درد چشم -

رَمَادٌ - راکھ - خاک

رَمَزٌ يَوْمِزٌ رَمَزًا آنکھ سے اشارہ کرنا - آنکھ ہونٹ

وغیرہ کے اشارہ دایم سے بتلانا -

رَمُوْرٌ ج رَمُوْرٌ اشارہ - رَمُوْرَةٌ اشارہ

رَمُوْرٌ ایسی عبارت جس میں اشارات ہوں تصریح نہ ہو -

رَمَضٌ يَرْمِضُ رَمَضًا بہت گرم ہونا (موسم) جھون دینا -

جِلٌّ جَانَا - مجلس جانا (دھوپ یا سورج کی گرمی سے) گرمی

اور تپش کی شدت ہونا -

رَمَضَانٌ قمری سال کا نواں مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کے

عاشق بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق

کی گرمی اور تپش اور سوزش پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کے

حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور دن رات اس کی عبادت

إِرَادَةٌ - خوش عقیدہ ہونا - مُرِيدٌ پیرو - مُرَادٌ خواہش مطلب  
ج مُرَادَاتٌ - اِرَادَةٌ - مرضی - ارادہ -

ارادی - اختیاری - اپنی مرضی کا

رَاجٌ - راج - معاروں کا افسر - راجگیری کرنے والا اُردو  
میں یہی لفظ بگڑ کر راج بن گیا ہے -

رَاضٌ يَرْضَى - رَوْضًا وَرِيًّا ضًا وَرِيًّا ضًا مطیع ہونا  
سدا ہانا - سکھانا - چلنے کی مشق کرنا - جسمانی ورزش - نفس کشی  
مُرْتَضٌ نفس کشی کی مشق کرنے والا - عابد زاد اصلاح نفس  
اور اخلاق کی درستی کرنے والا -

رَوْضٌ - رَوْضَةٌ ج رِيَّا ضٌ - باغ - بستان - مرغزار -  
تر و تازہ سبزہ زار

عِلْمُ الرِّيَاضِي - علم حساب و پیمائش - ج رِيَّا ضِيًّا عِلْمٌ  
واقفیدس ببرد و تقابلہ و علم ہیئت وغیرہ

رَافِدٌ - ریوند جیسی ایک دریا کا نام ہے جو امراتش حکیم  
سے سے وغیرہ کھولنے کے کام آتی ہے -

رَافِدَانٌ - روستندان - تاجران - دیوار کا مورچہ اور  
دسوپ کے لٹے -

رَوْزِنَامَةٌ - روزنامہ کیلئے اور روزنامہ

رَوْقٌ - صاف کرنا یا صاف کرنا

مَرَوْقٌ بَعْضِيٌّ - قطف کرنا - اسیانہ

کبیری - افسانہ - سنا - اذاتی العین - اوردو

رَائِبٌ صَدَفٌ - ترو لیا جانا یا ٹپ

رِيَالٌ دالر - اضلاع - قدم امیر کا سکہ

رُومٌ - بحیرہ روم کے شمال میں رہنے والے لوگ -

رُومِيٌّ - رومیوں کے ایک فرقہ کا نام جو ان کے گیارہ

رَهْبَانٌ درویش پارسا - زاہد  
مَرْمَمٌ ج مَرَامٌ - مرہم - لیب - صناد

رَهْنٌ يَرْهِنُ رَهْنًا - گروی کرنا -

اِرْتَهَنٌ - گروی لینا - رَهْنٌ - گروی

رَهِيْنٌ گروی شدہ - مَرْمُوْنٌ منون - گروی شدہ -

مُرْتَهِنٌ گروی لینے والا - رَاهِنٌ گروی رکھنے والا -

رَوِيَّةٌ فکر اور فہم - تامل و تفکر -

اِرْيَبٌ - لائق فہم -

رَاحٌ يَرْوِحُ ذَوَا حَا - شام کو سفر کرنا -

اِرَاحٌ يَرْوِجُ اِرَاحَةً - کسی کو راحت پہنچانا -

اِسْتِرَاحٌ - آرام کرنا - راحت لینا -

مُسْتَرِيحٌ راحت و آرام کرنے والا -

مُسْتِرَاحٌ بیت الخلا جہاں پر قضائے حاجت کے ذریعہ  
راحت حاصل ہوتی ہے -

رَاحٌ وَرَاحَةٌ راحت آسانی - آرام - سکھ - چین سکون و شہرت  
بَيْتُ الرَّاحَةِ - غسل خانہ - پائخانہ -

رَوْحٌ - راحت و آرام - ہوا اور خوشبو کا مجموعہ -

رُوحٌ ج اُرُوَاحٌ - روح - جان - سانس - زندگی - الہام -

وحی - زندگی کا دار و مدار -

رُوحَانِيٌّ ج رُوحَانِيَّوْنٌ منسوب بہ روح - غیر جسمانی -

فیرادی ریح تیز و تند ہوا - ج رِيَّاحٌ ہوا میں -

رُحْيَانٌ ج رِيَّا حِيْنٌ - خوشبودار - نباتات - ناز بوٹسی

رَاحَةٌ ج رَوَاحٌ - خوشبو - مَرَوْحَةٌ - پنکھا - بادکش -

مَرُوْحٌ الاذواح خوشی پہنچانے والا - اِرْتِيَا حٌ خوشی -

اِرَادٌ يَرِيْدُ اِرَادَةً - چاہنا - خواہش کرنا -



رَدْمَةُ الْكَبْرَى - اٹلی کے دارالخلافہ کا نام -

مَرَاتِمٌ مَقْصِدٌ - مطلب -

رَوَى يَرْوِي رِوَايَةً كَيْ دوسرے کے اقوال یا بیان کا نقل کرنا۔ حوالہ دینا۔ کسی قابل اعتبار سند کا۔ رَاوِي رَوَايَتٌ كَرِهٌ رَوِيٌّ رَوَايَتٌ كَرِهٌ - حوالہ دیا ہوا۔ سند کے ساتھ بیان کیا ہوا۔

رَوِيَّةٌ غُورٌ وَفَكْرٌ - ضرورت

رَوَايَةُ طَرَامَا - ناول -

رَابٌ يَرِيْبٌ رَيْبًا وَارَابٌ كَيْ كُوشَكٌ فِي دَالَتِ - رَيْبٌ شَكٌّ وَشِبْهُ - بدگمانی۔ بدبختی -

لَا مَرِيْبٌ فِيْهِ اِسٌّ فِي شَكٍّ وَشِبْهُ كِي كُنْجَالِشْ نَهِيْن -

اِرْتِيَابًا شَكٌّ وَشِبْهُ - اضطراب

مَرِيْبٌ - شَكٌّ فِي تَلَانِيْ وَالَا -

رَبِيْعَانٌ - عَمْرٌ كَا اِحْجَا حَصَّة - ابتدا سے عمر جوانی -

مُرْتَمِمٌ - حَضْرَتٌ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي وَالِدُهُ مَا جَدَّهُ كَا نَام -

رَايَةٌ ج رَايَاتٌ - جھنڈا - عِلْمٌ -

رَيْقٌ - بھوک - خالی معدہ -

## بَابُ الرَّاءِ

رَبِيْبٌ - كَشْمِشٌ - سُوْكُوْا اَنْكُوْرٌ - مَرِيْبٌ

رَبِيْدٌ وَرَبِيْدَةٌ - كَمْحَنٌ - بِاللَّامِ - عَمْدَةٌ حَصَّةٌ - بَهْتَرِيْنِ حَصَّةٌ

رَبِيْدٌ حَبَاكٌ - دھات کی میل -

مُرَبِيْدٌ - بِلُوْنِي - (مدھانی پنجابی) رُبِيْدَةٌ - عورت کا نام

رَبِيْبٌ نَبِيْبٌ - نَقْلٌ كَرِيْنَا - عَمْدٌ كِي كَمْحَنَا -

رَبُوْرٌ ج رُبُوْرٌ كِتَابٌ وَصَحِيْفَةٌ - حَضْرَتٌ رَاوْدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

پَرِنَا زِلٌ شَدَّهُ صَحِيْفَةٌ كَا نَام -

رَبِيْرٌ - اَيْكٌ بَرْكٌ صَحَابِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَا نَام

مُرَبُوْرٌ - لَكَمَا هُوَا - تَخْرِيشٌ شَدَّهُ

رَبُوْرٌ جَدُّ - اَيْكٌ قِيْمَتِي سَبْرٌ تَهْمَا لٌ بِه رَسُوِي مُشَابَهُ رَقْرَدٌ - اَيْكٌ قَسْمٌ كَمَا

رَبِيْبٌ - كَمْحَنٌ - تُوْبْرَا - (رَبِيْلٌ)

مُرَبِيْلَةٌ - كُوْرِي - رُوْرِي - كَمَا دَا دُھِيْرٌ - كَمَا دَجْمَعٌ كَرْنِي كِي جَلْهٌ -

رَبُوْنٌ ج رِبَانِيْنٌ - كَنْدُ فَمِيْنٌ - بِي وَقُوْفٌ - كَا بَكٌ

رَبَاَجٌ شَيْشَةٌ رُبَاَجَةٌ لَمِبٌ شَيْشَةٌ كَا بَرْتَنٌ -

رَبْرِيْرٌ ج رُبْرِيْرٌ - جَمْرٌ كُنٌ - مَنَعٌ كَرِيْنَا - رَسْرِيْلُشْ كَرِيْنَا - جَمْرٌ كِي دِيْنَا

رَاَجِرٌ جَمْرٌ كُنِيْ وَالَا - رَحِيْرٌ يَحِيْشٌ - اِسْهَالٌ -

رِيْحَاتٌ عِلْمٌ عَرُوْضٌ كِي سَبَبٌ نَفِيْفٌ يَا سَبَبٌ ثَقِيْلٌ كِي تَغْيِيْرٌ كَا

نَامٌ (رَحْفٌ) رَحْلٌ - سَاْرَهُ رَحْلٌ - كَامٌ بِسِيْ عَلِيٍّ رَسِيْرٌ وَالَا (رَحْلٌ)

رَحْمٌ يَرْحَمُ رَحْمًا وَرِحَامًا - بَهِيْرٌ كَرِيْنَا - هَجُوْمٌ كَرِيْنَا -

رَاْحَمٌ كِي پَرِ كَرِيْنَا - اِرْحَامٌ هَجُوْمٌ - بَهِيْرٌ - جَمْرٌ كَرِيْنَا -

رَحْمَةٌ - رَحْمَا پِيْلٌ - مَرَاْحَمَةٌ رُوْكٌ - مَقَابِلَةٌ (اُرْدُو)

مَرَاْحِمٌ - هَجُوْمٌ كَرْنِيْ وَالَا - رُوْكُنِيْ وَالَا -

رَحْرٌ يَرْحُرُ رَحْرًا - دَرِيَا كَا چُرْھَنَا - سَمْنَدِرٌ كَا پَرِ ہونا -

رَحَاْرٌ جَمْرٌ مَوْجَزٌ يَهْرَا هُوَا سَمْنَدِرٌ -

رَحْرَفٌ ج رَحْرَاْرَتٌ نُوْبُوْرَتِي - سُوْنَا - دُنْيَا دَارِي كَا سَاْمَانٌ

دُنْيَا كِي نُوْبُوْرَتِيَاں - مَرَحْرَفَاتٌ - بِيہوہ کلام

رَحْمٌ بَدُوْدَارٌ ہونا (گوشت) رَطْرَجَانَا (گوشت)

زَقْوَمٌ - تنوہر کا درخت - مہلک غذا  
 زَكَامٌ - سردی لگنا - زکام ہونا - نزلہ -  
 مَزْكُوْمٌ - زکام کی بیماری والا  
 زَكِيٌّ يَزْكُو زَكَاةً بَرِّهًا - زیادہ ہونا - پاک و صاف ہونا  
 اچھا ہونا -

زَكَاةٌ پائینگی - عمدہ حصہ - زکات - خیرات - صدقہ - نُؤْمٌ  
 جو اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہو - زَاكٍ - زَكِيٌّ ج ازکیاء گناہ  
 سے پاک - راست باز مَزْكِيٌّ تزکیہ کرنے والا - مَزْكِيَّةٌ پاک کرنا  
 اَزْكِيٌّ - زیادہ پاکیزہ - زَكِيَّةٌ پاک عورت -

زَلَّ يَزِلُّ زَلًّا يَهْلِكُ يَهْلِكُ يَهْلِكُ - غلطی -  
 بھلا ہٹ - ٹھوکر - بغیر ارادہ کے قصور -

زَلَالٌ صاف پانی - مَزَالَةٌ پھلن - پھلنے کی جگہ  
 زَلَابِيَّةٌ جلیبی - پیٹری

زَلَزَلَةٌ ج زَلَزِلٌ زمین کا ہلنا - بھونچال - تَزَلُّوْلٌ  
 زمین کا ہل جانا - هَيْجَانٌ - ہیل - ہنگامہ -

زَلَقٌ پھلنے کی جگہ -  
 مَزْدَلِقَةٌ مکہ شریف کے قریب ایک مقام -

زَلَقٌ الْأَمْعَاظِ اسہال - ایک مرض جس میں کھانا فوراً کھانے  
 کے بعد بغیر منہم ہوئے خارج ہو جاتا ہے -

زَوْقَانٌ ج أَرْقَمَةٌ - کام - ہاتھ -  
 زَمْرَةٌ ج زَمْرٌ - ہتھکڑی - جھانگڑ -

مِزْمَارٌ ج مِزَامِيْرٌ - مِزْلٌ - بانسری - خدا کی تعریف کا گیت  
 حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور کی کتاب

إِزْمِيْرٌ - شہر سمنان - (ٹرکی میں)  
 زَمْرَدٌ سبز مہرا - سبز قیمتی پتھر -

مِزْرَابٌ پرنالہ (ذَرَبٌ)  
 زَرَعٌ يَزْرَعُ زَرْعًا - بونا - کھیتی کرنا - پودا لگانا -  
 زِرَاعَةٌ کھیتی باڑی کا کام - مَزْرَعَةٌ کھیتی -  
 مَزْرُوعَةٌ بوئی ہوئی زمین - مَزَارِعٌ - کسان کھیتی باڑی کرنے والا  
 زُرَافَةٌ شتر گاو - گنڈ و ایک جنگلی جانور شتر نما چیتا ایک لمبی گردن  
 کا جانور جو ازرق میں ہوتا ہے -

زَوْرَقٌ چھوٹی کشتی  
 اَزْرَقٌ - نیلا رنگ -

زَرْكَشٌ ریشمی اور سنہری تاروں کی کیمچو اب یا زربفت -  
 زَرْبِيْحٌ ہر تال زرد

زَرْنَبٌ - برمی - زعفران  
 زُرْطٌ - جٹ - کسان - جاٹ -

زَعْفَرَانٌ نیسر - زعفران  
 زَعْمٌ يَزْعُمُ زَعْمًا وَ زَعَامَةً ب ذمہ وار ہونا کسی کا ضامن ہونا

زَعِيْمٌ ضامن - ذمہ وار - ج زَعْمَاءٌ - جواب دہ - نمائندہ  
 زَعْمٌ - دعویٰ - خیال مَزْعُوْمٌ خیال کیا ہوا -

زَعَامَةٌ ذمہ داری - مسؤلیت - سرداری - شرافت  
 مَزْعُوْمَاتٌ خیالی باتیں بے حقیقت امور بے دلیل باتیں -

زُعْلُوْلٌ تیرو - پھرتیلا - چست  
 زِفْتٌ رال - زَفْتٌ - رال لگانا یا لگنا -

زِفَافٌ دلہن کو دولہا کے گھر لے جانا  
 كَيْلَةُ الزَّفَافِ - دولہا دلہن کی ہم بستری کی پہلی رات شب وصال

زَفِيْرٌ لمبی سانس - آہ - بیخ -  
 زَقَاقٌ ج أَرْقَةٌ - گل - کوچہ - تنگ راستہ

الزَّقَاقُ - جبرالٹر - جبل الطارق -

زَنْدِيقٌ جَزْفَانٌ بِي دِينَ - مَجُوسِي - مَنَافِقٌ - دُودَا  
ماننے والا -

زَنْجَارٌ جَزْفَانٌ بِي دِينَ - مَجُوسِي - مَنَافِقٌ - دُودَا  
جینو -

زَنْدُ حَقْمَاقٌ كَا بَطْمَر

زَنْدِيمٌ - لَيْبِمٌ - كَمِينَةٌ - بِدَاوِل

زَنْجِي يَنْزِي زِنَاءً زِنَا كَرْنَا - بِدَمَعَا شِي كَرْنَا

زَانِي مَتَّ زَانِيَةٌ زِنَا كَرْنَا - كَنْبِي

زِيَةٌ - كِيَا خُوبٌ - بِهِيَتٌ اِجْمَا - وَاه

زَهْدًا يَزْهَدُ زُهْدًا دُنْيَا كُو جُوهُورٌ دُنْيَا - دُنْيَا سَبِي

رَغْبَتِي كَرْنَا زَاهِدًا جَزْهَادٌ - تَارِكٌ الدُّنْيَا - بِرَهْبَنِي كَارِي

عَابِدٌ - زَاهِدٌ - زُهْدًا بِرَهْبَنِي كَارِي - زَهَادَتٌ بِرَهْبَنِي كَارِي -

زَهْرٌ يَزْهَرُ زَهْرًا - جَلْمُ كَانَا - رُوشَنٌ هُونَا - جَلْمَا

زَهْرَاءُ خُوبُصُورَتٌ عَوْرَتٌ - زَهْرَةٌ دُنْيَا كِي جَلْمٌ وَك

زُهْرَةٌ اِيكٌ سَتَارَةٌ كَا نَامٌ -

زَهْرٌ - كَلِي شَكُونَةٌ - اَزْهَرٌ جَلْمٌ رَنگٌ وَالا - بِهِيَت

جَلْمٌ دَمَكٌ وَالا - زَاهِرٌ - خُوشَنَاءُ -

زَاجٌ - بِشَكْرِي شَبٌ -

زَوْجٌ اس نے نِكَاحٌ كِيَا - اِيكٌ مَرَدٌ اَو مَرُوءَتٌ كُو اَپْسِ مِي

اِيكٌ دُوسَرِي كَا زَوْجٌ بِنَايَا -

تَزَوُّجٌ - اس نے شَادِي كِي -

زَوْجٌ - خَاوَنَدٌ - بِهِيَتٌ - زَوْجَتٌ جَزْوَاجٌ جَدُّه -

تَزْوِيجٌ شَادِي كَرْنَا - زَوْاجٌ جُورَا دُنْيَا -

اِنَّ دِي وَاجٌ شَادِي كَرْنَا - جُورَا هُونَا - نَدِيجَةٌ نِكَاحٌ مِي اَنَا

زَادٌ يَزُوذُ زَوْذًا وَكَزَوْذٌ - نَارَاہٌ بِاَنُوشِ مَتَا كَرْنَا -

زَادٌ سَفَرَا كَانَا - قُوشِدٌ -

زَمْزَمَةٌ دُورٌ سِي اَوَاكٌ كُو بِنَا - سُرٌّ سِي كَانَا -

زَمْزَمٌ بَكْرَتٌ پَانِي - بِهِيَتٌ اَللّٰهُ شَرِيْفٌ كَا كُنُوَاں جُو حَضْرَت

بَاجِرٌ عَلِيْهَا السَّلَامٌ اَوْر حَضْرَتٌ اَسْمَاعِيْلٌ عَلِيْهِ السَّلَامٌ كِي لِي

اَللّٰهُ تَعَالَى كِي قُدْرَتٌ سِي بِصُورَتٌ چَشْمَةٌ بِهِيَتٌ نِيكَلَا -

زَمْزَمَةٌ اَللّٰهُ تَعَالَى كِي حُدُوكَا گِيَتٌ جَسْتَرْتُمٌ اَوْر سُرٌّ سِي كَا كَر

اِسْكِي اِحْسَانَاتٌ كَا ذِكْرٌ كِيَا جَاوِي -

زَمْزَمِيٌّ اَبٌ زَمْزَمٌ سِي بِهِيَتٌ هُوَلِيٌّ دُوبِي -

مَرْمِلٌ كِيْرٌ لِيْشِيْنَةٌ وَالا - كَيْلٌ اَوْر هُنِي وَالا - اَنْخَرَت

صَلِي اَللّٰهُ عَلِيْهِ وَاسَلَمٌ كَا اِيكٌ نَامٌ حَسْبٌ سِي اَبٌ كُو نُبُوْتٌ كَا كَام

كِرْنِي كِي تَرْغِيْبٌ دِي گِيِي هِي - قُرْآنٌ پَاكٌ كِي اِيكٌ سُوْرَةٌ شَرِيْفٌ

زَمْنٌ - زَمَانَةٌ جَزَمِيْنَةٌ - زَمَانَةٌ - وَاقْتُ - زَمَانٌ زَمَانٌ

وَاقْتُ رُوْزٌ كَارِي - عَهْدٌ مُؤْمِنٌ پَرَانَا - اِمَامٌ السَّرْمَانِ

اِمَامٌ الزَّمَانِ - زَمَانَةٌ كَا اِمَامٌ - مَوْجُوْدٌ دُورٌ كَا مَجْدٌ يَا

اِمَامٌ وَاقْتُ -

زَيْنَبٌ نَامٌ مَبَارَكٌ بِنْتٌ كَرَامٌ سُرُوْرٌ دُو جِهَانٌ اَنْخَرَت

صَلِي اَللّٰهُ عَلِيْهِ وَاسَلَمٌ -

زَهْرِيٌّ سَخْتٌ سُرُوْرِي

زَنْبُورٌ جَزَنْبُورٌ - بِهِيَتٌ -

زَنْبِقٌ - كَلٌ سُوْسٌ - كِنُوْلٌ كَا پَهُوْلٌ اَوْر پُوْرَا -

زَنْجِيٌّ - زَنْگِي جِيَشِي

زَنْجِيْلٌ سُوْنِيْطٌ - اَدْرَكٌ -

زَنْجَارٌ - زَنْكَارٌ - زَنْجَارِيٌّ - زَنْكَارٌ كَا رَنگٌ

زَنْجَبَارٌ اَفْرِيْقَةُ كِي مَشْرِقِي مِي اِيكٌ جَزِيْرَةٌ -

زَنْجِيْرٌ - سَنگَلٌ - زَنْجِيْرٌ لُوْسِي كِي -

زَنْجُوْرٌ شَنْدَرٌ -

Basic Arabic Dictionary.

لغات العربیہ الاساسیہ یعنی تلخیص العربیہ یا خلاصۃ المنہج اردو

زَادَ يَزِدُّ زِيَادَةً - ملاقات کرنا۔ ملنا۔  
 زَائِرٌ يَزُورُ وَاللَّاءُ - زریٹر ج زَائِرِينَ - مَزَارٌ  
 ملنے کی جگہ۔ زِيَارَةٌ ملاقات۔ مَزَارَاتٌ - اولیاء  
 کے مقابر و مقامات۔ زَوَّارٌ زہارت کرنے والے۔  
 ملاقاتی صحابی۔ الزَّوْرَاءُ - بغداد زَوْرٌ جھوٹ  
 تَزْوِيْرٌ جھوٹ ثابت کرنا۔ مَزُوْرٌ جھوٹ  
 بنانے والا جلساز۔

زَاعَ يَزْدَعُ زَوْعًا جَحَكَ جَانًا - بیٹھا ہوجانا  
 زَيْجٌ كَجِي بِيْطْرَهَائِيْن - زَاعٌ كَوَا -  
 زَالٌ يَزُوْلُ ذَوَالٌ پھر جانا۔ الگ ہوجانا  
 ذَوَالٌ عَلِيْعِدَه كَرْنَا - هِثَانَا - ذَائِلٌ غَيْرُ پَائِدَار -  
 مَزِيْلٌ - زائل کرنے والا ہٹانے والا۔ لَمْ يَزَلْ  
 وَلَا يَزَالُ وہ ذات پاک جو ہمیشہ سے ہر اور ہمیشہ  
 رہے گی۔ اِذَالَةٌ - دَفِيْعَةٌ - ہٹانا۔ علیحدہ کرنا۔

زَوِيٌّ يَزُوِيٌّ زَيْتًا - اِيْكُ طَرَفٌ كَرْنَا - اِنزَوِيٌّ  
 كَنَارَه كَشِي - اَلْكَ هُو جَانًا - مُنْزَوِيٌّ كَنَارَه كَشِي كَرْنَا  
 زَاوِيَةٌ ج زَوَايَا - كُوْنَه - گوشہ۔ زاویہ۔

زَيْبَقٌ - پارہ۔ سیاب۔  
 زَيْتٌ - تیل۔ جوہر۔ زیتون کا تیل۔ زَيْتُوْنٌ  
 زیتون کا درخت یا پھل۔ زَيْتُوْنِيٌّ - زیتونی رنگ کا  
 زَيْبَاتٌ - تیل۔ تیل بیچنے والا۔

زَيْجٌ - ستاروں کی گردش کا نقشہ۔ معاموں کا تاگا۔  
 جس سے دیوار کو برابر کرتے ہیں۔  
 زَادَ يَزِيْدُ زِيَادَةً - بَرَّهْنَا - بَرَّهَانًا - زِيَادَةٌ  
 زِيَادَةٌ زیادتی۔ زَائِدٌ زیادہ۔ مَزِيْدٌ زیادتی  
 والا۔ تَزَايُدٌ ایک دوسرے سے خرید و فروخت  
 میں بڑھنا۔ زَائِدَةٌ بڑھوتری۔

زَانٌ يَزِيْنُ زَيْنًا - سَجَانًا - آراستہ کرنا۔ زَيْنَةٌ  
 خوبصورتی۔ مَزِيْنٌ خوبصورت کیا ہوا۔ سِنُوَارٌ ہونا  
 مَزِيْنٌ حجام۔ نائی۔ بالوں کو ٹھیک کرنے والا۔  
 زَيْجٌ - شکل و ہیئت۔ لباس۔ فیشن۔ رسم۔

بَابُ السَّبَبِ

س۔ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنوں میں کر  
 دیتا ہے۔ سَيَضْرِبُ سَأَلَ يَسْأَلُ سَأَلًا  
 پوچھنا۔ مَأْكَلًا - سَائِلٌ مانگنے والا۔ فَهْمٌ  
 مَسْأَلَةٌ مَسَائِلٌ حَاجَةٌ سَائِلٌ سَائِلَةٌ  
 مَسْئُوْلٌ پوچھا جانے والا۔ مَسْئُوْلِيَّةٌ ذمہ داری  
 سَائِدٌ باقی سب۔ تمام۔ بقیہ  
 سَبَبٌ يَسْبَبُ سَبَابًا - سَخْتٌ گالی دینا۔ سَبَابَةٌ  
 گالی دینے والی۔ انگوٹھے کے ساتھ کی انگلی۔  
 سَبَبٌ جَ اسْبَابٌ - ذریعہ سبب۔ سَبَبٌ - سَبَبٌ

مُسَبِّحٌ - سبب پیدا کرنے والا۔ ذریعہ نکالنے والا (مذہب)  
سَبِيحٌ ہفتہ کا دن۔ آرام کا روز۔ سَبَابٌ کثرت  
سے نیند آنے کی مرض۔

سَبَعٌ يَسْبَعُ سَبْعًا وَسَبْعًا پانی میں تیرنا  
سَبَعٌ تَسْبِيحًا - اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا سبحان  
کہنا۔ سَبْحَةٌ - تسبیح۔ مناجات۔ وظیفہ۔ سَبْحَانُ  
اللہ خدا پاک ہے۔ سَبَّاحَةٌ تیرنے کا فعل سَبَّحَ  
تیرا۔ تَسْبِيحَةٌ حمد کا گیت۔ مَسْبُوحٌ تسبیح کرنے والا  
سَبَطٌ اَسْبَاطٌ پوتا۔ نواسا۔ یہود کا قبیلہ۔ گرو  
سَبَاطٌ اَبْرِي كَاهِنٌ کوچہ بندی یہود دو مکانوں کے  
درمیان ہو۔

سَبَعٌ يَسْبَعُ سَبْعًا ساتواں ہونا۔ سَبْعٌ سِت  
سَابِعٌ ساتواں۔ سَبْعُونَ ستر۔ اَسْبُوعٌ ہفتہ  
سَبَاعِيٌّ سات حرفوں والا لفظ۔ سَبْعٌ سَبْعٌ  
ورندہ سَبْعِيَّةٌ ورنڈی۔

سَبَقٌ يَسْبِقُ سَبَقًا آگے ہو جانا۔ پہلے آنا۔  
آگے نکل جانا۔ تَسَابُقٌ مقابلہ۔ سَبَقَةٌ پہل کرنا۔  
مُسَابَقَةٌ آگے نکلنے کے لئے مقابلہ کرنا۔ سَابِقِيٌّ  
گنڈا ہونا۔ سَوَابِقٌ مسبووق پیچھے چھوڑا ہوا  
سَبَاقٌ اَلْكَلامِ کسی کلام سے پہلے کی عبارت۔

سَبَلَةٌ سَبَالٌ مویں والی سی کا اگلا حصہ۔  
سَبِيلٌ سَبِيلٌ راستہ۔ سَبْرٌ ذریعہ۔ واسطہ  
اَبْنٌ سَبِيْلٌ مسافر۔ راہ رو۔ سَبَدٌ چھ۔ سَبُونٌ  
ساٹھ۔ سَبْرٌ يَسْبُرُ سَبْرًا سبوتا۔ چھپانا۔  
سَبْرٌ اَشْتَارٌ پرودہ۔ سَبْرَةٌ اَوْتُ پرودہ۔

سَاتِرٌ پرودہ پوش۔ سَتَّارٌ بہت چھپانے والا۔  
مَسْتَوِرٌ چھپا ہوا۔ مَسْتَوِدَةٌ چھپی ہوئی۔  
سَجَدٌ يَسْجُدُ سُجُودًا۔ سر نیچے کرنا۔ سَاجِدٌ  
جھکنے والا۔ سجدہ کرنے والا۔ سَبَا۔ عربوں کا ایک قدیم  
قبیلہ۔ مَسْتَتِرٌ پوشیدہ۔ چھپا ہوا۔

اَلرَّشَاتَةُ قَسَطْنِيَّةٌ۔ استنبول۔ مَسْجِدٌ  
مَسَاجِدُ سجدہ کرنے کی جگہ۔ عبادت کا مقام۔  
سَجَادَةٌ جگہ نماز۔ اَسْتَجَبْتُ۔ چوتڑا۔ مَقْعَدٌ۔ وُجُو  
سَجَعٌ يَسْجَعُ سَجْعًا۔ مُتَقَشٍ نثر میں کہنا  
مَسْجَعٌ۔ مُتَقَشٍ عبادت۔ سَجَلٌ رِجْلٌ میں صبح  
کرنا۔ سَجِلٌ دَفْرٌ تَسْجِيلٌ رِجْلٌ کرنا۔  
سَجِيلٌ سنگ گل کا معرب ہے کھنگر۔ گارا۔ جن میں  
پتھر لے ہوں۔

سَجْنٌ يَسْجَنُ سَجْنًا قید کرنا۔ روکے رکھنا  
مَسْجُونٌ قیدی۔ سَجْنٌ قیدخانہ۔ سَجِينٌ ا  
دو زرخ کی آگ۔ سَجَانٌ داروغہ جیل۔ سَجْدَجَلٌ  
شیشہ۔ چاندی کا ٹکڑا۔ سَجِيَّةٌ سَجَايَا  
خصلت۔ عادت۔ خلق۔ سَجَابٌ سَجَبٌ باد  
سَجْبَانٌ عرب کے ایک فصیح اللسان آدمی کا نام  
سَحْرٌ يَسْحَرُ سَحْرًا وَسَحْرًا جادو کرنا  
فریفتہ کرنا۔ سَحْرِيٌّ کھانا۔ تَسْحَرُ سَحْرِيٌّ کھانا  
سَحْرٌ جادو۔ دھوکا۔ دل کو بھانسنے والی بات۔  
سَاحِرٌ جادوگر۔ مَسْحُوْدٌ مِسْهُوتٌ۔ جادو کیا ہوا  
سَحْرٌ اَشْحَادٌ سَحْرِيٌّ کا وقت۔ سَحْوَمٌ  
پچھلی رات کا کھانا۔

سَحَقٌ يَسْحَقُ سَحَقًا وَسَحَقٌ  
تَشْحِيقًا پینا۔ سفوف کرنا۔ پیس کر اٹا کر دینا  
رگڑ کر بار بار کرنا۔ سَحِيقٌ بار بار کسی ہوئی ہو  
سَا حِلٌ سَوَا حِلٌ سَمَدٌ کاناہ۔

سَخْتٌ سَخَتْ شَدِيدٌ  
سَخِرَ يَسْخَرُ سَخْرًا وَسَخْرَةً بِ  
مِنْ كَسِي كَا مَذَاقِ اُرْثَانَا كَسِي پربنسنا۔ تمسخر کرنا۔  
مُسَخَّرٌ قَابُومٍ كَمَا هُوَا تَشْخِيزٌ كَسِي كُوْبَسٍ  
مِنْ لَانَا قَابُومِ كَمَا هُوَا بِيْكَارِ لِيْنَا مَسْخَرَةٌ  
وہ چیز جس کی وجہ سے ہسی کی جائے۔

سَخِيْفٌ كَزُوْعِقْلٍ وَاَلَا بِيُوْقُوْفٍ تَشْخِيْنٌ  
گرمی پہنچانا مُسَخِّنٌ گرمی دینے والا۔  
سَخِيٌّ يَسْخِي سَخَاءً سَخِيٌّ هُوَا فَيَاضٌ هُوَا  
سَخَاءٌ سَخَاوَةٌ فَيَاضِيٌّ خَشَشٌ

سَخِيٌّ هُوَا اَسْخِيَاءٌ فَيَاضٌ سَخَاوَتٌ كَرْنَةُ وَاَلَا  
سَدَّ يَسُدُّ سِدًّا اَدَا وَرَسَتْ هُوَا طَيِّبٌ  
ہونا۔ سیدھا ہونا۔ سِدِيْدٌ طَيِّبٌ سِيْدَهَا  
سَدَّ اَدَّ وَرَسَتْ سِيْدَهَا پِن سَدَّ رُوْكٌ پَرْدَه  
پُشْتَه مَسْدُوْدٌ بِنْدٌ كَمَا هُوَا رُوْكَا هُوَا

سَدَّةٌ سَدَّ سَدًّا رُوْكٌ كَسِي خَلَطٌ كَا حَمِيمٍ  
مِنْ رُوْكٍ جَانَا سِدَّةٌ سِيْرِي كَا وَرَخْتٌ سِدَّةٌ  
اَلْمُنْتَهَى اَنْتَهَائِي سِيْرِي يَعْنِي اَنْتَهَائِي كَمَا  
سَادِسٌ حِيْطَا سُدْسٌ حِيْطَا حَصَه سَدَّ اَسِي  
چھترنی لفظ سُدْسٌ چھترنی والی نظر چھ  
فِيْرُوَا رِيُوَاوَر سَدُّوْمٌ رُوْمٌ لُوْمٌ كَا شَهْرٌ

جو زلزلہ سے تباہ ہوا۔ سَدَّ اَبٌ تَتَلِي كَا پَرْدَه حَس  
كِي پَتُوْن كَا لِيْب تَلِي كِي بُرْ حَصَه كُوْر وَا كَتَا هِي  
سَا فِجْرٌ سَاوَه سَدَّ اَجْتَهٌ سَاوَكِي

سَرَّ يَسِرُّ سُرُوْرًا وَا مَسْرَةً نُوْشٌ كَرْنَا  
اَسْرًا رَاو كُو مِجَانَا مَسْرُوْرٌ نُوْشٌ سِرْجٌ اَشْرَاكِي  
بِجِيْد سِرِّيْرٌ لَاجٌ سَرَايْرٌ بِجِيْد رَاو سِرِّي  
پُوْشِيْدَه اَهْمَتَه كَا لَطْرَا لَاشْرَاوِيْر پَرَايْمُوِيْب  
سِيْكِرِي سُرَّةٌ نَافٌ سِرِّيْرٌ سُرُوْرٌ

تَحْتٌ چَار پَانِي بَاو شَاهِت سُرُوْرًا قَمِيْصٌ نِيْدَه  
سِرَايْمٌ وِيَا سُوْرَجٌ چَرَاغٌ سُرَايْمٌ زِيْنٌ سَاو  
سُرَجِيْنٌ سُرِيْنٌ مَنَسْرِيْمٌ عِلْمٌ عَرُوْضٌ كِي اَبَك  
بَحْرٌ كَا نَامٌ رَا اَسْرَحٌ وَه كِيْطَه اَنَا كَرْنِيْكََا هُوْجِي

سِيْدَا بٌ نَخَاةٌ سِرْدَانَه سُرَايْمٌ سُرَايْمٌ  
سُوَا دِقَاتٌ قَنَاتٌ يَا نَمِيْمَه كَا پَرْدَه خِيْمَه كِي  
پَارُوْن طَرْفٌ كَا پَرْدَه سَرَا پَرْدَه

سِيْرٌ سَاغٌ وَا غَاغٌ كَا وِرْمٌ سُرُوْرًا كِي بِيْكِرَا  
اَبَك بَحْرِي جَانُوْر اَبَك بَرْجٌ كَا نَامٌ كَار بِنَكَل  
بِھُوْرَا

سِرْعٌ يَسْرِعُ سُرْعَةً سِرْعٌ يَسْرِعُ  
كَرْنَا تِيْرِي كَرْنَا تِيْرِي هُوَا سِرْعٌ اَبَك بَحْرِي  
سِرْيَعٌ جَلْدِي كَرْنَةُ وَاَلَا عِلْمٌ عَرُوْضٌ كَا اَبَك بَحْرِي  
سِرْفٌ يَسْرِفُ سِرْفًا سِرْفًا كَرْنَا تَجَاوَز كَرْنَا  
اَسْرَفٌ يَسْرِفُ اَسْرَافًا فِضُوْلٌ خِيْرِي كَرْنَا  
سُرْفَةٌ خَشَكٌ كَمَا سِي سِرْفٌ فِضُوْلٌ خِيْرِي كَرْنَا  
اَسْرَافِيْنٌ فَرِشْتَه قِيَامَتٌ كُو سُوْرِيْوِي كِي بَحْرِي

سَرَقِي يَسْرِقُ سَرِقَةً - چرانا - چوری کرنا۔  
 سَارِقِي پور - سسر وقتہ چوری کیا ہوا۔ (مال)  
 سَارِقَةٌ پورنی - سسر قینج - گوبر - سرگین سزومہ  
 دائمی - سزومدی ابدی - جسکی نہ ابتدا ہونہ انتہا۔  
 سزومقی یا ٹھوکا پودہ - سزوم سروکا درخت  
 سزومال پاجامہ پہننا - سزومال سزومال پاجامہ  
 پاجامہ۔

سَرَى يَسْرِى سَرًى - رات کو سفر کرنا۔  
 سَرِيَّةٌ سَرَايَا فَوْجٍ كَا بَهْوَا دَسْتَه - وہ  
 اسلامی لشکر جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود  
 ساتھ تشریف لے گئے ہوں - سزومہ جس  
 لشکر میں حضور علیہ السلام خود شامل ہوئے ہوں۔  
 سَسْطِيَّةٌ چوتروہ - آلکتریا نینتہ شام کی  
 زبان - سسریانی۔

سَطَعَ يَسْطَعُ سَطْعًا - پھیلانا - بچھانا۔  
 مَسْطَعٌ چوڑا کیا ہوا - پھیلا ہوا۔

سَطْرٌ يَسْطُرُ سَطْرًا - لکھنا - لکیریں کھینچنا  
 خط کھینچنا - اسطورہ فوج اسطورہ سزومہ  
 نشانہ - سسطورہ - سسطورہ کی جمع سسطریں۔  
 لکیریں - مسسطورہ کاغذ پر لکیر کھینچنے کا رولہ  
 مسسطورہ لکھا ہوا - مسسطورہ واروغہ۔

سَطَعٌ يَسْطَعُ سَطْعًا - بلند ہونا - روشن  
 ہونا - سسطع بلند ہونے والا نور۔

اسْطَقِيسٌ - عنصر۔  
 اسْطَوْنٌ اسْطَوْنٌ جَنْجِي جِهَازٌ كَا بِيْرُو

اسْطَوَانَةٌ اسْطَوَانَةٌ - ستون - بچھ سیدھا  
 سَطْوَةٌ - طاقت - سختی - عمدہ - ڈاکہ۔

سَعْتَرٌ وَصَعْتَرٌ اِيْكَ قَسْمٌ كَا پُوْدِيْنَه  
 سَعْدٌ يَسْعَدُ سَعَادَةً - بابرکت ہونا۔

مبارک ہونا - خوش نصیب ہونا - خوش حال ہونا۔  
 سَعِيْدٌ سَعْدًا - خوش نصیب - نیک۔

مَسْعُوْدٌ - خوش حال - خوش نصیب - سَعْدَانٌ  
 زہرہ و مشتری ستارے - لَبِيْثُكَ وَ سَعْدِيْكَ

میں تیری خدمت میں حاضر ہوں + حاضر۔  
 سَعَادَةٌ تِلْكَ حَضُوْرٌ عَالِيٌّ - بوڑا یکیلینسی۔

سَاعِدٌ سَوَاعِدٌ كَلَانِيٌّ - سَعْدَانٌ مُرٌ  
 ایک فارو وار پودہ - جوانہ - جو مصفی خون دوائی ہے

اور اونٹ کی مرغوب خوراک ہے۔  
 سَعْرٌ يَسْعُرُ سَعْرًا جَلَانًا بَهْرُ كَانَا -

سَعِيْرٌ آگ کی لپٹ - شعلہ دار تیز آگ۔  
 سَعَطٌ يَسْعَطُ سَعَطًا نَاكٌ مِيْنِ دَوَانِيٍّ وَ نَاكٌ

کرنا - سَعُوْدٌ نسوار - ناک میں ڈالنے کی دوا۔  
 مِسْعَطٌ نَاكٌ كِي بَچْكَارِي -

سَعْفَةٌ بچے کے منہ یا سر پر کی پھنسیاں۔  
 اِيْجُزِيْمَا سِرْكَالْجِيْ يَزْخَمُ -

سَعَلٌ يَسْعَلُ سَعَالًا كَمَا لَسْنَا - سَعَالٌ  
 ترکھانسی۔

سَعِيٌّ يَسْعِيُّ سَعْيًا - دوڑنا - کوشش کرنا  
 جلدی کرنا سَاعِيٌّ كُوْشِيْشِيْنٌ - ہمت کے کام

سَاعِيٌّ كُوْشِيْشِيْنٌ كَرْنَهٗ وَ اَلَا - سَعَايَةٌ مِغْلِيٌّ كَمَا نَا  
 بہنوئی۔

سَفَاحٌ بہت سخت نوزیری کرنے والا۔  
 سَفَرٌ یَسْفِرُ سَفُورًا۔ سفر کرنا۔ مَسَارٌ  
 سفر کرنے والا۔ سَفِیرٌ ایچی۔ قاصد۔ سَفْرَجٌ  
 آشفاف۔ سفر سَفْرَجٌ و سَفْرَجٌ۔ سفارۃ  
 ایچی گری۔ دو قوموں کے درمیان صلح کرانا۔

سَفْرَجٌ۔ ہی کا پھل۔

سَفْسَطَةٌ۔ وہ محنت جسکی بنا مغالطہ پر  
 ہو۔ باطل استدلال اور قیاس۔ سَوْفِطَاطٌ  
 محسوسات اور مہو ہودات کا منکر۔ وہی اور مشکوک  
 دلائل کا پیرو۔ سَفَاکٌ خون بہانے والا۔ ظالم

بے رحم۔

سَفَلٌ یَسْفُلُ سَفَالًا۔ وَتَسْفُلُ ادنی  
 اور حقیر ہونا۔ نیچا ہونا۔ سَفَلَةٌ کینہ۔ ادنی  
 سَفَالَةٌ۔ کینگی۔ آسْفَلُ السَّاقِلِینِ۔ تمام  
 نچلوں سے بہت نیچے۔ ادنیٰ ترین مقام۔

سَافِلٌ ج آسَافِلٌ نچلے طبقے کے لوگ۔

آسْفَلٌ۔ اعلیٰ کے مقابلہ میں۔ سَفَلٌ۔ پھوگ

تلیمت۔ سَفَلٌ۔ زینتی۔ نچلا۔

سَفِینَةٌ ج سَفْنٌ وَ سَفَائِنٌ کشتی۔ جہاز

سَفِیۃٌ یَسْفِیۃٌ سَفَاهَةٌ بے عقل ہونا۔ یوقوف

ہونا۔ سَفِیۃٌ ج سَفْهَاءٌ بے وقوف۔ بے عقل

سَفْرٌ یَسْفِرُ سَفْرًا۔ جلانا۔ پیش پہنچانا۔

سَفْرٌ۔ وزن۔

سَقَطٌ یَسْقُطُ سَقُوطًا۔ نیچے گرنا۔ نیچے کا

پیدا ہو پٹنا۔ سَاقِطٌ گرنے والا۔ مَسْقُطٌ گرنے کی

اِسْقَاطٌ گرانا۔ مَسْقِطٌ گرانے والا۔

سَقَفٌ یَسْقِفُ سَقْفًا چھت ڈالنا۔

سَقْفٌ ج سَقْفٌ۔ چھت۔ آسمان۔

مَسْقِفٌ چھتا ہوا۔ سَقِیْقَةٌ۔ ڈیوڑھی۔

چھتی ہوئی ڈیوڑھی۔ اِسْقِفٌ ج آسَاقِفَةٌ

پادری۔

سَقَمٌ یَسْقَمُ سَقَمًا۔ بیمار ہونا۔ سَقَمٌ

ج آسَقَامٌ بیماری سَقِیْمٌ بیمار۔ کمزور۔

سَقْمُو نَبَا۔ ایک دوا جو مسہل ہے اور صفرا

کو بذریعہ اسہال نکالتی ہے

سَقْفٌ یَسْقِی سَقْفِیًا۔ پلانا۔ آب پاشی کرنا

پانی دینا۔ سَاقِی پانی یا شراب پلانے والا۔

اِسْتِسْقَاءٌ پانی مانگنا۔ ایک نماز کا نام جو جس

میں بارش مانگنے کی دعا کی جاتی ہے۔ نیز ایک بیماری

کا نام بھی ہے جس میں مریض بار بار پانی مانگتا ہے

اور اسکی پیاس نہیں بجھتی۔ مَسْتَسْقِی

جلندھری بیماری والا۔ سَقَاءٌ پانی بھرنے والا

سَقَائَةٌ پانی پینے کا پیالہ۔ سِکَّةٌ ج اِسْکَاتٌ

سُرک۔ ڈھالا ہوا سُرک۔

سَكَبٌ یَسْكَبُ سَكْبًا۔

سَكَّتٌ یَسْكُتُ سَكُوتًا۔ خاموش ہونا۔ سَا

خاموش۔ سَكْتَةٌ وقفہ۔ سکتہ کی مرض جس میں حرکت

اور کلام روک جاتی ہے سَكِیْتُ چپ کر دینے والا

سَكْرٌ یَسْكُرُ وَ سَكْرًا۔ دریا یا ندی کا بند لگانا

سَكْرٌ بَلک سندھ کا نام اصل میں سَكْرٌ تھا جو



مسلمان فاتحیں نے رکھا اور جہاں پر پل اور بند  
باندھا گیا تھا جیسا کہ عربی تواریخ میں مذکور ہے  
سَكَوْ يَسْكُرُ سَكْرًا وَ سَكْرَانًا مدہوش  
ہونا۔ سَكْرٌ شکر بن جانا۔ سَكْرٌ شراب۔ نشہ  
سَكْرٌ بے ہوشی۔ سَكْرٌ غشی بے ہوشی۔ موت  
کی غشی۔ سَكْرٌ شکر۔ کھانڈ۔ سَكْرٌ بے ہوشی  
سَبِكْرَانٌ جو اُن خراسانی۔ سَكْرَجَةٌ رکابی۔  
طشتری۔

سَكَنَ يَسْكُنُ سَكُونًا ٹھہر جانا۔ حرکت نہ کرنا  
جزم والا ہونا (حرف) ساکن ٹھہرنے والا۔  
مَسْكُونَةٌ آباد۔ تَسْكِينٌ آرام پانا۔  
تَسْكِينَةٌ طمانیت۔ تَسْلَى وقار۔ سَكُونَةٌ ٹھہر  
جانا۔ مَسْكِينٌ مَسَاكِينٌ مکان۔ رہنکی جگہ۔  
مَسْكِفَةٌ غربت۔ ذلت۔ مَسْكِينٌ مَسَاكِينٌ  
غریب۔ کمزور۔  
سَلَّ يَسْلُ سَلًّا تلوار کھینچنا۔ سَلٌّ سَلٌّ وودق  
کی مرض میں مبتلا ہونا۔ مَسْلُوكٌ سَلٌّ کی مرض والا  
سَلًّا لَهٌ۔ ملاحظہ۔

سَلَبَ يَسْلُبُ سَلْبًا زبردستی چھین لینا۔  
لوٹنا۔ مَسْلُوبٌ چھینا ہوا۔ اَسْلُوبٌ جِ اسَا لِبٌ  
راستہ۔ طریقہ۔ کام کرنے کا ڈھنگ۔ طرز۔ سَلْمٌ  
ہتھیار پہنانا۔ سَلَاحٌ جِ اَسْلِحَةٌ ہتھیار  
مَسْلَمٌ ہتھیار بند۔ سَلْحَفَةٌ سَلْحَفَةٌ سَلْحَفَةٌ کچھو  
سَلْحٌ يَسْلُحُ سَلْحًا کھال اُتار ڈالنا۔ مَسْلَمٌ  
کھال اُتارنے کی جگہ۔ بوچڑ خانہ۔ مذبح۔ سَلْحٌ مینہ  
کا اختتام یا آخر

سَلَسٌ پیشاب ٹپکنا۔ بول نہ روک سکنے کی مرض۔ سَلِسٌ  
رواں۔ صاف۔ سَلَسِيْلٌ۔ بہشت کے ایک چشمہ کا نام  
سَلَسَةٌ جِ سَلَّ سَلٌّ۔ لوہے کی زنجیر سلسلہ  
مَسْلَسٌ۔ سلسلہ وار۔ لگانا۔ تَسْلَسُلٌ لگانا  
سَلَطَ يَسْلُطُ سُلْطَةً تیز ہونا۔ سَلَطَ  
عَلَى دوسرے پر حاکم بنا دینا۔ غلبہ دینا۔ مَسْلَطٌ  
غلبہ و اختیار والا۔ تَسْلَطٌ۔ غلبہ و حکومت۔  
سُلْطَةٌ اقتدار۔ سُلْطَنَةٌ حکومت۔ سلطنت  
سُلْطَانٌ جِ سَلَّ طِينٌ۔ حاکم۔ سلطان۔ بادشاہ  
سُلْطَانِيٌّ۔ شاہی۔ حکومت۔ سَلْعَةٌ۔ رسولی  
غدود۔ زخم جو جلد کو بھاڑ دے۔

سَلَفٌ يَسْلِفُ سَلْفًا گزر جانا پہلے ہونا۔  
مَسَالِفٌ۔ گزرا ہوا۔ پہلے سے ہوا ہوا۔ سَلْفٌ جِ  
اَسْلَافٌ پہلے لوگ۔ گزرنے والے۔ سَوَالِفٌ اَلْاَيَّامِ  
گذشتہ ایام۔ سَلْفٌ پیشگی۔ قرض حسنہ۔  
سَلَقٌ چقندر۔ سَلَاقٌ۔ پلوں کی سرخی دار  
پھنسیاں۔ پیوٹوں کی مرض۔ سَلِيْقَةٌ شائستگی  
فطرت۔ طبیعت۔ اِسْتَلَقِي جِت بِيْتَنَا۔

سَلَكَ يَسْلُكُ سَلَكًا راستہ پر چلنا سفر  
کرنا۔ سَالِكٌ راہ رُو۔ مَسْلَكٌ راستہ۔ طوق  
سَلَكٌ لُطِي۔ عِلْمُ السُّلُوِكِ علم تصوف۔  
سَلِمَ يَسْلَمُ سَلَامَةً وَ سَلَامًا نجات  
پانا۔ بری ہونا۔ اَسْلَمَ۔ تابع دار ہونا۔ اسلام لانا  
اِسْلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ کا مذہب۔ تَسْلِيْمٌ قبول کرنا  
مَسْلَمٌ قبول کیا ہوا۔ مَسْلَمٌ مسلمان۔ مَسْلَمَةٌ  
مسلمان عورت

سَلِمَةٌ - نازک عورت - سَلِيمٌ - توانا - تندرست  
 آسَلَمُ زیادہ محفوظ - سَلْمٌ صلح - بَيْعٌ سَلْمٌ  
 پیشگی قیمت پر خرید و فروخت - سَلَامٌ و سَلَامَةٌ  
 صلح - امن - حفاظت - اَسْبَلَمُ خنصر اور نصرت  
 درمیانی رگ -

سَلِيمَانٌ حضرت سلیمان علیہ السلام - سَلِيمَانِيٌّ  
 افغان - پٹھان - سَالِمٌ صحیح و سلامت -  
 اِسْتَلَمَ جھونا - پھوننا - سَلْمٌ سیرھی  
 دَارُ السَّلَامِ بہشت -

سَلَى تَسْلِيَةً تَسِيٌّ دینا - مُتَسَلِيٌّ اطمینان  
 یافتہ - تَسِيٌّ پایا ہوا -

سَمٌّ سَمٌّ سَمًّا زہر دینا - سَمٌّ سَمُومٌ  
 زہر - مَسْمُومٌ زہر دیا ہوا - سَمِيَّةٌ زہر کا اثر  
 سَمِيَّاتٌ زہریلی ادویہ - سَمُومٌ گرم ہوا -  
 تَسَمَّرٌ زہر کا اثر ظاہر ہونا - سَاهٌ اَبْرَصٌ  
 چھپکلی - چلیپا سہ - مَسَاهٌ جسم کا سوراخ - تَمَّتْ  
 راستہ - طریقہ - تَمَّتْ الرِّاسُ سر کے اوپر  
 کی طرف - آسمان کا وہ نقطہ جو انسان کے سر کے  
 مقابل ہوتا ہے - تَسَامَحٌ فروگذاشت - کسی  
 بندگان کی غلطی - درگذر کرنا - نرمی کرنا - ایک دوسرے  
 کو معاف کرنا - سَمَاخٌ کان کا سوراخ -

سَامِدَةٌ یہود کا ایک قبیلہ - سَامِرِيٌّ سامرہ  
 قبیلہ کا آدمی - سَمُوذٌ ایک بانور جس کی کھال  
 نہایت قیمتی ہے - مَسْمَارٌ مُرْدَةٌ پامال شدہ  
 سَمْسَلٌ دلال - سَمْسَرٌ تیل - گنبد -

سَمَطٌ لڑی - مالا - سَلَكٌ - مَسَمَطٌ شرکی  
 ایک قسم -

سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا و سَمَاعَةٌ سَمِنًا  
 کان لگانا - سَمِنَ لِينًا - سَمِيحٌ سننے والا - الشدپاک  
 کا صفاتی نام - سَمِعَةٌ دکھاوا - ریاکار سی -  
 سَامِعٌ سننے والا - سَامِعَةٌ سننے کی قوت - کان -  
 سَمْعًا و طَاعَةً - بسر و چشم میں سنتا ہوں - اور  
 ماننا ہوں - سَمَاعِيٌّ جس لفظ کی بنیاد زبان کے  
 استعمال اور سننے پر موقوف ہو - اور صرفی نحو  
 قانون کے ماتحت نہ ہو -

سَمَقِيٌّ - ایک قسم کا درخت جس کا پھل سخت  
 کڑوا ہوتا ہے گوند کی مانند ایک دوا - سَمَقٌ کاپیل  
 سَمَكٌ بِسَمَكٍ سَمَكًا بلند کرنا - سَمَكٌ  
 ج سَمَاكٌ مچھلی - سَمَكَةٌ ایک مچھلی - سَمَاكٌ مچھلی  
 نیچنے والا -

سَمِنٌ اِسْمِنٌ سَمِنًا موٹا ہونا - پر گوشت ہونا  
 تَمِنٌ تَسْمِينًا موٹا کرنا - گھی سے تیار کرنا -  
 مَسْمِنٌ موٹا کرنے والا - سَمِنٌ گھی - سَمِينٌ موٹا  
 سَمَجُورِيٌّ - آسمان گول - آسمان کے  
 یہ لفظ معرب ہے - سَمِنَةٌ گندہ لہذا جو  
 آتشکدہ میں ہوتا ہے -

سَمَا يَسْمُو سَمُوًا - بلند ہونا - اونچا ہونا -  
 سَمِيٌّ تَسْمِيَةً - نام رکھنا - نام سے بلانا - اِسْمٌ  
 ج اِسْمٌ نام - تَسْمِيٌّ نام پانا - مَسْمِيٌّ نام  
 رکھا ہوا - سَاعِيٌّ بلند - تَسْمُوٌ بلندی -

سَمَاءٌ ج سَمَوَاتٌ - آسمان - سَمَاوِیُّ آسمانی  
 سَنَقٌ وَ آسَنٌ سُنَّةٌ - قانون یا رسم رائج کرنا -  
 قانون بنانا - آسَنٌ بوڑھا ہونا - سُنَّةٌ ج سُنَنٌ  
 طریقہ - مَسْنُونٌ مَسْنُونَةٌ ہونست یعنی  
 طریقہ نبوی سے ثابت ہو - آهْلُ السُّنَّةِ اَئِمَّةٌ  
 مسلم کے طریقہ اور سنت پر عمل کرنے والے - نَسَنٌ  
 سنت نبوی پر عمل پیرا ہونا - سُنَّةٌ ج سُنَنٌ  
 مسنون نماز فرض کے علاوہ جس پر حضور علیہ السلام کا  
 عمل رہا - مَسْنُونٌ - بوڑھا - سِنٌ ج آسَنٌ دانت  
 سَنُونٌ نجن - ٹوٹھ پوڑ - بَدَنَانٌ نیزہ کا پھل -  
 سَعْدٌ ج سَعَوَاتٌ - سال برس - سَنَوِیُّ  
 منسوب بہ سن - سُنِیُّ - سُنِیُّ مسلمان - سُنْبُلٌ  
 ج سَنَابِلٌ - سُنْدٌ - بال خوشہ - سَا نَحْتَرُج  
 سَوَانِحٌ واقعہ - سِنَجَافٌ گھری -

سَعَدٌ یَسْعُدُ سَعُوْدًا وَ اسْتَعَدَّ اِلٰی  
 کسی پر بھروسہ کرنا - کسی کا سہارا لینا - اغْتَاذَ کرنا -  
 سَعَدٌ ج آسَنَادٌ - تخریری سند - سہارا - جَاہِنَاہ  
 مُسْتَعَدٌّ - قابل اعتبار - معتمد علیہ - سِنْدٌ دریا  
 سندھ - لک سندھ - سِنْدِیُّ سندھ کا باشندہ  
 اَسْنَادٌ ج آسَانِیْدٌ - علم مناظرہ میں حوالہ دینا -  
 خَبْرٌ کَا مَبْتَدَا رَی تَعْلُقٌ - سُنْدَانٌ ج سَنَادِیْنٌ  
 آہرن جس پر لوہا لڑوا کھتے ہیں -

مُسْنَدٌ ج مَسَانِدٌ - حدیث جس کی سند آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جائے - مَسْنَدٌ اَلْبَدِ  
 فاعل یا مبتدأ سِنْدٌ دُوس - ایک قسم کا گوند -

سُنْدُسٌ باریک ریشمی کپڑا - سِنْدُوْرٌ ج سِنْدَاوِیْرٌ  
 بلا گریبہ - سِنْمَاْمٌ - کولان - مَسْنَمٌ کولان کی شکل کا  
 مَحْدَبٌ - قبر کی شکل اونٹ کی کولان کی طرح بنائی  
 جاتی ہے -

سِنْمَاْرٌ - ایک مشہور معمار کا نام ہے -

سَنِیْ یَسْنِی سِنَاٌ - عالی شان ہونا - بلند  
 ہونا - سِنَاٌ بَلَدِی - اُبھار - شان - اَعْلٰی رُتَبٌ  
 سَنِیٌّ - شاندار - شریف - اِنْعَامٌ -

سَهْدٌ یَسْهَدُ سَهْدًا - بیدار رہنا - جاگتے  
 رہنا - سَهْدٌ وَ سُهَادٌ بے خوابی کی حالت -  
 سَهْرٌ یَسْهَرُ سَهْرًا - رات کو جاگتے رہنا -  
 بے خوابی کی مرض -

سَهْلٌ یَسْهَلُ سَهْوَلَةً - سہل و آسان ہونا  
 ہموار ہونا -

اِسْهَالٌ - جلاب - مَسْهَلٌ انترپیوں کو خالی کرنا -  
 مَسْهَلٌ جَلَابٌ آوڑوا - سَهْلٌ - آسان - نرم  
 ریت والا میدان - سَهْبَلٌ ایک خوبصورت  
 ستارہ ہے جس کی خاصیت سے زمین کے ملک میں  
 عمدہ چھڑا تیار ہوتا ہے یہ گرمی کے آخر میں طلوع  
 ہوتا ہے -

سَهْمٌ یَسْهَمُ سَهْمًا - قرعہ اندازی میں  
 غالب آنا - نَسَاهُمْ قرعہ اندازی کرنا - آپس میں  
 حصے کرنا - سَهْمٌ ج سَهَامٌ - تیر جوئے کا تیر -  
 نَصِیْبٌ حصہ - قِرْعٌ لاْطِیْ کاتکٹ -

سَهَا یَسْهَوُ سَهْوًا فِی وَعْنٍ غفلت کرنا -  
 بھول جانا -

انتظام کرنا۔ گھوڑا سدھانا۔ سائیس۔ سائیس  
گھوڑا سدھانے والا۔ سبباً سئہ۔ پائیکس۔  
اختیار۔ ٹلکی تذا بیر حکومت کے نام۔

سوسن۔ گل سوسن۔ سوطج آسواط  
کوڑا۔ چابک۔ ساعجہ ساعاف۔ گھنٹہ  
گھری۔ قیامت۔ سواع۔ ایک بت کا نام۔  
سوف۔ حرف ہے جو مضارع کو زمانہ استقبالی  
کے ساتھ خاص کر دیتا ہے جیسے سوف تری  
تو دیکھ لے گا۔ حرف س سے اس کا زمانہ لمبا  
ہوتا ہے۔

ساقی یسوقی یسوقی۔ لاکتا۔ جسدانا

سائق۔ پیچھے سے جانور کو چلانے والا۔

سوق۔ بیج آسواقی۔ بازار منڈی۔ پتلا

میلہ۔ سوقیتہ۔ بازاری پن۔ سوقی۔ بازاری

آدی۔ سوبوق۔ سئو۔ سواقی۔ توفرش۔

سواقک۔ ساقی و ساق۔ سوال۔ دان

سأل یسأل۔ سوال۔ سوال۔ پوچھنا۔ مالکنا

سبباً سبباً۔ جھوٹا جادو۔ غیر حقیقی جادو۔

سوی و ساوی۔ سبباً و سبباً۔

برابر کرنا۔ مساوی کرنا۔ سبباً

کرنا۔ اشتوی۔ سبباً۔ سبباً۔ سبباً۔

کمل ہونا۔ سواع۔ برابر برابر۔ سبباً۔ سبباً۔

ہمواری۔ یکسانی۔ مساوات۔ برابری۔ سبباً

برابر۔ مستوی۔ سبباً۔ سبباً۔ سبباً۔

ارض کا درمیانی خط

سایہ۔ غافل۔ بھول جانے والا۔

سَاءَ یَسُوءُ۔ سَوءٌ۔ بُرًا ہونا۔ سُوءٌ۔ بُرًا بُرًا

سَیِّئَةٌ۔ سَیِّئَاتٌ۔ بدی۔ گناہ۔ بُرًا بُرًا۔ خطا کاری

سَوءٌ۔ سَوءٌ۔ سَوءٌ۔ شرمگاہ۔ بے حیائی۔ لاش

بُری خصلت۔ مَسِئٌ۔ خطا کار۔ بدکار۔

سَاحَتٌ۔ سَاحَاتٌ۔ میدان۔ صحن۔ چوک۔

و سبباً جگہ۔ سَاحٌ۔ ساؤھو۔ تارک الدنیا۔

سَادٌ۔ یَسُودُ۔ سِبَادَةٌ۔ سردار یا امیر ہونا۔

شریف یا بزرگ ہونا۔ سَبَدٌ۔ سَادَةٌ۔ سردار

بزرگ۔ شریف۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

کی نسل کا آدمی۔

رِشْوَةٌ۔ یَسُودُ۔ رِشْوَةٌ۔ کالا ہونا۔ سیاہ ہونا۔

سَوْدٌ۔ کالا کرنا۔ سردار بنانا۔ سَوْدٌ۔ مالِجولیا

کی مرض۔ انسان کے جسم میں اخلاط اربعہ میں سے

ایک خلط کا نام۔ الرِشْوَةُ السَّوْدَةُ۔ کلونجی

سَوْدَانٌ (آسود کی جمع) حبشی بلاد السَّوْدَانِ

سوڈان۔ ملک حبشہ۔ آسود۔ کالا۔ سیاہ۔ سَوْدَةٌ

پہلی نقل۔ خراب عبارت۔ اُرو میں کسی تصنیف

کے مضامین کا مجموعہ۔ حَجْرٌ۔ آسود۔ کعبہ شریف

کا سیاہ پتھر۔ سَوْدٌ۔ آسود۔ دیوار۔ فصیل۔

سَوْدَةٌ۔ سَوْدٌ۔ قرآن کریم کی سورۃ۔ قرآن پاک

کا ایک حصہ۔ ایک ٹکڑا۔ سَوْدٌ۔ سَوْدٌ۔

ملک شام۔ سَوْدٌ۔ کنگن۔ سَوْدٌ۔ سَوْدٌ۔ ایک

مشہور دوا جو سہل بلغم اور دافع اوجاع بلغمی ہے

سَاسٌ۔ یَسُوسُ۔ سَبَابَةٌ۔ حکومت کرنا۔



شَبَّهَ بِشَيْءٍ تَشْبِيهًا بِ مِثَالِهِ كَرْنَا۔  
 ایک جیسا کرنا۔ تَشْبِيهٌ بِ۔ قنا۔ جلتا ہو کر مشابہت۔  
 ظاہر کرنا۔ تَشْبِيهٌ۔ مانند و شکل۔ مشابہ شخص یا  
 چیز۔ تَشْبِيهَةٌ ج شُبُهَاتٌ۔ شک۔ شبہ۔ کوئی  
 چیز جو صاف نہ ہو۔ جو شبہ پیدا کرے۔

تَشَابُهٌ ایک دوسرے کی مانند ہونا۔  
 مُشْتَبِهٌ مشکوک۔ پیچیدہ۔ مُتَشَابِهٌ ایک  
 دوسرے کی مانند ملتا جلتا۔ تَشْبِيهٌ۔ استعارہ  
 تشبیہ۔ مُشَابَهَةٌ۔ ایک جیسا ہونا۔ مُشْتَبِهٌ  
 تشبیہ دیا ہوا۔ مُشْتَبِهٌ یہ جس کے ساتھ تشبیہ  
 دی جائے۔ اِشْتِبَاكٌ شک واقع ہونا۔ شبہ پڑنا۔  
 شَتَّانٌ اسم فعل یعنی دور ہوا۔ شَتَّانٌ بَيْنَهُمَا

ان دونوں کے درمیان کس قدر بعد ہے  
 شَتَّجَ اَشْتَاتٌ علیحدہ شدہ۔ جدا جدا بکھرا  
 ہوا۔ تَشْتَتٌ۔ پراگندگی۔ متفرق ہونا۔ اَشْيَاءٌ  
 شَتَّى۔ مختلف چیزیں۔

شَتَمَ يَشْتِمُ شَتْمًا۔ گالی دینا۔ بُرًا بھلا کہنا  
 شَاتِرٌ۔ گالیاں دینے والا۔ شَجَرٌ اَشْجَلٌ  
 درخت۔ مُشَا جَرَةٌ کسی سے بھگڑ کر نا مُشَا جَرٌ

ایسا کپڑا جس پر درخت کی تصویر ہو۔ شَجَرَةٌ۔ شجر  
 شَجَعٌ يَشْجَعُ شَجَاعَةً۔ دلیر ہونا۔ بڑی  
 حرات والا ہونا۔ بہادر ہونا۔ شَجَاعٌ شَجَاعَاتٌ  
 دلیر۔ بہادر۔ حوصلہ مند۔ شَجِنٌ شَجِينٌ غم  
 اندوہ۔ افسوس۔ شَعْرٌ۔ رص۔ بخال۔ نحوسی۔

شَحَدٌ يَشْحَدُ شَحْدًا۔ چھری تیز کرنا۔

تَشْحِيذٌ کسی چیز کو تیز کرنا۔  
 شَحْمٌ يَشْحَمُ شَحْمَةً۔ موٹا چربی دار  
 شَحْمٌ ج شَحْوَمٌ چربی۔ شَحِيمٌ چربی والا  
 موٹا۔ تَشْحَمُ چربی پیدا ہو جانا۔ مُشْحَمٌ

جس پر چربی چڑھی ہو۔  
 شَحَقَاءٌ۔ بَغْضٌ۔ کینہ۔ شَحْنَةٌ کونوال۔  
 شَخْصٌ يَشْخُصُ شَخْوَصًا۔ بلند ہونا  
 شَخْصٌ ج اَشْخَاصٌ۔ وجود جو دور سے  
 دکھائی دے۔ شَخِصِيٌّ ذَاتِي۔ تَشْخِيصٌ  
 بیماری کی علامت یا پیمانہ۔ مُشْخِصٌ معلوم کیا  
 ہوا۔ پیمانہ اور۔ شَخِصِيَّةٌ ذات۔ مُشْرِطٌ

ایک۔  
 شَدَّ يَشْدُدُ شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔  
 شَدَّةٌ شِدَّةٌ شِدَّةٌ۔ شَدَّةٌ شِدَّةٌ شِدَّةٌ  
 شدت والا۔ شَدِيدٌ سخت مضبوط۔ شَدِيدٌ شَدِيدٌ  
 والا (مرد)۔ شَدَّةٌ شَدَّةٌ شَدَّةٌ شَدَّةٌ شَدَّةٌ  
 سخت کرنے والا۔ یا جاننے والا۔ اَشْدُّ الشَّيْءِ

سخت ترین۔

شَدَّ يَشْدُدُ شِدْدَةً۔ مضبوط ہونا۔ قوی ہونا۔

شَدَّةٌ شِدَّةٌ شِدَّةٌ۔ شَدَّةٌ شِدَّةٌ شِدَّةٌ

شدت والا۔ شَدِيدٌ سخت مضبوط۔ شَدِيدٌ شَدِيدٌ

شَدَّةٌ شِدَّةٌ شِدَّةٌ شَدَّةٌ شَدَّةٌ شَدَّةٌ شَدَّةٌ

شَرِبْتُ يَشْرَبُ شَرَبًا. پینا۔ میرا پینا ہونا  
شَرَابٌ پینے کی چیز۔ شراب۔ شَارِبٌ پینے والا  
مَشْرُوبٌ مَشْرُوبَاتٌ پینے کی چیز۔  
مَشْرَبٌ گھاٹ۔ میلان۔ شَرِبْتُ ایک بار پینا  
گھونٹ۔ پیٹھا پانی۔

شَرَحٌ يَشْرَحُ شَرْحًا. واضح کرنا۔ کھولنا  
وسیع کرنا۔ اِنْشَرَاخٌ کھل جانا۔ خوش ہونا۔ شَارِحٌ  
کھولنے والا۔ واضح کرنے والا۔ بھگانے والا۔ شَرَّاحٌ  
مَشْرَحٌ کھلا ہوا۔ نشریح کیا ہوا۔ شَرَّحٌ بیان  
یَسْرُ الشَّرْحِ یَسْرُحٌ۔ وہ علم جس میں بدن کے اعضا کی  
تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

شَرَدٌ يَشْرُدُ شَرْدًا. بھاگ جانا۔

شَوَارِدٌ الشَّوَارِدُ۔ خیر مالوں الفاظ یا فقرے۔  
تو اس کے مستثنیٰ الفاظ۔ شَبِيرَاتٌ وہی جس کا  
پانی نکالا دیا گیا ہو۔

شَرَطٌ يَشْرَطُ شَرْطًا. شرط رکھنا۔ لازم ٹھہرانا  
شَرْطٌ شَرْطٌ شَرْطٌ آشراطٌ علامت۔ شرط  
خود نامہ۔ مَشْرُوطٌ شرط کے ساتھ متقید۔ شرط  
کے ساتھ بندھا ہوا۔ شَرْطٌ بولیں۔ تَشْرُطُ لَمَطًا  
پارہینٹ۔ تَشْرُطُ طَرِيحٌ شرط والا متقید۔ تَشْرُطُ  
مردات۔ تَشْرُطُ حَيْثُ شَرْطِيَّةٌ۔

شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعًا. شرک پر ہونا۔ قانون  
نظام کرنا۔ تَشْرِيحٌ شَرْعٌ شَرْعٌ۔ شَرْعٌ۔ شرعی۔ ندبی  
قانون۔ تَشْرِيحٌ شَرْعٌ شرعی لانے والا۔ قانون بنانے والا  
مَشْرُوعٌ۔ باریز۔ شرعی جس کو شریعت نے جائز

قرار دیا ہو۔ تَشْرِيحٌ شَرْعٌ شرعی کا بیان کرنا۔  
تَشْرِيحٌ شَرْعٌ شرعی والی۔ شُرُوعٌ اِبتداء  
شَارِعٌ شَوَارِعٌ شاہراہ۔ شارع عام۔  
شَرُوفٌ يَشْرُفُ شَرَفًا وَشَرَفًا  
بڑے رتبے والا ہونا۔ شَرِيفٌ ہونا۔ شَرِيفٌ

شُرَفَاءٌ عَرَاتٌ وار۔ شَرِيفٌ۔ اعلیٰ خاندان والا  
شَرَفٌ بزرگی تَشْرِيفٌ تعظیم کرنا۔ مَشْرُوفٌ  
بلند کیا ہوا۔ بزرگی دیا ہوا۔ تَشْرُوفٌ بلند کیا جانا  
مختار کیا جانا۔ آشْرُوفٌ زیادہ شریف۔ زیادہ متعز  
شَرْقٌ يَشْرِقُ شَرْقًا. سورج کا چمکنا طلوع  
کرنا۔ اِشْرَاقٌ چمکنا۔ چڑھنا۔ شَرْقٌ سورج کے  
چڑھنے کا وقت۔ پورب جمع آشْرَاقٌ مَشْرِقٌ  
وہ بہت جہاں سے سورج چڑھتا ہے۔ مَشْرِاقٌ  
مَشْرِقٌ۔ مشرقی۔ آيَاتٌ تَشْرِيفٌ عید قربان  
کے بعد تین دن۔ تَشْرِيفٌ شَرْقِيٌّ۔

شَرِكٌ يَشْرِكُ شَرْكًَا. شَرِكَةٌ شَرْكََةٌ حصہ  
لینا۔ کسی چیز میں شامل ہونا۔ کسی کے ساتھ سا بھجا  
کرنا۔ شَرِيكَتٌ شَرْكَاءٌ سا بھجی۔ حصہ دار  
شریک۔

أَشْرَكَ يَشْرِكُ اِشْرَاكًا. خدا کے ساتھ  
کسی دوسرے انسان یا بت کو شریک ٹھہرانا۔  
مَشْرِكٌ مَشْرِكَةٌ۔ شَرِيكٌ بھرانے والا۔  
شَرِكَةٌ حصہ داری۔ مَشْرِكَةٌ باہم حصہ دار  
اِشْرَاكٌ آپس میں حصہ دار ہونا۔ مَشْرَاكَةٌ  
ایک دوسرے کے سا بھجی ہونا۔ شَرَاكٌ ہوتے کے

شَرَى يَشْرِي شَرَاءً وَاشْتَرَى يَشْتَرِي  
اِشْتَرَاءً خَرِيدًا بَيْعًا. مُشْتَرِي خَرِيدًا اِيك  
سَيَّارَه كَا بِي نَام هِي. شَرَى چھپاکی۔

شَرِيَانٌ وَ شَرَايِيْنٌ خُونِ وَالِي رِكِبِ جَهَنَّمَ  
شَطَطٌ وَرِيَا يَأْسَمِدُهُ كَا كِتَابُهُ۔

شَطْرَ يَشْطُرُ شَطْرًا وَ شَطْرَ۔ دُو بَرَابَرِ  
حَقْوِيں مِيں بَانْتَا شَطْرًا اَدْحَا نِصْفِ طَرَفِ۔  
كَلَاهُ پھلو۔ شَا طَرَجٌ شَطَّادٌ چالاک۔ بوشيار  
مكار۔ فَرِيِي۔

شَيْطَانٌ اِيك مَشْهُور كَيْسِل كَا نَام هِي۔

شَطْنٌ يَشْطُنُ شَطْنًا۔ دُور هُونَا۔ مَقَابِلُ كَرْنَا  
شَيْطَانَةٌ شَيْطَانِي يَادِ شَمْنِي كَا فَعْل۔ شَرَارَتِ  
شَيْطَانٌ وَ شَيْطَانِيْنٌ۔ شَرَارَتِي۔ دُھوكے بَا

شَيْطَانِ

شَعَّ يَشْعُمُ شَعَاعًا بِكَيْسِدِيْنَا۔ شَعَاعٌ ج  
اَشْعَعَةٌ۔ سُوْرَجِ يَارُوشِي كِي كَرْنِ۔ اَشْعَمُ سُوْرَجِ  
كَا كَرْنُوں كُو پھيلانا۔

شَعْبٌ يَشْعَبُ شَعْبًا اَلْكَا كَرْنَا۔ شَيْبٌ  
وَرَه۔ شَعْبٌ جِ شَعْوَبٌ جَمَاعَتِ جَبْتِ قَبِيْدِ۔

شُعْبَةٌ شَاخٌ هُنِي۔ شَعْبَانٌ قَمْرِي سَالِ كَا  
اَكْثُوں هِيْدِ۔ شُعَيْبٌ حَضْرَتِ شُعَيْبِ نَبِيِّ السَّلَامِ  
جُوْنِ اِنْعَالِي كِي اِيك بَرَكزِيْدِيْنِي تھے۔

شَعْبَدٌ كَرْتَبِ كَرْنَا۔ شَعْبِدُهُ وَكُهَانَا۔ مَشْمُودٌ  
مَدَارِي۔ كَرْتَبِ وَكُهَانِي وَالَا۔ اَشْعَثٌ بَكْرِي  
هوسے بالوں والَا۔ بَرَا كُنْدِه حَالِ۔

شَعَرَ يَشْعُرُ شَعْوَرًا۔ جَانْتَا مَحْسُوْسِ كَرْنَا  
مَعْلُوْمِ كَرْنَا۔

شَعَرَ يَشْعُرُ شَعْرًا۔ نَظْمِ كِهْنَا شَعْرُ كِهْنَا۔

شَعْرَجٌ اَشْعَادُ بَالِ۔ شَاعِرٌ جِ اَشْعَارُ شَاعِرِي  
نَظْمِ كِهْنِي وَالَا۔ شَعْوَدٌ زَبْرِي كِي۔ عِلْمِ۔ بِيْحَرِ۔ شَعْنَانٌ

جِسْمِ سِي اِكْنِي وَالَا اِكْبَرَا۔ خَاصِ طَرِيْقَةِ۔ خَاصِ عِلْمِ مَرْتَبَةِ۔  
شَعْبِرٌ جُو۔ شَعْرِي اِيك سَتَارَه كَا نَام۔

مُتَشَاعِرٌ۔ جَعَلِي شَاعِرٌ۔ شَعْرَانِي اللّٰهُ وَ  
جِيْزِيں جِن كِي دِي كُنْجِي سِي مَدَا تَعَالِي يَادِ اَبَا سَلَامِ۔

شَعْرَجٌ كِي رَسُوْمِ اَدَا كِي كِي اِيك۔

شَقَلٌ يَشْقَلُ شَقْلًا جَمْرًا اِيك۔

اَشْتَقَلُ يَشْتَقِلُ اَشْتِقَالًا اَشْتَقِي سِي

بَهْرَكِ اَشْتَقَا۔ اَشْتَقِي اَشْتَقِي اَشْتَقِي اَشْتَقِي اَشْتَقِي  
جِلِ اَشْتَقَا۔ اَشْتَقِي اَشْتَقِي اَشْتَقِي اَشْتَقِي اَشْتَقِي

اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ

اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ  
اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ

اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ

اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ  
اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ

اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ  
اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ

اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ

اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ  
اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ اَشْتَقِلُ



شَفَعَهُ يَشْفَعُ شَفَاعَةً لِفَلَانٍ سفارش کرنا  
شفاعت کرنا۔ حمایت کرنا۔ شَفِيعٌ وَشَافِعٌ  
سپارش کرنے والا۔ جمع شُفَعَاءُ شَفَعَةٌ  
پڑوس کی ملکیت خرید کرنے کا حق۔ مُشَفَعٌ جسکی  
سفارش مان لی جائے۔

شَفَّ يَشْفُ شُفُوًا پتلا ہونا۔ شَفَّافٌ  
پتلا اور صاف اور اس قدر باریک کہ اس سے  
دوسری طرف کی چیز نظر آئے۔

شَفِيقٌ يَشْفِقُ شَفَقًا وَآشْفَقَ عَلَى  
ترس کھانا۔ رحم کرنا۔ مِنْ شَفَقَةٍ مہربانی  
ڈر۔ رحم۔ فکر۔ اصلاح۔ شَفِيقٌ شام کی سُرخی۔

شَفِيقٌ مُشْفِقٌ رَحْمٌ کرتے والا۔ مہربانی کرنیوالا  
شَفَّهَ يَشْفَهُ شَفْهًا ہونٹ پر مارنا۔

شَفَّاهَةً وَشَفَّاهًا زبانی منہ در منہ۔ رُووَرٌ  
رُووَرٌ رُووَرٌ دیکھنے ہوئے حکم کے ذریعہ۔ آسنے  
سائے گفتگو۔

شَفَى يَشْفِي شِفَاءً مِنْ عِلَاجٍ کرنا۔ اچھا  
کروینا۔ تندرست کرنا۔ صحت مند کرنا۔ شَارِفِي  
صحت و تندرستی بخشنے والا۔ تَشْفِي صحت حاصل کرنا  
مَشْفِي شَفَاؤُهُ ہسپتال۔ دارالشفاء۔

شَقٌّ يَشُقُّ شَقًّا چیرنا۔ پھاڑنا۔  
مَشَقَّةٌ تکلیف و وہ کام۔ مشکل یا قابل برداشت  
کام۔ شَقَّقَ مِنْ أَيْ لَفْظٍ كَوَدُوسٍ لَفْظٍ  
سے نکالنا۔ مَشَقَّةٌ مَشَقَّاتٌ ایک  
لفظ سے نکلا ہوا دوسرا لفظ شَقِيقٌ سگابھائی

شَقَائِقُ النَّعْمَانِ كُلُّ لَالٍ شَقَّةٌ نَصْفُهَا  
رُقْمٌ شَقٌّ کنارہ۔ ایک حصہ۔ طرف۔ جانب۔  
شِقَائِقٌ شَمْنِيٌّ عداوت۔ جھگڑا۔ پھوٹ۔ شَقَائِقٌ  
تکلیف وہ۔ اِنْشِقَائِقٌ پھٹ جانا۔ شَقِيقَةٌ  
آدھا۔ سسی۔ نصف سر کا درد۔

شَقِيٌّ يَشْقِي شَقَاوَةً بِدَقْمَتٍ ہونا۔ مصیبت  
میں ہونا۔ بد بخت ہونا۔ تَشْقِيٌّ بد بخت۔ آ شَقِيٌّ

بہت زیادہ بد نصیب۔ بڑا بد بخت۔ جمع آشَقِيَاءٌ  
شَكٌّ يَشْكُ شَكًّا فِي شَيْءٍ کرنا۔ شبہ میں  
پڑنا۔ شَكٌّ شَكْوَةٌ شَبْهَانٌ مَشْكُوكٌ  
مشتبہ۔ شک والا۔ مَشْكِيَةٌ شک والی۔

تَشْكِيكٌ شبہ میں ڈالنا۔ شَكٌّ سم الغاف  
سکھیا جو سخت زہر ہے۔

شَكْرٌ يَشْكُرُ شُكْرًا لِمَنْ  
شکریہ ادا کرنا۔ تَشْكُرُ شکریہ ادا کرنا۔  
شَاكِرٌ شُكْرًا اِحسان ماننے والا۔ مَشْكُودٌ  
ممنون۔ بدلہ دیا ہوا۔ جس کا شکریہ ادا کیا جائے  
مَشْكُودٌ بہت شکر گزار۔ شُكْرَانٌ ایک  
زہریلی دوا ہے۔

شَكْلٌ يَشْكُلُ شَكْلًا وَشَكْلٌ وَآشَكَلٌ  
علی کسی بات کا شبہ والا ہونا۔ معادلہ کا شکی  
ہونا۔ شکل یا تصویر بنانا۔ تَشَكُّلٌ شکل اختیار  
کرنا۔ شَكْلٌ آ شَكَالٌ صورت۔ نقشہ۔ تصویر  
شکل۔ مُتَشَكِّلٌ شکل یا صورت اختیار کرنیوالا  
تَشْكِيْلٌ صورت بنانا۔ مُشْكِلَةٌ مَشْكِلَاتٌ  
مشکل اور سخت کام۔

مُشَا عِلَّةٌ مُشَابِهَةٌ -  
 شَكِي يَشْكُو شَكَايَةً إِلَى كَسِي كَيْ يَأْسُرِيَا  
 کرنا۔ شکایت کرنا۔ شکوای۔ شکایت۔ الزام  
 شَاكٍ وَ شَاكِي شَكْوَةٌ شَكْوَةٌ  
 شکایت کی وجہ مشکوۃ طاق جس میں چراغ رکھا  
 جائے۔ شَلَجَمٌ شَلَجَمٌ شَلَجَمٌ  
 قسم گندم۔

شَمَّةٌ كَيْشَمَةٌ شَمِيمًا - سَوَكْنَا - تَشَمَّمٌ  
 آہستہ آہستہ سونگھنا۔

شَلَّ يَشَلُّ شَلًّا - لَاتَهُ يَمِيرُ كَمَا مَارَ اجَانَا - نَاكَارَهُ  
 ہو جانا۔ مفلوج ہو جانا۔ شَمَامَاتٌ خُوشْبُويسِ مَفْرُودٌ  
 شَمَامَةٌ

اِسْتَشَمَمْتُ سَوَكْنَا بِاِسْتِشْمَامٍ - شَامَةٌ سَوَكْنَا  
 قوت یا جس۔ مَشْمُومٌ جِسْمٌ سَوَكْنَا جَائِئِ - خُوشْبُويسِ  
 کتوری۔ گلستہ۔

شَمَّتْ يَشْمَتُ شَمَامَةٌ دُوسَرَةٍ كَيْ  
 تکلیف پر خوش ہونا۔ تَشْمِيْمَةٌ جَمِيْعٌ يَشْمَتُ  
 كُوْدَاعِيْنَا - يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيَصِيْحُ بِاَكْثَرِكُمْ كَهِنًا -

شَمَخَ يَشْمَخُ شَمُوْحًا اَوْجَا هُوْنَا - شَاخٌ اَوْجَا  
 بلند۔ شَمْسٌ شَمُوْسٌ سُوْرَجٌ - اَنْتَابٌ

شَمْسِيَّةٌ چھتری۔ شَمْسٌ دُھوپ میں گرم کیا ہوا۔

شَمْعٌ شَمُوْعٌ مَوْمٌ بَنِي - مَوْمٌ - شَمَاعٌ - مَوْمٌ  
 بنی کا سوداگر۔ شَمَخْدَانٌ - شَمْعَانٌ -

شَمِلٌ يَشْمَلُ شَمُوْلًا - چادر میں پھینا۔

اِسْتَمَلَّ عَلَيَّ كَهِيْنَا - اِحَاطَهُ كَرْنَا - لَمَلَمَةٌ چھوٹی  
 بگڑی۔ (اُرُوْدُو پگڑی کا داہن)

مُشْتَمِلٌ حَاوِيٌ - شَامِلٌ جَامِعٌ - شِمَالٌ يَابِسٌ  
 طرف یا بایاں لائق۔ شَمَالِيٌّ - شِمَالٌ كَيْطَرَفٍ يَابِسٌ  
 شَمِيْلَةٌ شَمَائِلٌ - پیدائشی خصوصیات طبیعت  
 اچھی عادت۔ شَمُوْلِيَّةٌ شَامِلٌ هُوْنَا - اَنْدَرُ اَجَانَا  
 مل جانا۔ مَشْمُوْلَةٌ شَامِلٌ كَيْ هُوْنِي - شَمْمَدٌ مَشْمَدٌ  
 اَسْنَانٌ - سَمِيٌّ - كَهَارٌ

شَنْجٌ يَشْنَجُ شَنْجًا - جُھْرِيَا پُرْنَا - سَكْرَطَانَا  
 سمٹ جانا۔ (کھال کا)

تَشْنِجٌ - اِسْتَشْنَجٌ - اِعْضَاؤُ كَا سَكْرَتَا - مَشْنِجَةٌ  
 سکرٹا ہوا۔ اِسْتَشْنَجٌ ہوا (عضو)

شَنَعٌ يَشْنَعُ شَنَاعَةً بُرًا هُوْنَا - نَفْرَتٌ كَيْ  
 قابل ہونا۔ شَنِيعٌ بُرًا - قَابِلٌ نَفْرَتٌ - قَسِيْبٌ -

تَشَنِيعٌ بُرًا كَهِنًا - مَطْعُوْنَ كَرْنَا - قَابِلٌ نَفْرَتٌ قَرْنَا  
 دینا۔ گالی دینا۔ بے عزت کرنا۔ قَسِيْبٌ مَشْمَدٌ

شَهَبٌ يَشْهَبُ شَهَابًا كَيْ بَحُوْرَةٍ كَيْ  
 رنگ کا ہونا۔ اَشْهَبٌ سِيَاہِيٌّ مَالِكٌ سَفِيْدٌ كَيْ

بَحُوْرًا (كَهُوْرًا) اَشْهَابٌ كَيْ شَهَابٌ سَفِيْدٌ كَيْ  
 یا کرنے والا ستارہ۔ نہایت روشن ستارہ۔

سِتَارَةٌ - سَفِيْدٌ كَيْ اِسْتَشَارَةٌ

عَنْبَرٌ اَشْرَابٌ كَيْ

شَاهَتُوْرٌ كَيْ اِسْتَشَارَةٌ كَيْ

جس کا عرق بھی استعمال ہوتا ہے۔

شِهْدٌ يَشْهَدُ شَهَادَةً كَيْسِ مَشْهُوْرًا هُوْنَا

کبھی موجود ہونا۔ شَهَادَةٌ كَيْ كُوْبِي دِيْنَا -

مُشَاهَدَةٌ كَيْ مَشَاهِدَاتٌ مَعَانِيَةٌ كَرْنَا - كَيْ

شَهِيدٌ گواہی دینے والا۔ مشاہدہ کرنے والا۔  
 شَهِيدٌ شَهِدَ شَهِدًا گواہ۔ اللہ کی راہ میں قتل  
 ہونے والا۔ شَهِيدٌ روز قیامت۔ حاضر کیا ہوا  
 تَشْهَدُ کلمہ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ پڑھنا۔  
 شَهِدٌ غسل۔ شہر کا چھتہ۔ مَشْهَدٌ جمع ہونے  
 کی جگہ۔ شہید ہونے کا مقام۔ اِسْتَشْهَدُ گواہی طلب  
 کرنا۔ اِسْتِشْهَادٌ شہادت۔ حق کے لئے جان دینا  
 شَهِسَ يَشْهَرُ شَهِرًا اَوْ شَهْرًا مشہور کرنا  
 اِسْتَشْهَرُ مشہور کرنا۔ شائع کرنا۔ ظاہر کرنا۔ مشہور  
 ہونا۔ شَهِرٌ شَهِرٌ مہینہ۔ شَهِرَةٌ مشہوری  
 شَهِيرٌ مشہور۔ اَشْهَرُ بہت مشہور۔  
 شَهِيرَةٌ شَهِيرَةٌ ما ہوا تنخواہ۔ تَشْهِيْرٌ شہرت دینا  
 شَهِدٌ شائع کرنے والا۔ مَشْهَرٌ مشہور آدمی  
 شَهِيقَةٌ کالی کھانسی جس میں گدھے کی آواز  
 جیسی آواز نکلتی ہے۔  
 اَشْهَلُ شَهِلٌ جِسْمٌ جِسْمٌ جِسْمٌ جِسْمٌ جِسْمٌ جِسْمٌ  
 سرخی ہو۔ شَهِامَةٌ طاقت چستی۔ زیرکی۔  
 شَهِينٌ شَهِينٌ شَهِينٌ شَهِينٌ شَهِينٌ شَهِينٌ  
 شَهِى يَشْهُو شَهِوَةً بہت چاہنا۔ اَشْهَى  
 بہت پسندیدہ۔ اِسْتِشْهَاءٌ خواہش۔ دل چاہنا۔  
 شَهِوَةٌ شَهِوَاتٌ نفسانی خواہش۔  
 مَشْتَجِيٌّ بھوک لگانے والا۔ شَهِوَانِيٌّ بندہ  
 حرص و ہوا۔ زیادہ مجامعت کا حریص۔  
 شَؤْبَةٌ ایک بار کی ملاوٹ۔ شَائِبَةٌ ج  
 شَوَائِبٌ داغ۔ عیب۔ نقص۔

اَشَادَ يُشِيرُ اِشَادَةً کسی کی طرف انگلی سے  
 اشارہ کرنا۔ اَشَادَ عَلَيَّ۔ اَوْبٌ کسی بات کا  
 مشورہ دینا۔ مَشَاوَدَةٌ مشورہ کرنا۔ شُورِيٌّ  
 مشورہ۔ کانفرنس۔ کونسل۔ مَشِيْرٌ مشورہ دینے والا  
 اِشَادَةٌ اِشَادَاتٌ ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا۔  
 مَشَارٌ اِلَيْهِ جسکی طرف اشارہ کیا جاوے۔  
 مَشْتَشَادٌ جس سے مشورہ کیا جائے۔  
 اِسْتِشَادٌ مشورہ طلب کرنا۔  
 شَوْرَبَةٌ شوربا۔ شُرُوٌّ شُرُوٌّ پریشان کرنا  
 تَشْوِيْشٌ پریشان ہونا۔ مَشْوَشٌ پریشانی  
 میں ڈالا ہوا۔ شَايَا ہوا۔ شَوْصَةٌ ورم پہلو۔ ورم  
 شکم۔ ورم پہلو۔ پسلی کے ایک مرض کا نام۔  
 شَيْبَاتٌ آنکھ وغیرہ کے لئے دوائی کی بتی۔  
 شَافِعٌ اندر رکھنے کی پوٹلی۔  
 شَاقٌ يَشُوْقُ شَوْقًا کسی چیز کی لو لگانا۔  
 تَشْوُقٌ کسی چیز کی انتہائی خواہش ظاہر کرنا۔  
 تَشْوِيْقٌ کسی چیز کی رغبت اور شوق دلانا۔  
 مَشْتَقٌ رغبت اور خواہش رکھنے والا۔  
 شَوْقٌ جَ اَشْوَاقٌ وَاِشْتِيَاقٌ سخت خواہش  
 بڑی تمنا۔ شَائِقٌ شوق رکھنے والا۔  
 شَوْكٌ جَ اَشْوَالٌ کاشا۔ شَوْكَةٌ طاقت  
 و جنگ۔ شَوْكِرَانٌ ہموک کا پودہ۔ ایک زہر دار  
 پودہ۔ شَالٌ بڑی چادر جو کندھے پر رکھتے ہیں۔ شَالٌ  
 شَوَالٌ۔ دسواں قمری مہینہ۔ شَاكٌ بادشاہ۔ شاہ پو  
 بیتا سپاری۔ شَاكٌ جَ شَيْبَاكٌ بکری۔ مَشْوِيٌّ  
 بھونکا ہوا۔

# بَابُ الصَّادِ

صَوَّلَتْ - حملہ - و بار بار - شوکت -  
 صَبَتْ يَصُبُّ صَبًا - گرانا - انصباب  
 گرنا - (مادہ وغیرہ)  
 صَبَابَةٌ - سوزش - عشق - سخت محبت -  
 صَبَاءٌ يَصْبِئُ صَبِيئًا - مذہب تبدیل کرنا  
 صَابُونَ مذہب تبدیل کرنے والا - ستارہ پرست - بین  
 صَبَحَ يَصْبِحُ - صَبْحًا وَ صَبِيحًا صبح کے  
 وقت آنا یا حملہ کرنا -  
 صَبِيحٌ يَصْبِحُ - صَبَا حَتَّى رُوشِنٌ یا چکار  
 یا تو بصورت چہرہ والا ہوتا - توش رو ہوتا -  
 صَبِيحٌ خوش شکل آدمی - صَبِيحٌ صَبَا حِ  
 دن کا مشہور - صَبِيحٌ جو پیر کی کھائی جائے  
 صَبِيحٌ صَبِيحٌ کو پی جانے والی شراب -  
 صَبَا حَتَّى خُوبِصُورَتِي - راحت - مَصَابِيحُ  
 لمپ - چراغ مَصَابِيحُ  
 صَبِرَ يَصْبِرُ صَبْرًا عَلَيَّ - صَبْرًا  
 صبر کرنا - ضبط سے سہ لینا - صَبْرًا  
 صبر اپنے آپ پر قابو - صَبْرًا یا عقل کے مطابق  
 نفس پر قابو رکھنا - صَبِرْتُ - صبر کرنے والا -  
 صَبْرًا کو سہارنے والا - اصْطَبَا دُ برداشت کرنا  
 صبر اختیار کرنا - صَبْرًا بہت صبر کرنے والا -

شَاءَ يَشَاءُ شَيْئًا وَ مَشِيئَةً چاہنا - ارادہ  
 کرنا - مَا شَاءَ اللهُ يُوْعَدُ تعالیٰ چاہے یہ کلام  
 تعجب یا وعدہ کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اِنْ شَاءَ  
 اللهُ اگر اللہ پاک نے چاہا مستقبل کے لئے بطور  
 وعدہ - شَيْءٌ شَيْئًا شَيْئًا شَيْئًا شَيْئًا  
 مرضی - خواہش - آرزو - شَيْئًا شَيْئًا شَيْئًا شَيْئًا  
 شَبَابٌ يَشِيْبُ شَيْبًا - بوڑھا ہونا - سفید  
 بالوں والا ہونا - شَيْبٌ بُوْشٌ  
 شَاخٌ يَشِيخُ شَيْخُوْنَةً - بوڑھا ہونا -  
 شَيْخٌ شَيْخٌ شَيْخٌ شَيْخٌ شَيْخٌ شَيْخٌ  
 بڑی عمر کا ہونا - شَيْخٌ شَيْخٌ شَيْخٌ شَيْخٌ شَيْخٌ  
 آدمی - سردار - امام - اِسْتَاوَنَ -  
 شَاعَ يَشِيْعُ شَيْوَعًا - پھیلا یا جانا -  
 اَشَاعَ اَشِيْعٌ اَشَاعَةً - پھیلا یا شائع کرنا  
 شَيْعَةٌ - گروہ - جماعت - شیعوں کا گروہ -  
 تَشِيْعٌ شِيْعَةٌ شِيْعَةٌ شِيْعَةٌ شِيْعَةٌ شِيْعَةٌ  
 شیعہ مذہب اختیار کرنا - شِيْعِيٌّ شِيْعِيٌّ شِيْعِيٌّ شِيْعِيٌّ شِيْعِيٌّ شِيْعِيٌّ  
 شَائِعٌ پھیلا ہوا - مشہور - شَيْوَعٌ شَيْوَعٌ شَيْوَعٌ شَيْوَعٌ شَيْوَعٌ شَيْوَعٌ  
 شِيْعٌ - مشایعت کرنا - رخصت کرنا - مکان پر  
 پہنچانا - اوداع کرنا یا کہنا - شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ  
 خلق - عادت - طبیعت - شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ شِيْمَةٌ  
 شَائِيٌّ - پائے اَلشَّامُ ملک شام

صَدِيرٌ ایلوا جو کڑوے درخت کا لہس ہوتا ہے  
صَابِرَةٌ صبر کرنے والی۔ صَبَّارٌ صبر کا عادی  
صَبِيحٌ يَصْبِحُ صَبِيحًا کسی کی طرف انگلی  
کے اشارہ کرنا۔ اَصْبَحُ وَاَصْبَحُ بَاتِحًا یا  
پاؤں کی انگلی۔

صَبِيغٌ يَصْبِغُ صَبِيغًا رنگنا۔ صَبَّغٌ  
گہرا کپڑا رنگنا۔ صَبَّغٌ سَالِنٌ صَبَّاغٌ کپڑا رنگنے  
والا۔ صَبَاغَةٌ رَنگسازی۔ مَصْبِغَةٌ رَنگنے کا  
کارخانہ۔ وَبَغَةٌ رَنگ۔ نَدِيمٌ اَصْبِطْبَاغٌ  
پتسمہ۔ صَبِيْنٌ وَصَابِيْنٌ صَابُونٌ سے دھونا۔  
صَابُونٌ صابن۔ مَصْبِغَةٌ صَابُونٌ کا کارخانہ  
صَبَّانٌ وَصَابُونِيٌّ صابن فروخت کرنے والا  
صَبْوَةٌ بچپن۔ صَبِيٌّ بچہ لڑکا۔ صَبِيَّةٌ  
لڑکی۔ صَبِيَّانٌ لڑکے۔ صَبِيًّا پڑوا ہوا بھرتی  
ہوا۔ نَسِيمٌ صبا۔

صَحٌّ يَصِحُّ صِحَّةً وَصَحَّاحًا بیماری کے  
صحت پانا۔ تندرست یا اچھا ہونا۔

صَحَّحْتُ تَصْحِيْحًا کتاب کی غلطیوں کو صحیح اور درست  
کرنا۔ صَحِّحٌ صحیح۔ درست۔ صَحِيْكٌ فعل  
کا بلا حرف علت ہونا۔ مَصْحَرٌ صحت کرنے والا۔  
اصْحَاحٌ بائبل کا کوئی باب۔

صَحِيْبٌ يَصْحَبُ صَحِيْبَةً وَصَحَابَةٌ کسی

کے ساتھ رہنا۔ کسی کا ساتھی یا دوست بننا۔

صَحِيْبَةٌ دُوسْتَانَةٌ تَلْقَى سَاحَةَ مَعِيْتَةٍ بِسَاحَةِ

مُصَاحِبَةٌ کسی کے ہمراہ رہنا۔ صَاحِبٌ  
اَصْحَابٌ ساتھی۔ صَاحِبَةٌ بیوی۔ صَحَابِيٌّ  
جمع صَحَابِيَّةٌ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد  
مُصَاحِبٌ ملازم۔ بے تکلف ساتھی۔

صَحْرَاءٌ وَسِيْعٌ رِيْجَتَانِ صَحْرَائِيٌّ صحرا  
کا رہنے والا۔

صَحِيْفَةٌ صُحُفٌ وَصَحَائِفٌ کتاب کا  
لکھا ہوا صفحہ۔ ورق۔ تحریر۔ جلد۔ کتاب۔ صَحَافٌ  
کتاب فروش۔ تاجِرُ قُرْآنِ كَرِيْمٍ مُمَصِّحٌ جمع  
مَمَصِّحَاتٍ۔ کتاب۔ قرآن شریف  
صَحَافَةٌ اخبار نویسی۔ صَحْنُ الدَّارِ مکان  
کا صحن۔ آئینہ۔

صَحْنُكَ پلٹ۔ طباق۔ بڑا پیالہ۔

صَحْنٌ رِكَابِيٌّ طَشْتَرِيٌّ صَاحَةٌ آواز۔ شور  
قیامت۔ صَحْبٌ شور و غوغا۔ چلاہٹ۔

صَحْرَةٌ چٹان پتھر کی۔ صَدٌّ رُكْنٌ اِعْرَاضٌ  
کرنا۔ مَتَّصِدِيٌّ کسی کام میں مشغول یا مصروف  
ہونے یا لگنے والا۔ مہتمم۔

صَدْرٌ يَصْدُرُ صَدْرًا واقع ہونا  
و وقوع پذیر ہونا۔ سَرَزٌ وَهُوَ صَدْرٌ  
چھاتی۔ سینه۔ جائے عزت۔ صَدَاةٌ پَرِيْزِيْدِيٌّ  
وزارت۔ مَصْدَرٌ مَصَادِرٌ جائے صدور  
تیجہ۔ جڑ۔ منبع۔ كَارِدٌ وَصَادِدٌ پانی پر آئینہ والا  
اور گھاٹ سے واپس جانے والا۔

صَدْرٌ أَعْظَمٌ وَزَيْرٌ عَظِيمٌ - ذَاتُ الصَّدْرِ  
 نوینا۔ سینے کا درد۔ ذَاتُ الصَّدْرِ زید سینہ کی تہیں  
 یادوں کے راز۔ صَدْرِي سبب ڈھانکنے والا لباس  
 واسکت۔

مُصَادَرَةٌ وَبَيْلٌ كَالْبَيْتِ وَوَعْوَى هَوْنًا غَلَطَ لَيْلٌ كَالْمَطَالِبِ - صَدْرُ الْقَوْمِ سُرُورٌ - بَرِيذٌ يَدْمُغُ  
 صَدْعٌ يَصْدَعُ صَدْعًا يَجْرُدُ كَرَانًا  
 تَصْدَعُ يَصْدَعُ يَصْدَعُ صَدْعًا يَصْدَعُ سُرُورًا  
 تَصْدِيْعَةٌ سُرُورِيٌّ تَكْلِيفٌ - مَصْدُوحٌ وَرَدٌّ سُرُورًا  
 پیدا کرنے والا۔ صَدْعٌ جِ آصَدَاغٌ كَنِيْدِيٌّ  
 عَدْفٌ جِ آصَدَاغٌ سِيْبِيٌّ

صَدَفٌ يَصْدِفُ صَدْفًا - هَذَا بَحِيرٌ وَبِنَا  
 تَصَادَفَتْ آيِسٌ فِي لَمْنَا

صَدَقٌ يَصْدِقُ صِدْقًا - سَاجِدٌ يَسْجُدُ  
 صَدَقٌ تَصْدِيْقًا سَاجِدٌ يَسْجُدُ  
 صِدْقٌ سَاجِدٌ - صَدَقَةٌ سَاجِدٌ  
 بولنے والا۔ مَصْدُوقٌ سَاجِدٌ يَسْجُدُ  
 بہت سچا۔ مخلص دوست۔ صَدَقَةٌ صَدَقَاتٌ  
 خیرات۔ چندہ۔ مَصْدِقٌ تَصْدِيْقٌ  
 دینا۔ صدقہ دینا۔ قربان کرنا۔ مَصْدَقٌ تَصْدِيْقٌ  
 کرنے والا۔ ثابت کرنے والا۔ کسوٹی۔ کسی سزاقت  
 کا گواہ یا مصدر اور منظر۔ صِدْقَةٌ رَسْمٌ  
 عورت۔ جس کا مقام نبیوں کے قریب ہو۔

صَدَمَةٌ تَصْدِمُ صَدْمًا - هَذَا أَوْرُودٌ  
 پہنچانا۔ تَصَادُمٌ هَذَا أَوْرُودٌ  
 کھانا۔ مَتَصَادِمٌ هَذَا أَوْرُودٌ  
 صَدَمَةٌ شَرَاؤٌ - عَدَمٌ

تَصَدَّى لِي دَرِيْعًا هُوَ تَصَدَّى لِي كَامًا  
 کا بیچھا کرنے والا۔ اہتمام کرنے والا۔

أَصْرٌ عَلَى يَتِيمٍ ارَادَةٌ كَرَانًا - مَعِيْرَةٌ  
 ہٹ کرنے والا۔ صَدْرِيٌّ قَلَمٌ عِلْمٌ كِي آوَانٌ  
 پینے کی آواز۔ حُصْرٌ قَلَمٌ عِلْمٌ كِي آوَانٌ  
 کی نقیل۔

صَدْرٌ يَصْدُرُ صَدْرًا يَصْدُرُ صَدْرًا  
 ہونا۔ واضح ہونا۔ فالص ہونا۔ صَدْرٌ يَصْدُرُ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 کئی بات۔ تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ  
 صَدْرٌ يَصْدُرُ صَدْرًا يَصْدُرُ صَدْرًا  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ

تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ  
 تَصْدِيْقٌ صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ صَدَقَةٌ

صَرَفٌ يَصْرِفُ صَرْفًا - ہٹانا۔ واپس کرنا  
پھیر دینا۔ تَصْرِيفٌ خرچ کرنا۔ روپیہ تبدیل کرنا  
پھیرنا۔ تَصْرِيفٌ اپنی خواہش یا رائے کے مطابق  
فعل۔ آزادی عمل۔

صَرَفٌ وَ صَرَّافِيٌّ - صراف۔ روپیہ پیسہ کے  
تبادلہ کا کام کرنے والا۔ مَصْرَفٌ مَصْرَفٌ پھر  
کے بجگہ۔ خرچ کرنے کا مقام۔ مَتَصَرِّفٌ عمل کی آزادی  
رکھنے والا۔ گماشتہ۔ کسی قسم کا حاکم۔

مَصْرِفٌ جس لفظ کا آخر حرف تینوں حرکات کی  
صلاحیت رکھے۔

مَصْرُوفٌ مَصْرُوفٌ خرچ کیا ہوا۔ کام میں  
مشغول (ارو) صَرَفٌ علم صرف جس میں ایک  
کلمہ کو مختلف اشکال میں اداں بدل کر لایا جاتا ہے۔  
تَصْرِيفٌ۔ گردان۔ صرفی گردان۔

تَصْرِيفٌ وَ قِيَّتُهُ کام میں مشغولیت۔ اوہرا دھر پھرنے  
کا کام مَصْرَافَةٌ روپیہ کا تبادلہ۔ مَصْرُوفٌ۔ فالس  
غیر مخلوط۔ صَرَفٌ علم صرف بننے والا۔

صَاعِبٌ يَصْعَبُ صَعَابَةً صَعَبٌ صَعَبٌ  
کرنے یا سہنے میں مشکل ہونا۔ صَعَبٌ مشکل۔

مَصْعَبٌ زراعت۔ صَعْبٌ پودینہ۔ مَصْعَبٌ پودینہ  
صَعِدٌ يَصْعَدُ صَعُودًا وَ تَصْعَدُ وَ  
تَصَاعَدٌ چڑھنا۔ اوپر چڑھنا۔ صَعُودٌ چڑھائی  
تَصَاعُدٌ مَتَصَاعِدٌ اوپر چڑھنے والا۔

تَصْعَدُ اوپر چڑھنا۔ صَعِيدٌ غبار مٹی۔ بلبہ۔ مھر

لہ صَادٌ کا ٹھنڈے والی تنوار۔ اَصْرَامٌ اہتمام کرنا۔ گٹ جانا۔ مَتَصَرِّمٌ اہتمام کرنے والا۔

مَصْرَكٌ ایک علاقہ۔ زمین کی سطح۔ صَاعِقَةٌ رگڑ  
سخت آواز۔ صُعْلُوكٌ غریب جمع صَعَالِيكٌ  
صَعُوذٌ مولا۔ بیا۔

صَغُرٌ يَصْغُرُ صِغْرًا چھوٹا ہونا۔

صَغِيرٌ چھوٹا۔ آصْغُرٌ بہت چھوٹا۔  
صُغْرِيٌّ چھوٹی عورت۔ صَغَارٌ ذلت  
تَضْيِيزٌ چھوٹا بنانا۔ الصُّغْرِيٌّ قیاس  
منطقی کا پہلا تفسیر۔ اصْغَاءٌ توجہ۔ کان دھرتا  
صَفَّحٌ صَفُوفٌ سیدھی قطار۔

مَصَافٌ لڑائی کا میدان۔ جھاؤنی۔ صف باندھنے

کی۔ مَصَافِحٌ مَصَافِحَةٌ ہاتھ ملانا۔ مَصَافِحٌ کرنا۔  
صَفْحَةٌ صَفْحَاتٌ کتاب کا صفحہ۔ مَصْنَعٌ  
کا حلقہ۔ پہلو۔ صِغْرٌ عالی۔ صِغْرَةٌ زردی  
اصْفَرٌ زرد رنگ والا۔ صَفْرَاءٌ ایک فلفل کا نام  
جس کا رنگ زرد اور مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔  
صَفِيرٌ سیٹی۔

صِفَافِيٌّ باریک چھڑا جو اس چھڑا کے نیچے ہوتا ہے  
جس پر بال اُگتے ہیں۔ آنتوں کے اوپر کی جھلی۔  
صَفْنٌ خصیہ کی جھلی۔ صَافِنٌ ایک رگ  
کا نام ہے جو ٹخنہ پر ہوتی ہے۔

صَفَا يَصْفُو صَفَاءً صَفَاً

ہونا۔ تَصْفِيَةٌ پاک و صاف کرنا۔ چھاننا۔  
اصْطِفَاءٌ انتخاب کرنا۔ چُن بِنَا۔ مَصْفِيٌّ  
صاف شدہ۔ مَصْفِيٌّ صاف کرنے والا۔

الصَّفَا کوہ صفا۔ جو مکہ شریف میں ہے اور چال  
سے مروہ تک حج میں حاجی سعی کرتے ہیں۔  
صَفِيٌّ برگزیدہ۔ خالص۔ پاک۔ ح. أَصْفِيَاءُ۔  
مُصْطَفَىٰ منتخب۔ پسندیدہ۔ صَفْوَةٌ ہر چیز  
کا خالص اور عمدہ حصہ۔ صَفْرٌ شکر۔  
صَقْلٌ يَصْقُلُ صَقْلًا وَصَقْلًا پاش  
کرنا۔ چمک پیدا کرنا۔ صَقَالٌ وَصَيْقُلٌ پاش  
کرنے والا۔ صَيْقِلٌ کرنے والا۔ صِقْلِيَّةٌ جزیرہ سیسی۔  
صَلَبٌ يَصْلِبُ صَلْبًا وَصَلَبٌ سولی پر  
چڑھا کر مار دینا۔ صَلَبٌ يَصْلِبُ صَلَابَةً  
سخت ہونا۔ مضبوط ہونا۔ صَلْبٌ وَتَصْلِيْبٌ  
سولی دینا۔ سولی پر چڑھا کر مار دینا۔ صَلْبٌ ح.  
أَسْلَابٌ ریڑھ کی ہڈی یا مخصوص پیٹ کا منہ  
صَلِيْبٌ ح. صَلْبَانٌ سولی۔ صَلِيْبِيٌّ صلیبی  
لڑائی لڑنے والا۔  
مَصْلُوبٌ صلیب دیا ہوا۔ صَوْلَجَانٌ پولو  
کھیلنے کا ڈنڈا۔ چوگان۔ ہالی۔  
صَلَمٌ يَصْلِمُ صَلَامًا وَصَلَامَةً دُرَّت  
ہونا۔ ٹھیک ہونا۔ نیک ہونا۔ صَالِحٌ مَصَالِحٌ  
کسی نے صلح کر لینا۔ یا راضی ہو جانا۔ أَهْلٌ بَيْنَهُمْ  
کسی کے درمیان صلح کر دینا۔ اِصْطَلَحَ عَلَيَّ  
بات پر مجھوتہ کر لینا۔ صَالِحٌ صَلَاحٌ راضی نامرغوب  
صَالِحٌ نیک۔ مناسب۔ صَالِحَةٌ نیک عورت  
نیکی جمع صَالِحَاتٌ۔ صَالِحٌ اچھائی۔ نیکی۔

راستبازی۔ اچھی حالت۔  
صَلَا حِيَّةٌ۔ اہلیت۔ نیک ہونا۔ درست ہونا  
اِصْطَلَحَ کسی قوم کا کسی لفظ کے خاص معنی پر  
اتفاق کرنا۔ جو اصل معنی کے علاوہ ہو۔ جمع  
اِصْطَلَا حَاتٌ۔  
صَلَاةٌ صَالِحِينَ وَصَالِحَاتٍ نیک لوگ  
مُصَالِحَةٌ۔ میل ملاپ۔ صلح کرنا۔ صَفَاةٌ  
مُصْلِحٌ اصلاح کرنے والا۔ مَصْلِحَةٌ ح.  
مَصَالِحٌ کوئی بات یا معاملہ جس میں جہالت ہو  
فائدہ۔ غرض۔ بہتری۔ خوبی۔ مَصْلِحَةٌ صَالِحٌ کافی حصہ  
صَلَعَةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُحَقِّقِينَ وَالْمُتَقَرِّبِينَ  
صَلَى يُصَلِّي صَلَاةً وَصَلَاةً ناز  
پڑھنا۔ دعا کرنا۔ عبادت کرنا۔ صَلَاةٌ وَرُؤُوسُ  
ح. صَلَوَاتٌ۔ ناز۔ دعا۔ عبادت۔ صَلَوَاتِي  
نازی۔ مُصَلَّى جاکے ناز۔  
تَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔  
مَتَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔  
صَلَى يُصَلِّي صَلَاةً وَصَلَاةً ناز  
تَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔  
مَتَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔  
صَلَى يُصَلِّي صَلَاةً وَصَلَاةً ناز  
تَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔  
مَتَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔  
صَلَى يُصَلِّي صَلَاةً وَصَلَاةً ناز  
تَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔  
مَتَصَلَّفْتُ اِفْتِزْتُ۔ تمہیں مارا۔



تَصْنِيفٌ ج تَصَانِيفٌ تَصْنِيفَاتٌ كِتَابٌ  
مُصَنَّفٌ كِتَابٌ بِنَانٍ وَالْا- مُصَنَّفَةٌ ج  
مُصَنَّفَاتٌ كِتَابٌ بِنَانٍ هُوَتْی۔

صِنْفٌ ج اَصْنَافٌ قِسْمٌ جِنْسٌ۔  
اَصْنَافٌ مُصَنَّفَةٌ الْا بِا قَاعِدَةٌ مَرْتَبٌ  
كِي هُوَتْی قِسْمٌ۔ صِنْفٌ ج اَصْنَافٌ مَرْتَبٌ  
صِنْفٌ۔ اِسْمٌ فِعْلٌ هُوَ چپ رہو۔ صِلْبَانٌ شَرَابٌ  
صِهْرٌ ج اَصْهَارٌ شَادِي رَشْتِے كَانَاط۔  
وَا مَاد۔ بِنُوْتی۔ سَالَا وَغَبْرہ۔

صِهْرٌ ج اَصْهَارٌ شَادِي رَشْتِے كَانَاط۔  
وَا مَاد۔ بِنُوْتی۔ سَالَا وَغَبْرہ۔  
صِهْرٌ ج اَصْهَارٌ شَادِي رَشْتِے كَانَاط۔  
وَا مَاد۔ بِنُوْتی۔ سَالَا وَغَبْرہ۔

اَصْحَابٌ يَصِيبُ اِصَابَةً دَرَسْتُ كَرْنَا  
يَا دَرَسْتُ پَانَا۔ حَاصِلٌ كَرْنَا۔ صَوَّبٌ تَصْوِيبًا  
تَصْدِيقٌ كَرْنَا۔ اِسْتَصَوَّبٌ اِسْتِصْوَابًا دَرَسْتُ  
پَانَا۔ تَحْكِيكٌ خِيَالٌ كَرْنَا۔ صَوَابٌ دَرَسْتُ تَحْكِيكٌ  
اِصَابَةً رَأَى كَا دَرَسْتُ هُوْنَا۔

مُصِيبَةٌ ج مَصَائِبٌ بَلَاءٌ مَصِيبَةٌ  
صَدٌّ نَاكِهَانِي۔ آفَتٌ۔ مَصَابٌ بَلَاءٌ رَسِيدٌ اَدْمِي  
صَائِبٌ تَحْكِيكٌ۔ تَصْوِيبٌ تَصْدِيقٌ۔ دَرَسْتُ  
پَانَا۔ سَبِيحٌ اَكْرَانَا۔ صَوْبٌ طَرْزٌ رَاسْتٌ مِيلَان  
سَمْتٌ۔ صَوْتٌ ج اَصْوَاتٌ اَوَازٌ صِبْتٌ  
نِيكٌ نَامِي۔ شَهْرَتٌ۔ نَامُوِي۔

صَوْدٌ يَصْوُدُ تَصْوِيرًا شَكْلٌ بِنَانٌ تَصْوِيرًا  
كَيْفِيًا

لہ ریفرنڈم کرنا

اَصْمٌ جِمْعٌ صَمٌّ بَهْرہ۔  
صَمَّتْ يَصْمِتُ صَمُوتًا فَا مَوْشٌ هُوْنَا۔  
صَامِتٌ فَا مَوْشٌ۔ هَمٌّ وَالْا۔ يَهْجَانٌ۔ صَوَاخٌ  
كَانٌ كَا سَوَاخٌ۔

صَمٌّ جِمْعٌ بِي نِيَازٍ۔ هَمِيْشَہٗ هَمِيْشٌ رَهْنِے وَالْا۔ اَزَلِي  
اَبَدِي خَدَا۔ صَمِدِيَّةٌ بِي نِيَازِي۔

صَمَمٌ يَصْمَمُ يَتَغَبَّرَانٌ جِسٌّ كِي دَحَارٌ نَهْ مَرِيءٌ  
صَوْمَعَةٌ جِمْعٌ صَوَا مِعٌ كَرَجَا۔ كَنِيْسَہٗ۔  
صَمْعٌ كَوْنًا لَقَمْعٌ اَلْعَرَبِيَّةُ۔ كَيْكِرٌ كَا كَوْنٌ  
صِنْدِيَّةٌ جِمْعٌ صِنَادِيَّةٌ۔ بَطْرٌ سَمْرَوَارٌ۔

صُنْدُوْنِيٌّ جِمْعٌ صِنَادِيْقٌ جِسٌّ۔ صُنْدَلٌ  
چِنْدَنٌ كِي لَكْرَهِي۔ صُنْدَلَانِيٌّ۔ دَوَا سَازٌ۔

صَنَعٌ يَصْنَعُ صِنْعًا پِيْدَا كَرْنَا۔ بِنَانَا۔  
صَنِيعَةٌ۔ كَارِيْغِي۔ اِحْسَانٌ۔ فَا نَدَہٗ۔ كَامٌ۔  
صِنْعٌ عَمَلٌ۔ صِنَاعَةٌ هَنْرٌ۔ پِيْشَہٗ۔ كَارِيْغِي۔  
صَانِعٌ كَارِيْغِي۔ مَصْنُوْعٌ۔ مَتٌ۔ مَصْنُوْعَةٌ  
بِنَاوْتِي۔ بِنَا هُوَا۔ صِنَاعٌ كَارِيْغِي۔ مَتٌ۔ كَامٌ كَرِيْوَا  
صِنْعَةٌ كَارِيْغِي۔ دَسْتَكَارِي۔ كَامٌ۔ هَنْرٌ۔ پِيْشَہٗ۔

صِنَاعَةٌ جِمْعٌ صِنَائِعٌ هَنْرٌ۔ كَامٌ۔ پِيْشَہٗ۔  
صِنَاعِيٌّ بِنَاوْتِي۔ تَصْنَعٌ بِنَاوْتُ۔ مَصْنُوْعِيٌّ  
بِنَاوْتِي۔ قَدْرَتِي كِي مَقَابِلَہٗ مِيں۔ مَصْنَعٌ كَارِخَانَةٌ  
جِمْعٌ مَصَانِعٌ۔

صَنَّفَ يَصْنِفُ تَصْنِيفًا۔ كِتَابٌ بِنَانَا  
كُوْنِي قَصَدٌ كَطْرَانَا۔ عَلِيْدَہٗ كَرْنَا۔

صَوْرَةٌ كَأَنَّ صَوْرَةً شَكْلٌ - حلیہ - صفت -  
 تَصَوُّيرٌ كَأَنَّ تَصَوُّيرٌ شَكْلٌ - فوٹو - تصویر -  
 اسیچو - بت - تمثال - مَصَوِّرٌ تَصَوُّيرٌ کھینچنے والا  
 صَوْرَةٌ - بگل - نرسنگا - بینگ جس کو بجایا جاتا ہے  
 صَاعٌ يَصْوَعُ صَوْعًا پیمانہ سے ماپنا -  
 صَاعٌ آصَوَاعٌ ایک پیمانہ کا نام ہے جو دو  
 سیر چودہ چھٹانک چار تولہ ہوتا ہے -

صَاعٌ يَصْوَعُ صَوْعًا ڈھالنا شکل بنانا - ایک  
 لفظ سے خاص وزن پر لفظ بنانا -

صَيِّغَةٌ صَيِّغٌ شَكْلٌ - ڈھانچہ - صیغہ -  
 صَيَّاغَةٌ زَرَّغِيٌّ - صَائِعٌ سُنَّارٌ - زرگر -  
 صَوْفٌ آصَوَافٌ اُونٌ - پشم - صَوَافٌ  
 اُونٌ فَرُوشٌ - صَوْفِيٌّ صَوْفِيَاءٌ - مُرْتَضٌ  
 عَابِدٌ - زاہد - نفس کشی کرنیوالا - اہل اللہ تصوف  
 خدا تعالیٰ کے وصال کا طریقہ - صوفی بنا -  
 مُتَصَوِّفٌ - صوفی - بناوٹی صوفی - کیونکہ صوفی  
 لوگ عام طور پر صوف یعنی اُون کا لباس پہنا کرتے  
 تھے اس لئے صوفی کہلائے -

صَالٌ يَصُولُ صَوْلَةً عَمَلِيٌّ كَأَنَّ  
 صَوْلَةً - حملہ - قوت - طاقت - ثلثہ - سطوت -

صَامٌ يَصُومُ صَوْمًا صِيَامًا - روزہ  
 رکھنا - صَوْمٌ صِيَامٌ - روزہ - صَائِمٌ - روزہ  
 صَوْمَعَةٌ صَوَامِعٌ - راہب کی جھونپڑی  
 گریا - راہب کے رہنے کی جگہ -

صَانَ يَصُونُ - صِيَانَةٌ بچانا - حفاظت  
 کرنا - مَصْنُوتٌ محفوظ - بچا ہوا -  
 صَاحٌ يَصِيحُ صَيْحَةً بِيحْنًا بِلَانًا صَيْحَةٌ  
 بیچ - نعرہ - صَيَّاحٌ شور مچانے والا -  
 صَادٌ يَصِيدُ صَيْدًا اِرْطَاطٌ - شکار کرنا  
 صَيْدٌ شَكَارٌ - صَيَّادٌ شَكَارِيٌّ -  
 صَيْدَاءٌ عِلَاقَةُ شَامٍ فِي بَحْرِ رُومٍ كَأَنَّ  
 پراکھ قدیم شہر ہے -

صَيْدَلِيٌّ - دوائی فروش - پنیاری -  
 صَارَ يَصِيرُ صَيْرَةً وَصَيْرًا  
 ایک حالت سے دوسری حالت میں ہو جانا -  
 صَيَّرَ يَصِّرُ صَيْرًا  
 بدل دینا - مَصِيرٌ ٹھکانا -  
 صَيْفٌ آصِيْفٌ مَوْسِمٌ كَأَنَّ  
 موسم گرما گذارنے کی جگہ - صَيْفٌ چین کا لک  
 صِيْفِيٌّ مَسُوْبٌ بِمِثْلِ جِيْبِيٍّ -  
 صِيْنِيَّةٌ - چینی برتن -

## بَابُ الْمَكْرَمَاتِ

ضَانٌ يَضُونُ ضَوْنًا ضَوْنٌ

ضَمْبٌ - گوہ - مَسْمَارٌ -

ضَبَطَ يَضْبِطُ ضَبْطًا ضَبْطٌ كَأَنَّ  
 لینا - ضَبْطٌ صِحَّةٌ - دیکھو - دیکھو - نظام  
 مضبوطی -

ضَابِطٌ وَضَابِطَةٌ ضَوَابِطٌ قاعدہ۔  
قانون۔ آئین۔ حفاظت۔ مضبوط اچھی طرح  
یا قاعدہ۔ درست کیا ہوا۔ ٹھیک ٹھیک۔ پکا۔  
إِنْضَابًا قَابِوِينَ لَنَا مَضْبُوطًا هُونًا مَنضَبًا  
ضبط میں لایا ہوا۔

مَضْبَعٌ مَضَاعٌ جمع۔ سونے کی جگہ بستر بنی  
ضَوَاكٌ يَضَعُكَ ضَعَاكٌ ہنسنا۔

ضَاعِكٌ ہنسے والا۔ مَضْحُوكَةٌ محول کھیل  
ہنسی پیدا کرنے والی چیز تَضْحِيكٌ کسی پر ہنسنا۔  
مَضْحِكٌ ہنسانے والا۔ مَضْطُوعٌ ہنسوتہ۔

سُحِّيَ پاشت کا وقت۔ جس میں سورج بہت  
چڑھ آیا ہو۔ پھرون چڑھنے کا وقت۔

صَلَاةُ الصُّحِيِّ پاشت کی نماز صُحِيَّةٌ ج  
صَحَابًا وَصُحِيَّةٌ وَاصْرَاحِيٌّ قِرْبَانِيٌّ قِرْبَانِيٌّ  
کی بھیڑ بکری۔ يَوْمُ الصُّحِيِّ قِرْبَانِيٌّ کا دن۔  
عید الاضحیٰ کا روز۔

صَخْمٌ يَضْحَمُ صَخَامَةٌ موطا ہونا۔  
صَخَامَةٌ موطائی۔ حَمٌّ صَخِيمٌ موطائی کے حمو  
جِنْدَجٌ اَضْدَادٌ مَخَالِفٌ شَمْنٌ اَضْدَادٌ وَه  
لفظ جن کے متضاد معنی ہوں۔ هَتَّةٌ ضَادٌّ مَخَالِفٌ  
ایک دوسرے سے متضاد۔

ضِدِّيٌّ متضاد کرنے والا۔ تَضَادٌّ ایک دوسرے  
کی مخالفت کرنا یا ایک دوسرے سے متضاد ہونا۔  
عَمْرٌ يَنْضَرُّ عَمْرًا نَقْصَانٌ دِينًا تَكْلِيفٌ دِينًا

ضَرْجٌ ضَرْدٌ وَاصْرَارٌ نَقْصَانٌ سَخْتِيٌّ حَالِيٌّ  
ضَرْدٌ وَضَرْدٌ لَاجٌ مَضْرَابٌ وَهَضَادٌ  
نقصان۔ ضَرُورٌ وَضَرُورِيٌّ جس پر انسان  
کو مجبور کیا جائے۔ ضروری۔ لا بُدِيٌّ۔ ضَرِيْبٌ انڈھا  
نا بینا۔ ضَرُورَةٌ حاجت۔ احتیاج۔

اَضْطَرَّادٌ مجبور کرنا۔ مَضْطَرٌّ مجبور کیا ہوا  
لاچار کیا ہوا۔ ضَرَّاعٌ جِجٌ اَضْرٌ سَخْتِيٌّ تَنَّا حَالِيٌّ  
تنگی۔

ضَرِبٌ يَضْرِبُ ضَرْبًا مارنا۔ مثال  
بیان کرنا۔ ضَارِبٌ مارنے والا۔ مَضْرُوبٌ  
جسے مارا جائے۔ ضَرْبٌ وَضَرْبَةٌ ج  
ضَرْبَاتٌ چوٹ۔ دَاذُ الضَّرْبِ ٹکسال  
مَضْرَابٌ زخمہ۔ تَارٌ جِجٌ نِگْلِيٌّ مِیْنٌ مِیْنٌ مِیْنٌ  
بجاتے ہیں۔ اَضْطَرَّابٌ بے گل ہو جانا۔

مَضْطَرِبٌ بے گل ہونے والا۔ گِمْزٌ مِیْنٌ وَه  
ضَرْسٌ جِجٌ اَضْرَاسٌ وَه۔ وَاثْمٌ وَانْتٌ۔  
ضَرَاطٌ پاؤ۔

ضَرْعٌ يَضْرَعُ ضَرَاعَةٌ اپنے آپ کو کسی  
کے سامنے ذلیل کرنا۔ تَضْرَعُ التَّجَارِكُنَا۔ عَابِرِيٌّ  
سے مانگنا۔ انکساری کرنا۔ ضَرْعٌ جِجٌ ضَرْعٌ مِیْنٌ  
مَضْرِعٌ فعل کا وہ صیغہ جس میں حال او۔  
مستقبل دونوں زمانے پائے جاویں۔ علم  
عروض کے ایک بھر کا نام۔

مَنْضَرٌ عَمْرٌ اَللّٰهُ تَعَالٰی سے عاجزی سے دعا کرنے والا۔

ضَرْعًا - شیر - بہادر - مضبوط -  
 ضَرِمَ يَضْرِمُ ضَرْمًا وَاضْطَرَمَ وَتَضَّرَ  
 جلنا یا بھڑکنا (آگ) مُضْطَرِمٌ بھڑکنے یا جلنے والا  
 ضَعْفٌ يَضْعَفُ ضُعْفًا - کمزور - ضعیف  
 یا ناتواں ہونا - ضَعْفٌ وَاضْعَفٌ وَتَضَاعَفَ  
 دوگنا کرنا کسی چیز کو دوگنا بنانا - تَضَاعَفَ دُوہرانا  
 دوہرا ہونا - دوگنا یا کئی گنا ہونا - يَضْعَفُ ج  
 اَضْعَافٌ دوگنا دوچند - ضُعْفٌ کمزوری -  
 ضَعِيفٌ کمزور - جمع ضُعَفَاءٌ - مُضْعِفٌ  
 کمزور کرنے والا - دوگنا کرنے والا - اَضْعَفُ  
 بہت کمزور - ضَعِيفَةٌ کمزور عورت -  
 ضَغْطَةٌ - ایک دفعہ بھینچنا یا چوڑنا -  
 تنگی - قہر - دباؤ - اضطرار -

ضَيْغَمٌ شیر

صَفْدَعٌ ج صَفَادِعٌ مینڈک

ضِغْنٌ - کینہ

ضَلَّ يَضِلُّ ضَلَالًا وَضَلَالَةً گمراہ

ہو جانا - بھٹک جانا - بھول جانا - غلطی کر جانا -

ضَلَالَةٌ گمراہی - ضَالٌّ گمراہ مُضِلٌّ گمراہ

کرنے والا - تَضَلَّلْتُ گمراہ کرنا - ضَالَّةٌ گمراہ

چیز جس کی تلاش کی جائے -

ضَلَعٌ يَضْلَعُ ضَلْعًا - نمیدیا ٹیڑھا ہونا

ضَلَعٌ ج اِضْلَاعٌ پسلی - مثلث وغیرہ کا ضلع

ضَلْعَةٌ پہلو -

ضَمَّ يَضُمُّ ضَمًّا - ملانا - جمع کرنا - ضَمَّةٌ

پیش - مَضْمُونٌ پیش دیا ہوا حرف - اِضْمَامٌ

مل جانا - ضَمِيمَةٌ ملا ہوا - ملحقہ - ضَمٌّ پیش -

اِضْمَحَلٌّ (اِضْمَحَلَّ) گھٹنا - اِخْطَاطٌ -

نہیں ہونا - اُرْطُ جانا - بکھر جانا - مُضْمَحِلٌّ فنا

ہو جانے والا - کمزور ہو کر نا بود ہو جانے والا -

ضَمَادٌ بٹی زخم کی پٹی - موٹا لیب کرنا -

اِضْمَامٌ لیب کرنا -

اَضْمَرَ يَضْمِرُ اِضْمَارًا - چھپانا -

ضَمِيرٌ ج ضَمَائِرٌ پوشیدہ خیال ضمیر

اندیشہ - بھید دل کی بات اسم ضمیر - مُضْمِرٌ

دل میں پوشیدہ بات - چھپا ہوا خیال - دل کے

اندر کا تفتی ارادہ - دل میں چھپایا ہوا -

ضَمِينٌ يَضْمِنُ ضَمَانًا وَضَمَانًا عَدْلًا

بننا - کسی بات کا ذمہ دار ہونا - ضَمِينٌ الذمہ دار

کسی چیز کا - ضَامِنٌ ذمہ دار - مَضْمُونٌ

وہ چیز جو کسی کے اندر ہو - ضَمَانٌ ذمہ دار

کفالت - ذمہ داری - تَضْمِينٌ ذمہ داری

کسی اور شاعر کا مشہور شعر ہے - ضَمِينٌ لانا

مَضْمُونٌ شامل کیا ہوا - مَضْمُونٌ شامل

کرنے والا - شامل شدہ -

ضَاءٌ يَضْوُءُ ضَوْءًا وَضِيَاءٌ چمک

دکنا - ضَوْءٌ ج ضِيَاءٌ روشنی - چمک دکنا

سویر کی روشنی - مَضِيٌّ روشنی کرنے والا -

ضَاعَ يَضِيعُ ضِيَاعًا - گم ہونا۔ ضَائِعٌ  
یا تباہ ہونا۔ اِضَاعَةٌ ضَائِعٌ کرنا۔ ضَائِعٌ  
گم یا تباہ ہونے والا۔ ضِيَاعٌ بے کار۔ فضول  
مُضِيعٌ۔ ضائع کرنے والا۔ ضَيْعَةٌ۔ جاگیر۔  
جائیداد۔ ضَيْفٌ ضِيُوفٌ۔ مہمان۔  
وَادُ الضِّيَافَةِ۔ مہمان خانہ۔  
ضِيَافَةٌ۔ مہمانی۔ ضیافت۔  
اِضَافَةٌ شامل کرنا۔ بڑھانا۔ ایک اسم کو  
دوسرے اسم کی طرف مضاف کرنا۔ اِضَافِيٌّ  
اضافی۔ نسبتی۔ بطور ضمیمہ۔ ایذا دی۔ معاون  
مُضَافٌ محاصرے میں آیا ہوا۔ اَلْمُضَافُ  
وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ۔ دو اسم جن کا آپس میں  
صفت کا تعلق ہو۔ صِيْفٌ مِزَانٌ۔

ضَاقَ يَضِيقُ ضَيْقًا۔ تنگ ہونا۔ ضَيْقٌ تنگ  
کرنا۔ مُضِيقٌ تنگ کرنے والا۔ ضَيْقٌ تنگی  
مُضَاقَةٌ تنگی۔ حرج۔ مَضَاقٌ۔ تنگ راستہ

## بَابُ الطَّاءِ

طَبَّ يَطِبُّ طِبًّا۔ بیماری کا علاج کرنا۔  
صَمَّ يَطْبِيئُ بِمَرِيضٍ بِمَرِيضَةٍ۔  
طِبٌّ علم طب۔ فن علاج۔ حکمت۔ طِبِيئٌ ح  
اَطْبَاءٌ۔ طبیب۔ حکیم۔ مَرِيضٌ مَرِيضَةٌ بناوٹی  
طیب۔ نیم حکیم۔ عَطَائِيٌّ مَعَارِجٌ۔ طبابت  
کرنے کی جگہ۔ طِبْيَانَةٌ۔ علاجِ مریض کا پیشہ  
اختیار کرنا۔

طَبَخَ يَطْبِخُ طَبْخًا وَطَبَخَ يَبْكَانًا۔  
طَبَاخٌ باورچی۔ نانباہی۔ مَطْبَخٌ باورچی خانہ  
طَبَاخٌ پکانے کا ہنر۔  
طَبْرِيٌّ۔ طبرستان کی طرف منسوب۔  
طَبْرُزْدٌ۔ مصری۔ طَبْرٌ تبر۔ کلہاڑا۔  
طَبَا شَيْئًا۔ نسلوچن۔ طباشیر۔  
طَابُورٌ۔ فوج کا دستہ۔ پلٹن  
طَبَعٌ يَطْبَعُ طَبْعًا۔ مہر کرنا۔ نقش کرنا۔  
اَلطَّبَاعُ چھپنا۔ کتاب طبع ہونا۔ طَبْعٌ حِجْ طَبَاعٌ  
مہر۔ نقش۔ مزاج۔ فطرتی۔ خصالت۔ نمونہ۔ شکل۔  
طَبَاعَةٌ چھاپنے کا پیشہ۔ پریس۔ طَابِعٌ چھاپنے  
والا۔ مَطْبَعٌ حِجْ مَطَابِعٌ چھاپہ خانہ۔ پریس۔  
طَبِيعِيٌّ فطرتی۔ طَبِيعَةٌ حِجْ طَبَائِعٌ۔ سبھاؤ  
خصالت۔ فطرت۔ طَبِيعِيٌّ ماہر علوم طبیعیات  
مَطْبُوعٌ۔ قدرتی۔ طبع کے موافق۔  
طَبَّقَ يَطْبِقُ طَبَقًا۔ مطابق آنا۔ پورا آنا۔  
طَبَّقَ۔ جُرا جُدا کرنا۔ طَابَقَ مُطَابَقَةً وَطَبِيقًا  
موافق آنا۔ مطابق ہونا۔ اِنطِبَاقٌ کسی سے متفق  
ہونا۔ طَبَّقَ حِجْ اَطْبَاقٌ۔ ڈھکنا۔ طَبَقَةٌ حِجْ  
طَبَقَاتٌ۔ طبقہ۔ تہ یا پرت۔ جماعت۔ درجہ۔ عا  
طَبَقَاتُ الْأَرْضِ۔ زمین کے درجے۔  
مُطَبَّقَةٌ۔ لگا کر مسلسل مطابقت کسی چیز کے  
مطابق۔ موافق۔ یا بلتا جلتا۔ مُطَابَقَةٌ موافقت  
نَطَابِقٌ۔ موافقت کرنا۔ مُنطَبِقٌ۔ پورا آنے والا

طِبَا قَاتَ تہ بہ تہ۔ اوپر تلے۔

طَبْلٌ يَطْبُلُ طَبْلًا۔ ڈھول بجانا۔ طَبْلٌ  
عِ آطِبَالٌ ڈھول۔ طَبْلَةٌ تھالی۔ طبلہ۔  
طَبَالٌ ڈھولچی۔ طبلچی۔ ڈھولکی بجانے والا۔  
طَبْنَجَةٌ۔ تپنچہ۔ پستول۔

طِحَالٌ تَلِي۔ طِحَالٌ تَلِي كِي بيماری۔ مَطْحُولٌ  
تلی کی بیماری والا۔

طُحْلُبٌ۔ کائی جو کھڑے پانی پر آجاتی ہے۔

طَحْنٌ يَطْحَنُ طَحْنًا وَ طَحْنٌ۔ پيسا رطون  
و طَحِينٌ آٹا۔ طَحَانٌ آٹا پيسنے والا۔ طَا حُونٌ  
چکی۔ مَطْحَنَةٌ راج مَطَا حِنٌ۔ خراس۔ چکی۔  
مَطْحُونٌ پيسا ہوا۔

طَرَّةٌ۔ پيشانی پيشانی کے بال۔ طَرَارٌ رَجَبِ  
کترنے والا۔ تيز طَارِيٌّ۔ ناگہانی آفت یا مصیبت  
إِطْرَائٌ حد سے زیادہ تعریف یا مدح کرنا۔

طَرِبٌ يَطْرِبُ طَرِبًا۔ خوش ہونا۔ سُرُورًا  
ہونا۔ خوشی یا غم سے جھومنا مَطْرِبٌ۔ گویا۔  
طَرِبٌ خوشی بہت۔ طَرِبُوشٌ۔ رُوی نُوپی۔  
طَرَابِلُسُ الشَّامِ۔ شام کا طرابلس

طَرَحٌ يَطْرَحُ طَرَحًا پھینکنا۔ طَرَحٌ پھینکا  
ہوا۔ مَطَارِحَةٌ گفتگو۔ طَرْحَانٌ وَ تَرْحَانٌ  
بیس شہزادہ۔

طَرْدٌ يَطْرُدُ طَرْدًا۔ دھتکارنا۔ طَرِيدٌ  
دھتکارا ہوا۔ مَطْرُودٌ راندہ ہوا۔

طَرَزٌ يَطْرِزُ نَقْشٌ وَ كَارِكْرَانَا۔ بیل بوئے ڈالنا  
طَرِزٌ۔ شکل۔ ترتیب۔ طریقہ۔

طَرَفٌ يَطْرِفُ طَرَفًا۔ آنکھ جھپکنا۔ طَرَفٌ  
عِ اطْرَافٌ، پہلو۔ صفحہ۔ کنارہ۔ آخری حد۔

أَطْرَافُ الْبَدَنِ جسم کے اطراف۔ دونوں ہاتھ  
دونوں پاؤں سر وغیرہ۔ طَرَفَةٌ عمدہ نمی چیز لطیفہ  
طَرَفَاءٌ جھاو کا درخت۔ پھرواں۔ فراس۔

طَرِيفٌ نادر چیز عجیب و غریب چیز

طَرَفَيْنِ۔ جانبین۔ دونوں جانب۔

طَرَفَةُ الْعَيْنِ۔ آنکھ کا جھپکنا۔

طَرَقَ لِي۔ راستہ بنا۔ طریقہ نکالنا۔ طَرِيقَةٌ

جمع طَرِيقٌ وَ طَرَائِقٌ۔ راستہ۔ طریقہ۔

طَارِدٌ رات کو آنے والا۔ جَمِيلٌ الطَّارِفُ

جیرالٹر ملک سپانیہ یعنی اندلس کے دار طارِق

بن نباد کے نام کا سپین میں ایک پہاڑ ہے۔

مَطْرَقَةٌ۔ ہتھوڑا۔ طَرَقَتْ لَمْرًا وَ لَمْرًا

طَرُوبَةٌ وَ طَرُوبَةٌ۔ کھانا کھانا

طَرَاوَةٌ۔ تازہ ہونا۔ طَرَاوَةٌ

طَرِيبٌ۔ نازک۔ طَرِيبٌ

طَرِيبٌ يَطْرِبُ طَرِيبًا۔ پکنا۔ مزہ دیکھنا

طَعْمٌ۔ مزہ۔ طَاعِدٌ کھانے والا۔ طَعَامٌ

عِ أَطْعِمَةٌ۔ خوراک۔ غذا۔ رزق۔ مَطْعَامٌ۔

مہان نواز۔

طَعْنٌ يَطْعَنُ طَعْنًا۔ نیزہ مارنا۔ نیزہ چھوڑنا

طَاعُونَ ج طَوَاعِينُ - طاعون - بلیگ -

طَعْنٌ - طعن و تشنیع کرنا - طَعَانٌ - ملامت کرنا  
طَعُونٌ جس کو ملامت اور طعن کیا جاوے -

طَاعُونَ کی مرض کا مریض - مَطَاعِيحٌ - عیب الزام  
لامت کی باتیں -

طَغْرَاءٌ شاہی فرامین اور سلطانی مسکوکات کا  
خاص طرز خط و تحریر جیسا کہ آج کل کے پاکستانی  
روپیہ اور اٹھنی پر لکھا ہوا ہوتا ہے -

طَغْيٌ يَطْغِي طَغْيَانًا - حد سے گزر جانا - کفر میں  
بڑھ جانا - طَغْيَانٌ کفر میں بڑھنا - طَغْمٌ پلید

کفر میں حد سے بڑھا ہوا - طَاعُونٌ ج طَوَاعِينٌ  
باطل معبودیت خانہ بہت بڑا بے دین - شیطان  
گمراہ کرنے والا -

طَفِيٌّ يَطْفَأُ طَفْوَةً يَجْمَعُ جَانًا يَجْمَعُ جَانًا  
دھیم پڑ جانا - مُطْفِئٌ جَمْعُهُ جَمْعَانٌ -

طِفْلٌ جِ أَطْفَالٌ - بچہ - بالک - طِفْلِيَّةٌ  
بچپن - سَفْرَسِيٌّ - طَفِيلٌ ذَرِيْعَةٌ - واسطہ طَفِيْلِيَّةٌ  
کسی وحوت پرین بلا کے مہمان -

طَقٌّ پتھر پتھر پڑنے کی آواز - طَقَطَقٌ و رَوَاةٌ  
کو کھٹکھٹانا - یا جانداروں کے پاؤں کی آواز -

طَلَبٌ يَطْلُبُ طَلْبًا - تلاش کرنا - وَهَوْنٌ  
پوچھنا - پابنا - طَالِبٌ جِ طَالِبَاتٌ - ڈھونڈنے والا

تلاش کرنے والا - مَطْلُوبٌ - مقصود جسکی تلاش ہو  
طَلَبٌ درخواست - دَعْوَى - طَلَبَةٌ طَلْبَاءٌ امید  
طالبتعلم - (اردو) شاگرد

مَطْلَبٌ جِ مَطَالِبٌ جِ مَطَالِبَاتٌ خواہش

تحقیق طلب امر -

طَالُوتٌ - بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا  
صفاقی لقب جس کا نام شاول اور جو حضرت داؤد  
علیہ السلام کا خسر تھا -

طَلْحٌ يَطْلَحُ طَلْحًا - شریہ ہونا - خراب اور بد ہونا  
طَالِحٌ - بد بخت - شریہ پاجی - بد معاش - فساد  
طَلْحَةٌ - کیدا -

طَبْلَسَانٌ سبز چادر جو علماء اور مشائخ سر پر اوڑھتے  
یا مونڈھوں پر ڈالتے ہیں

أَطْلَسٌ - ساٹن - ریشم کی بنی ہوئی چیز - اُطْلَسٌ  
نقشوں کا مجموعہ - ریشم کی بناوٹ والا کپڑا -

طَلْسَمٌ جِ طَلْسَمَاتٌ جادوگر کی لکیریں یا  
تحریر - جادو کا فن یا کام -

طَلَعٌ يَطْلَعُ طُلُوعًا - چڑھنا - ظاہر ہونا -  
إِطْلَاعٌ - جاننا - مطلع ہونا - خبردار کیا جانا -

طُلُوعٌ - ظہور - مَطْلِعٌ جمع مَطَالِعٌ - چڑھنے یا  
طلوع ہونے کی جگہ - نظم کا پہلا شعر -

مَطْلِعٌ - اطلاع یا خبر دینے والا - اِطْلَاعَاتٌ  
خبر دی ہوئی باتیں - طَلْعَةٌ - چہرہ - دیدار - شکل -

طَالِعٌ جِ طَوَالِعٌ چڑھنے والا ستارہ - جنم پیری  
مَطَالَعَةٌ پڑھنا مطالعہ کرنا - جانچ پڑتال کرنا -

طَلِيْعَةٌ مقدّمہ الجیش - ہراول دستہ -  
طَلَّقَ يَطْلُقُ طَلَاقًا - آزاد کرنا - عورت کو  
طلاق دینا

إِطْلَاقٌ جَهْرٌ دِينًا. آزاد کر دینا۔ مُطْلَقٌ آزاد  
 کہا ہوا۔ طَلَاقَةٌ فصاحت۔ زبان کی روانی۔  
 طَلِيقُ اللِّسَانِ فصیح زبان آور۔ مُطْلَقَةٌ  
 طلاق دی ہوئی عورت۔ طِلَاقٌ عورت کی طلاق  
 آزادی کی سند۔ اِطْلَاقٌ آزاد کرنا۔ طَلِيقُ  
 الوَجْهِ۔ کشادہ رو و خندہ پیشانی والا۔ تَطْلِيقُ آزاد  
 حَكِيمَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ بلا استثنا حکیم۔  
 اِسْتِطْلَاقٌ پیٹ کا جاری ہو جانا۔ مُطْلَقًا  
 قَطْعًا۔ بالکل عام طور پر۔ طَلْمَجِيٌّ۔ آگ بجھانے  
 والا سپاہی۔ طَلَا سونا۔ پتلا لپچ آٹلیہ  
 مُطَلَّأٌ زَرِيں۔ سنہری۔ مُذَهَّبٌ۔  
 طَمِثٌ يَطْمِثُ طَمَثًا۔ عورت کو حیض آنا۔  
 طَمِثٌ جِيضٌ۔ ناپاکی۔ گند۔ میل۔ فساد۔ خون۔  
 بکارت۔

طَوَّعَ مَا رَجَّحَ طَوَّاعِيًّا لَكَّهٖ يَوَّعُ كَانْخَا كَانْخَا  
 پلندہ۔ رجسٹر۔

طَمَسَ يَطْمِسُ طُمُوسًا۔ محو کرنا۔ مٹا دینا۔  
 مَطْمُوسٌ۔ مٹا ہوا۔

طَمَعَ يَطْمَعُ طَمَعًا فِي۔ ب۔ لالچ کرنا۔  
 بہت خواہش رکھنا۔ کسی چیز کی امید کرنا یا رکھنا  
 طَامِعٌ۔ حریص۔ لالچی۔

إِطْمَئِنٌّ يَطْمَئِنُّ إِطْمِئِنَانًا۔ تسکین  
 دینا۔ تشفی و اطمینان دلانا۔ مُطْمَئِنٌّ تَلِيٌّ  
 تشفی یافتہ۔ طَمَائِنَةٌ۔ اطمینان تلی۔ دل کا چین۔

تسکین و قرار دل۔

طَنَّبَ خِيَمَةً لَكَ اسکی طنابیں گنا۔

أَطْنَبَ فِي الْكَلَامِ بَاتٌ كَوَلَمَّا كَرْنَا۔ اِطْنَابٌ  
 بات کا بھیداؤ۔ طول، کلامی۔ طَنَابٌ خیمہ کی رستی

طَنَّبُوْرُجٌ طَنَابٌ بِيْرٌ۔ سارنگی۔ ساز۔

طَهَّرَ يَطْهَرُ طَهْرًا وَطَهْرًا كَرْمًا۔ سٹھرا ہونا

پاک ہونا۔ راستیاز ہونا۔ تَطْهِيرٌ صفائی پاکیزگی

طَاهِرٌ پاک۔ صاف۔ طَهْرٌ وَطَهْرَةٌ

پاکیزگی۔ صفائی۔ مُطَهَّرٌ پاک و صاف کرنا ہوا

آيَاتُ الطَّهْرِ عورت کے حیض سے پاک ہونے

کے دن۔ اَطْهَارٌ پاک لوگ۔

طَوَّرَجٌ اَطْوَارٌ طَرِيْقَةٌ عَمَلٌ قِسْمٌ۔ جماعت

حالت۔ طَوْرٌ کوہ طُور۔ اَطْوَارٌ قسما قسم۔

طَاوُؤُسٌ۔ مور۔ طَائِسٌ رَجٌ طَائِسَاتٌ پیرا

طَاعَ يَطُوْعُ۔ طَوْعًا وَاطَاعَ وَاطَاعَ

ل۔ فرمانبرداری کرنا۔ تابعدار ہونا۔ عَمَلٌ اِطَاعَةٌ

اِسْتِطَاعَةٌ طاقت رکھنا۔ طَائِعَةٌ وَ

اِطَاعَةٌ۔ فرمانبرداری۔ تابعداری۔ طَائِعٌ

تابعداری کرنے والا۔ مُطَاعٌ اِسْتِطَاعَةٌ

تابعداری کی حالت۔ اِسْتِطَاعَةٌ طاقت و

قدرت رکھنے والا۔ طَوْعٌ مرضی سے بغیر جبر کے

طَوْعِيٌّ خوشی۔ برضا۔ وَرَغْبَةٌ۔ مُتَطَوِّعٌ

والنیئر۔ رضا کار۔ تَطَوُّعٌ رضا کارانہ فعل۔

اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا۔



مُطَاوَعَةٌ - مرضی - خوشی - رضا - موافقت - اتفاق

طَافَ يَطُوفُ طَوَافًا - ارد گرد گھومنا

جَرَ لَكَانَا - پٹرول کرنا - طَائِفٌ گھومنے والا -

طَوَّافٌ گھومنا - طواف کرنا - مَطَافٌ چکر

رگانے کی جگہ - مُطَوِّفٌ - طواف بیت اللہ

کرانے والا - طَائِفَةٌ ج طَوَائِفٌ - جماعت

قوم - کنبہ - گروہ - فرقہ - طُوفَانٌ - سیلاب

طوفان - طَوَّافٌ کعبہ شریف کا طواف کرنا والا -

طَاقٌ يَطُوقُ - طَوْقًا وَ طَاقَةً وَ اَطَاقَ

عَلَى - طاقت رکھنا - طَوَّقِي - طوق پہنانا - طَوَّقِي

جَمْعَ اَطْوَاقِيٍّ گھلے کا زیور - کالر - مُطَوَّقِيٍّ فاختہ

کبوتر - مَا لَا يُطَاقُ - ایسا کام جو طاقت سے

باہر ہو - طَاقِيٌّ - گنبد - محراب - ڈاٹ -

تَطَوَّقِيٌّ - طوق یا مالا پہننا -

طَالَ يَطْوُلُ - طَوُّلًا - دیر تک رہنا - بڑھنا

طَوَّلَ - اَطَالَ لِمَا كَرْنَا - طَوَّلُ لِمَا بِيْ عَرَسَ

تَدَت - طَائِلٌ فَايِدَه - نفع - لَا طَائِلَ بِفَايِدَه

بے مصرف - تَطَوُّيٌّ لِمَا كَرْنَا - ورازا کرنا - طَوُّيٌّ

لِمَا - طَوَّالَةٌ لِمَا بِيْ - تَطَاوُلٌ - ظلم - زیادتی

مَطَوَّلٌ ایک کتاب کا نام ہے - اَطْوَالٌ بہت

لمبا - طَاوِلَةٌ - میز - ٹیبل - مُسْتَطِيْلٌ لمبا

منواری الاضلاع جس میں تمام زاویے قائمے

ہوتے ہیں مگر اضلاع برابر نہیں ہوتے - فن عروض

کی ایک بحر - طَحِيٌّ پھینٹنا طے کرنا - تہ کرنا -

طَوَى ایک وادی کا نام ہے -

طَابَ يَطِيْبُ طَيْبًا - اچھا - خوشگوار

و عمدہ ہونا طَيْبٌ خوشبودار چیز - طَيْبٌ

پاکیزہ - پاک - اَطْيَبُ - بہت پاک -

مُطِيْبٌ خوشبودارینے والا - خوش کرنے والا -

مُسْتَطَابٌ پاکیزگی والا - طَيْبَةٌ ج

طَيْبَاتٌ - پاکیزہ چیز عمدہ چیز - طَوْبِيٌّ

خوشخبری - ایک بہشتی درخت -

طَارَ يَطِيرُ طَيْرًا نَائًا - اُطْنَا - طَائِرٌ

ج طَيْرٌ - پرندہ - طَيْرٌ پرندہ - طَبَّادَةٌ

ہوائی جہاز - طَيْرَانٌ اُطَانٌ - پرواز -

طَاشٌ يَطِيْشُ طَيْشًا - عقل کھونا -

عقل ضائع ہونا - طَيْشٌ چھچھورا پن - حَمَاتٌ

غصہ - اَطَافٌ وَ طَيْفٌ گردا گرد گھومنا -

طَيْفٌ سایہ - خیال - جنون - طَيْنٌ - مٹی - کچرہ

طَيْبِنَتْ - فطرت - نیچر - طبیعت - مَطِيْنٌ

گل حکمت کیا ہوا - مٹی کچرے سے لپیا ہوا -

## بَابُ الطَّاءِ

طَبِيٌّ - ہرن - ہرنی

ظَرَفٌ يَظْرَفُ ظَرْفًا وَ ظَرْفَةً -

ذہین ہونا - ماہر ہونا - خوش ہونا - ظَرْفٌ ج

ظَرْوَةٌ - برتن - اندرونی حالت - ظَرْفَةٌ

ذہانت - ظَرْفٌ حاضر جواب - ذہین - خوش طبع

لے طَوَّلُ ج

مَظْرُوفٌ رتن کے اندر کی چیز پانی وغیرہ  
 ظَفِرٌ يَظْفِرُ ظَفْرًا اب و علی کامیاب  
 ہونا۔ غالب آنا۔ مُظْفَرٌ کامیاب۔ فتح مند۔  
 ظَفْرٌ کامیابی۔ ظَفْرٌج اظْفَادٌ ناخن۔  
 ظَفْرَةٌ ناخونہ چشم۔ آنکھ کی ایک مرض جس  
 میں ناخن کی شکل کا اُبھار پیدا ہو جاتا ہے۔  
 ظَلٌّ يَظِلُّ ظِلًّا جَارِيٌّ جاری رہنا۔ برابر رہنا  
 ظِلٌّ وَ آظِلٌّ سایہ کرنا۔ ظِلٌّج اظْلَالٌ  
 سایہ۔ پرچھاواں۔ عکس۔ نمونہ۔ مَظَلَّةٌ چھٹانا  
 چھتری۔ بڑا خیمہ۔ ظِلٌّ ظِلِيلٌ بہت گھنا سا یہ  
 ظَلَمَ يَظْلِمُ ظُلْمًا ظلم کرنا۔ جور کرنا۔  
 بے انصاف ہونا۔ زیادتی اور ستم کرنا۔ اَظْلَمَ  
 اندھیرا ہونا۔ تاریک ہونا۔ تَظَلَّمَ ظلم کرنا۔ ظلم  
 برداشت کرنا۔ ظُلْمَةٌج ظُلُمَاتٌ اندھیرا  
 تاریکی۔ جہالت۔ فسق۔ شرک۔ يَحْرُجُ الظُّلُمَاتِ  
 بحر اوقیانوس۔ ظَالِمٌ ظلم کرنے والا مَظْلُومٌ  
 ستم رسید۔ ظَلَامٌ وَ ظُلُومٌ بہت ظالم  
 بہت بڑا بے انصاف۔ مَظْلِمَةٌج مَظَالِمٌ  
 زیادتی بے انصافی۔ وہ حق جس سے کسی کو محروم  
 کر دیا جاوے۔

ظَنٌّ يَظُنُّ ظَنًّا خیال کرنا۔ فرض کرنا۔ جانتنا  
 شبہ کرنا۔ ظَنٌّج ظُنُونٌ خیال۔ شبہ۔ شک۔ قیاس  
 گمان۔ امکان غالب۔ مَظِنَّةٌ خیال۔ قیاس  
 وہ موقع جہاں کسی بات کے پانچ جانے کا گمان ہو۔

ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهُورًا کھلم کھلا ہونا۔ باہر آنا۔  
 ظاہر ہونا۔ آشکارا ہونا۔ دکھائی۔ اظْهَارٌ ظاہر کرنا  
 ظَاهِرٌ واضح۔ صاف۔ کھلا ہوا۔ اِشْتِظَاهَادٌ  
 مدد چاہنا۔ اظہار چاہنا۔ غالب آنا۔ ظَهْرٌج  
 ظُهُورٌ پیٹ۔ پشت۔ مَظَاهِرَةٌ دکھاوا  
 اپنے آپ کو دکھانا۔ نمایاں کرنا۔ اِظْهَارٌ مرد کا عورت  
 کو ماں بہن کہہ دینا۔ مَظْهَرٌج مَظَاهِرَةٌ قدرت  
 الہی کے ظہور کا مقام۔ کسی نبی یا رسول کی شان کو  
 ظاہر کرنے والا وجود۔ جیسا کہ مسیح مہدی جو موجود  
 امت محمدیہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے  
 کمالات اور شان کو ظاہر کرنے والا ہے یعنی  
 روحانیت و تقویٰ و نشان نبوی و کمالات مصلوٰی  
 کے ظہور کا ذریعہ ہے۔ اور آپ کے وجود باوجود  
 کامنہر کامل اور برونہ اتم ہے۔ ظَاهِرٌج ظَاهِرٌ  
 سورج کے زوال کے بعد کا وقت۔ نماز کے بعد  
 وقت۔ مَظْهَرٌ ظاہر کرنے والا۔ آشکارا کیونکہ  
 ظَهْرٌ الغَيْبِ پس پشت سے بیچنے کی طرح  
 ظَهْرٌ سودیتے والا۔ اِظْهَارٌ دکھاوا  
 پشت و پیادہ ظاہر کرنا۔ اِظْهَارٌ دکھاوا  
 پوشیدہ طور پر

## يَابُ الْعَيْنِ

عَبَاءٌ وَ عَيَايَةٌ ایک قسم کا اونی پونہ  
 عباؤہ یہ آئین پونہ جو سب کپڑوں کے اوپر پانچ



جو غیر اقوام کے تسلط سے آزاد ہے۔ اور اس کا  
آج تک ان ہی لوگوں کو محافظ بنایا گیا جو اسکے  
خادم اور نوکر تھے اور جابروں سے محفوظ رکھا  
گیا ہے۔

أَعْتَقَ يَعْتِقُ إِعْتِقًا - آزاد کرنا۔  
عَائِكَةُ - پرانی کمان۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا  
کا نام۔ عَائِيَةٌ حد سے گزری ہوئی۔ سرکش۔  
عَتَمَةٌ عَشَارُ کی نماز کا وقت۔ مَعْتُوَةٌ پاگل  
بے وقوف۔ عَثَانٌ ایک قسم کا پرندہ۔

عَاجِحٌ ہاتھی دانت۔ عَجَّاجٌ شور کرنے والا  
عَجِبٌ يَعْجِبُ عَجَبًا عَجَبٌ وَ لَوْ  
تَعَجَّبَ وَ اسْتَعْجَبَ مِنْ كَسِي بَاتٍ پَر  
حیران ہونا۔ کسی بات کو انوکھی یا عجیب خیال  
کرنا۔ عَجِبٌ غرور۔ تکبر خود پسندی۔

مُعْجِبٌ کھنڈی شیشی باز۔ عَجِبٌ عَجَابٌ  
انوکھا۔ غیر معمولی عجیب۔ تَعَجَّبٌ۔ حیرانی۔ تعجب  
اسْتَعْجَبْتُ تَعَجَّبٌ کرنا یا حیرانی میں پڑنا۔  
عَجِيبٌ سمجھنا۔ اَعْجَبُ الْعَجَابِ بہت ہی عجیب

أَعْجُوْبَةٌ عَجَابِيَةٌ طَرَفٌ نَادِرٌ جَبِيْرٌ  
عَجَزٌ يَعْجِزُ عَجْزًا بَسٌ ہونا۔ ناطق  
یا نامرد ہونا۔ عَاجِزٌ کمزور ضعیف۔ اَعْجِزُ  
کسی کو عاجز کر دینا۔ وہ بند پایہ۔ ناقاب مشال  
نصاحت و بلاغت جس کا مثیل کوئی نہ ہو سکے  
قرآن پاک معجزہ

مُعْجِزَةٌ عَجَزَاتٌ - خارق عادت  
واقعہ۔ پیغمبروں کی کرامت۔ حَسْبُوْنٌ  
و عَجُوْزٌ عَجَائِزٌ بُوْرٌ صِ عورت کمزور  
عورت۔ عَجِزٌ عاجزی۔ کمزوری۔ بَسِی  
ناطاقی۔

عَجَلٌ يَعْجَلُ عَجَلًا وَ عَجَلَةٌ وَ عَجَلٌ  
وَ تَعَجَّلَ وَ اسْتَعْجَلَ - جلدی کرنا۔ جلد  
بازی سے کام لینا۔ تَعْجِيْلٌ جلدی کرنا۔

عِجْلَةٌ جلد بازی۔ عَاجِلٌ جلدی کرنے والا  
مُعْجَلٌ جلدی سے ادا کیا ہوا (لوہا ہر)

عَجْمٌ جو عرب نہ ہو۔ عَجَبِيٌّ منسوب عجم  
اَعْجَبِيٌّ غیر عرب۔ ایرانی۔ پُورِیسی گونگا۔  
مُعْجَبٌ نقطہ وار حروف یا الفاظ پر اعمات

اَعْجَبٌ غیر عرب۔ غلط عربی بولنے والے۔

اَعْجَبٌ يَعْجَبُ عَجَبًا كَوْنُهُ اَعْجَبٌ  
ع مَعَا جِلْبَانٌ كُنْدَهَا لَوَا۔ خمیر کیا ہوا۔ شہد  
یا شربت میں ملائی ہوئی دوا۔ عَجِيْبٌ كُنْدَهَا لَوَا  
عَدَّ يَهْدِي سَدًّا وَ عَدَّ كُنْدَهَا لَوَا

گنتی کرنا۔ اندازہ و تخمینہ کرنا۔ اَعْدَدُ

شمار۔ حساب۔ اَعْدَدُ شہد۔ شمار کیا ہوا

عَدِيْدَةٌ کئی قسم کا۔ کسی طرف کا مُتَعَدِّدٌ

متفرق۔ مُسْتَعِدٌّ تیار۔ آمادہ اِسْتَعْدَادٌ

تیاری۔ لیاقت۔ اہلیت۔ عَدَّ كُنْدَهَا لَوَا

! بیوہ کی مدت۔

عَدَدٌ آَعْدَادٌ - کثرت۔ بڑی تعداد۔ شمار  
گنتی۔ مقدار۔

عَدِيدٌ عَدِيدٌ بِهٖ نَاقِلٌ تَوَجَّهَ نَاقِلٌ شَارٌ -  
مُعْتَدٌ بِهٖ - قابل توجہ جسے اہم سمجھا جائے۔  
قابل لحاظ۔

عَدَسٌ مَسُوْرٌ - عَدَسِيٌّ مَسُوْرٌ کی طرح۔

عَدَلٌ يَعْدِلُ عَدْلًا وَعَدَالَةٌ وَمَعْدَلَةٌ  
انصاف کرنا۔ برابر کرنا۔ عَاجِلٌ عدل و انصاف  
کرنے والا تَعْدِيْلٌ درست کرنا۔ برابری و انصاف  
عَدُوْلٌ راہ سے ایک طرف ہو جانا۔ عَدِيْلٌ  
برابر یا عَدِيْلٌ ہموار ہونا۔ یکساں ہونا۔

مُعْتَدِلٌ تَوَجَّهَ عَدْلًا پَر و ا ق ع ہو۔ ایک جیسا  
ہو کسی طرف مچکا ہوا نہ ہو۔ سیدھا۔ مناسب  
متوسط الحال۔ مُعَادِلٌ برابر۔ مثل۔ مشابہ۔

عَدِيْرٌ يَعْدُوْهُ عَدُوْرٌ عَدُوْرٌ مَعْدُوْمٌ  
إِلْحَادٌ مَرْفُوعٌ ہونا۔ نایود ہونا۔ عَدُوْرٌ مَعْدُوْمٌ  
جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مَعْدُوْرٌ وجود نہ رکھنے  
والا غیر موجود۔ گم شدہ۔ تباہ شدہ۔ عَدُوْرٌ  
نیستی۔ فقدان۔ نقصان۔

عَدَنٌ - یمن کا ایک شہر۔ رِہَالِشٌ کی جگہ  
ہمیشہ رہنے کا مقام۔ جنت۔ مَعْدِنٌ مَعَادِنٌ  
کان۔ وحات۔ اصل۔ جڑ۔ نبع۔ مَعْدِنٌ مَعْدِنٌ  
بہ معدن۔ کافی۔

عَادِيٌّ يَعْدِيُّ عَدِيًّا - شمشینی کرنا۔  
نفرت کرنا۔

تَعَدَّى - حد سے تجاوز کرنا۔ حد سے باہر نکل جانا  
مُنْتَعَدِيٌّ - ہومرض ایک دوسرے کو لگ جائے  
عَدَاوَةٌ - دشمنی۔ نفرت۔ عداوت۔ عَدُوٌّ - دشمن  
بدخواہ۔ عَدُوَانٌ بے انصافی۔ دشمنی۔ ظلم۔  
أَعْدَاءٌ عَدُوٌّ کی جمع۔ مَعَادَاتٌ - ظلم۔  
دشمنیاں۔ عداوتیں۔ تَعْدِيَّةٌ متعدی ہونا۔  
رَاعِيْدٌ بے انصافی۔ زیادتی۔ ظلم۔ مَتَعَدٍ  
فعل متعدی عَادٌ - ایک قوم کا نام ہے۔

عَذَابٌ بِهٖمَا - عَذَابٌ سِزَا - مصیبت۔  
مُعَذِّبٌ عَذَابٌ دِيْنٌ وَاللَّ - مُعَذِّبٌ حَسْبُ  
عذاب وار د کیا جائے۔ تَعَذِّبُ عَذَابٌ يَأْتِي  
دینا۔

عَذْرٌ يَعْذُرُ عَذْرًا وَمَعْذَرَةٌ الزَّامُ  
سے پری کرنا۔ معاف کرنا۔ عذر قبول کرنا۔

إِعْتَذَرَ عَذْرًا عَذْرًا - مَعْذَرَةٌ عَذْرٌ  
مَعْذُوْرٌ - معافی دیا گیا۔ عذر والا۔ تَعَذَّرٌ  
ناممکن ہونا۔ وقت۔ عَذْرَاءٌ عَذْرَاءٌ كِنُوْرِيٌّ  
عورت۔ عَذْرَةٌ بَكَرَتٌ - عَذْرٌ رِخْسَةٌ كَالْ  
مُنْتَعَذِرِ مَعْكَلٌ - صعب۔ عَذْرٌ عَذْرَابٌ  
ملک عرب کا رہنے والا۔ عربی۔ عَذْرِيٌّ مَلِكٌ عَرَبٌ  
باشندہ۔ عَذْرَابٌ عَذْرَابٌ - بَدُوٌّ - جنگل میں  
رہائش رکھنے والا۔ عَرَبٌ الْعَرَبِيَّةُ خَالِصٌ نَسْلٌ  
کے عرب باشندے۔ مَعْرَبٌ عَرَبِيٌّ بَنِيَا ہوا۔

تَعْرِيْبٌ عَرَبِيٌّ بَنَانٌ - رِعْرَابٌ زِيْرٌ بِيْرِيْشٌ كَالْبَنَانِ

مُعَرَّبٌ وہ لفظ جس پر ہر قسم کا اعراب آسکے  
اعْرَابٌ کوئی حرکت یعنی زیر زبر پیش وینا۔  
الْعَرَبِيَّةُ عربی زبان۔ عَرَبِيَّةٌ گاڑی۔ گھی  
الْعَرَبُ الْمُتَعَرَّبَةُ وَالْمُسْتَعَرَّبَةُ  
وہ لوگ جو خالص عرب نسل کے نہ ہوں۔ بلکہ عرب بن  
گئے ہوں۔

عَرَجٌ يَعْرَجُ عُرُوجًا۔ اوپر چڑھنا۔  
مِعْرَاجٌ مَعَارِجٌ سیرھی۔ نروبان۔ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ روحانی کشف کا واقعہ  
جس میں آپ کو ذاتی اور آپنی اُمت کی ترقیات  
اور عروج دکھایا گیا۔ آعْرَجٌ۔ سنگڑا۔

عَرَادَةٌ۔ توپ۔ گاڑی۔ منجیق۔ پتہ۔  
عُرُوشٌ عُرُوشٌ سُسُ۔ دُہن۔ دُولہا۔ نوشہ  
عُرُوشٌ۔ ولیمہ۔ عُرُوشٌ مَسُوبٌ بہ عروس  
عَرَشٌ يَحْرِشُ عَرَشًا۔ انگر کی بیل  
کو چھپر پر چڑھانا۔ عَرَشٌ عُرُوشٌ تَحْتِ  
چھت۔ چھپر۔ أَلْعَرَشُ مُرَادُ حُكُومَتِ و سُلْطَنَتِ  
خداوندی و انتظام حکومت و بادشاہی۔

عَرَشٌ شَدْدٌ۔ جہاز کا چھت۔  
عَرَشَةٌ عَرَشَاتٌ۔ صحن۔ وہ گھنٹی  
جس کے گرد اگر وہ مکانات ہوں، مدت۔ زمانہ  
بزبان اردو۔

عَرِضٌ يَعْرِضُ عَرِضًا۔ واقع ہونا، ظاہر  
کرنا۔ پیش کرنا۔ عَارِضٌ واقع ہونے والا۔

مَعْرُوضٌ پیش کیا ہوا۔ گذارش۔

إِعْتِرَاضٌ۔ مقابل میں آنا۔ مخالفت۔ اعتراض

تَرْوِيدٌ۔ مدافعت۔ مُعْتَرِضٌ۔ مخالفت کرنے والا۔

رُكَاوَةٌ وَالنَّيْ وَآلَا۔ مَعْرُضٌ ظاہر ہونے کا مقام

یا واقعہ۔ مَعَارِضَةٌ۔ مخالفت۔ تَرْوِيدٌ۔ رُكَاوَةٌ

عَرُوضٌ شعر کی بحر عروض یعنی شعر کوئی کا علم۔

عَارِضَةٌ عَوَارِضٌ۔ حاجت۔ ضرورت۔

پیش آنے والا حادثہ۔ عُرُوشٌ شعر و شاعری

کا عالم۔ جَمَلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ۔ جو جملہ جہ میں آئے

عَرِضٌ پوڑا۔ عَارِضٌ معمولی۔ تَعْرِيفٌ بات

سمجھانے کے لئے اشارہ کرنا۔

عَرَفٌ يَعْرِفُ مَعْرِفَةً وَعَرَفْنَا

جاننا۔ کسی چیز سے واقف ہونا۔ تَعَرَّفْتُ وَ

تَعَارَفْنَا۔ اپنے آپ کو پہچاننا۔ تَعْرِيفٌ

تسلیم کرنا۔ کسی بات کا اقرار کرنا۔ مَعْرِفَةٌ علم

حقیقی۔ عَارِضٌ خدا تعالیٰ کی معرفت والا۔

عَرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ

کا علم۔ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ

مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ

مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ مَعْرِضٌ



عَشِيرٌ يَعْدِرُ عَشْرًا مُشْكِلٌ هَوْنًا سَخَتْ هَوْنًا  
 تنگی ہونا۔ عَشْرًا تَنگی۔ غریت۔ بے چارگی۔  
 عَشْرٌ مَعْصِرٌ تَنگدست۔ کنگال۔ غریب مفلس  
 مَعْصِرٌ مُشْكِلٌ سَخَتْ بِبَعِيدِهِ عَشْرٌ فَوْجٌ  
 لشکر۔ عَشْرٌ سِبَاہِیٌّ سِبَاہِیٌّ لَشْکَرِیٌّ فَوْجِیٌّ۔  
 مَعْصِرٌ جَہَاوِنِیٌّ فَوْجٌ کَاکِمِیِّیٌّ عَشْرٌ عَشْرَانٌ  
 شام کے ساحل کا ایک شہر۔ عَشْرٌ شہر تازہ  
 کھجوروں کا رس۔ عَشْرٌ شہر کی مانند۔  
 عَشْرٌ اَفْعَالٌ مَقَارِبٌ مِیْنٌ سَعِیٌّ مَعْنَى اَمِیْدِ  
 اور نزدیک ہونا۔ عَشْرٌ اَنْ اَمِیْدٌ کَہ۔  
 شاید کہ۔ یہ ایک فعل ہے جو امید یا خواہش ظاہر  
 کرتا ہے جس کے بعد ضمیر یا کوئی اہم ہو کر تاسے  
 کہنی آتا بھی ہوتا ہے۔  
 عَشْرٌ کَھُوْنَسَلَا پَرِنْدَیْ کَا اَشِیَانِہ۔  
 عَشْرٌ یَعِشِرُ عَشْرًا دَسْوَالٌ حَصْرٌ وَصُولٌ  
 کرنا۔ عَاشِرٌ مَعَاشِرَةٌ کَسی کَے سَاخَہ مَلَآ اَکْھِنَا  
 میں جوں رکھنا۔ بے تکلفی کی ملاقات رکھنا۔ عَشْرٌ  
 دَسْوَالٌ حَصْرٌ اَعْمَدٌ اَنْ عَشْرَةٌ بَاہِی مِیْل  
 ملاپ۔ دوستی۔ رفاقت۔ عَاشِرٌ دَسْوَالٌ نِیْر  
 عَشْرُونَ مِیْنٌ مَآشِرٌ اَوَّ اَہِ مَحْرَمٌ کَا دَسْوَالٌ  
 دن۔ مَشِیْرٌ رِیْقٌ دَوَسْتٌ عَشِیْرَةٌ مِیْل  
 گوت مَعْشَرٌ قَوْمٌ جَاعَتٌ مَعْشَرٌ دَسْوَالٌ  
 حصہ۔ عَشْرٌ عَشِیْرٌ دَسْوَالٌ حَصْرٌ بَہ حَصْرٌ  
 اَعْشَارِیٌّ عِلَامٌ اَعْشَارِیٌّ مَعَاشِرٌ رِیْقٌ

مَعَاشِرَةٌ رِفَاقَتٌ بَہ تَکَلْفٌ دَوَسْتِیٌّ ضَلَامٌ  
 عَشِیْقٌ یَعِشِقُ عِشْقًا بَہت مَحَبَّتٌ کَرِنَا  
 محبت میں حد سے گزرنا۔ تَعِشِقُ عِشْقٌ کَا اَنہَا کَرِنَا  
 عشق جتلانا۔ عَاشِقٌ مَحَبَّتٌ کَرِنَہِ وَاَلَا مَعْشُوقٌ  
 جس سے محبت کی جائے۔ عَشِیْقٌ عَاشِقٌ کِی جَمْع۔  
 عَاشِقَةٌ بَاہِمٌ اَیْکٌ دَوَسْرَیْ سَے عِشْقٌ کَرِنَا۔  
 عِشِیْقٌ یَعِشِیْقُ وَتَعِشِیْقُ رَاتٌ کَا کَھَا اَکْھَا  
 عِشَا وَعِشَاوَةٌ شَبٌ کَوْرِیٌّ رَاتٌ کَے قَوْتٌ  
 کچھ دکھائی نہ دینا۔ عِشَاوَةٌ شَامٌ کَا کَھَا اَکْھَا۔ طَحَامٌ شَبٌ  
 صَلَوَةٌ اَلْعِشَاوَةُ نِمَازٌ خَفِیْقٌ۔  
 عَصَبٌ یَعْصِبُ عَصَبًا بَہی بَانَدٌ حَصَا۔  
 تَعَصَّبَ کَسی اَصْوَالٌ کِی نَہَا یَہِیْشُ اَوَّ اَسْتَعْلَالٌ  
 کے ساتھ تائید کرنا۔ اِہْنِی رَسْمٌ جَاہِیْرٌ عَصَبٌ  
 جَمْعٌ اَصْبَابٌ پَھَا۔ نَسٌ عَصَابٌ مَرْکُوبٌ  
 اَسْتَعَصَبَ دَسْوَالٌ بَہی کَرِنَہِ وَاَلَا۔ نِیْر  
 عَصَبِیٌّ مَسْوَبٌ عِصْبٌ مَعْصِیْبٌ مِیْل  
 داری۔ اِہْنِی پَارِی کِی طَفَرَارِیٌّ حَاہِیْتٌ  
 عَصَا یَعِشِرُ عَشْرًا عِشْرٌ  
 چوڑے ٹوٹنے کے بعد۔ عِشْرٌ مَانٌ عِشْرٌ  
 کَا وَقْتٌ۔ عِشْرٌ مَسْوَبٌ مَسْوَبٌ مَسْوَبٌ  
 عِصْفَرٌ کَسْمٌ کَارَنگٌ رَہِ دَرَنگٌ مَعْصَرٌ  
 کَسْمٌ رَنگٌ ہُوَا۔ عِصْفُوْرٌ کِی عِصَابِیْرٌ جِزْبَا  
 عِصْمٌ یَعِصِمُ عِصْمًا۔ بَہَا۔ حِذَانَتٌ  
 کرنا۔ عِصْمَةٌ بَہی۔ پَاکِیْرٌ۔ مَسْوَبٌ مَسْوَبٌ  
 مَسْوَبٌ مَسْوَبٌ



عَطِفَ يَعْطِفُ عَطْفًا وَعُطُوفًا إِلَى مَأْلٍ  
 ہونا۔ جھکنا۔ مڑ جانا۔ اِنْعَاطِفٌ جھکنا۔ مڑنا۔ مائل  
 ہونا۔ مُنْعَاطِفٌ جھکنے والا۔ مائل ہونے والا۔  
 عَطُوفَةٌ وَعَاطِفَةٌ عَوَاطِفٌ۔ رحم  
 ہمدردی۔ رشتہ۔ طرفداری۔ شفقت۔  
 عَطْفٌ وَحَرْفٌ عَطْفٍ وہ حرف جو جملوں یا  
 کلموں کو ملانے کا کام دے۔ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ  
 عطف کیا گیا۔

عَطَّلَ يَعْطِلُ عَطْلًا بے کار ہونا۔  
 بے شغل ہونا۔ تَعَطَّلَ بے کار کر دینا۔ مَعْطَلٌ  
 بے کار کیا ہوا۔ کسی کام سے فارغ کیا ہوا۔ تَعَطَّلَ  
 بند کر دینا۔ بے کار ہونا۔ عَطْلَةٌ چھٹی۔ تعطیل  
 بے کاری۔ فرصت۔ رخصت۔

عَطَا يَعْطُو عَطْوًا لَاتِحًا سَیْنَا۔  
 آعَطَى يُعْطِي اِعْطَاءً دَیْنَا۔ تحفہ بخشنا۔  
 تَعَطِيَّةٌ بَخْشِشٌ۔ مَعْطَى دینے والا۔ بَخْشُوا  
 عَطَا جَ عَطَايَا۔ بَخْشِشٌ۔ رِزْقٌ۔ عَطَا۔  
 عَظَمَ يَعْظُمُ عِظْمًا وَعِظَامَةً بَظَا  
 ہونا۔ عَظْمٌ عِظَامٌ بَظِيٌّ۔ عَظِيمٌ بَظَا۔  
 آعْظَمٌ بَہت بَظَا۔ عَظْمَةٌ بَظَانِيٌّ مَعْظَمٌ  
 تعظیم کیا ہوا۔ عَظِيٌّ بَظِيٌّ۔ تَعْظِيمٌ بَظَانِيٌّ  
 عَفِيفٌ يَعْفِفُ عِفْفًا وَبِغْفَافًا نَابِزًا كَامٌ  
 بچنا۔ پرہیزگار ہونا۔ عَفِيفٌ مَوْنٌ عَفِيفٌ  
 نَابِزًا تَوَاتُوسٌ مَعْفُوٌّ بَخْشِيٌّ وَالَا۔

عَاصِمَةٌ وَارِ الْخِلَافِ۔ عَاصِمٌ بچانے والا۔  
 مَعْصِمٌ پناہ ڈھونڈنے والا۔

عَصَا۔ وُتْدَا۔ لَاطِيٌّ۔ چھڑی۔  
 عَصِيٌّ يَعِصِي مَعْصِيَّةً۔ نافرمانی کرنا۔  
 اطاعت سے نکلنا۔ عَاصِيٌّ نافرمانی کرنے والا۔  
 عِصْيَانٌ نافرمانی۔ مَعْصِيَةٌ۔ مَعْصِيَّةٌ ج  
 مَعْصِيٌّ گناہ۔ لغزش۔

عَضَدٌ يَعْضُدُ عَضْدًا۔ مدد کرنا۔ مدد دینا  
 عَضُدٌ جَ اَعْضَادٌ مَوْنٌ عَا كِنْدَهَا۔ مَعْضُدٌ  
 جس سے مدد حاصل کی جائے۔

عَضَنٌ يَعْضِلُ عَضْلًا۔ روکنا  
 مَعْضِلَاتٌ مشکل مسائل واحد مَعْضِلَةٌ  
 عَضُوٌّ جَ اَعْضَاءٌ جِمْ كَا حَصَّةٌ۔ جوڑ۔ کسی عمت  
 کارکن۔ عضو۔ جماعت کا فرد۔

عَطِرٌ يَعْطُرُ عَطْرًا۔ مہکنا۔ خوشبودار ہونا  
 عَطْرٌ عَطْرٌ عَطْرٌ عَطْرٌ۔ عَطْرٌ عَطْرٌ  
 فروش۔ گندھی۔ پسناری۔ مَعْطَرٌ خوشبودار کیا  
 ہوا۔ تَعَطِيرٌ خوشبودار کرنا۔ کسی کو خوشبودار گانا  
 عَطَارِدٌ۔ سَبْرِيْلَکٌ ایک سیارہ کا نام ہے۔

عَطِشٌ يَعْطِشُ عَطَشًا جَبِيْنًا لَیْنَا۔  
 مَعْطِشٌ جَبِيْنًا لَیْنَا۔ عَطِشٌ وَ  
 عَطِشٌ جَبِيْنًا لَیْنَا۔  
 عَطِشٌ يَعْطِشُ عَطَشًا بَیْسًا ہونا۔

عَطِشٌ بَیْسٌ۔ عَطِشٌ بَیْسٌ کی مرض۔ بچوں  
 کی پیاس کی بیماری

لَا عَفْوَةَ بَدَلُو۔ تَعْفُوٌّ۔ بَدَلُو دَارِ ہونا۔ مَتْعَفُوٌّ بَدَلُو دَارِ ہونا



مَعْلُولٌ - علت والا - عَلَا لَنَّهُ بِمَارِي - وَكَمْ  
عَلَّتْ الْعِلَلُ - اصل باعث اور سبب -  
مُعْتَلٌّ - وہ لفظ جس میں کوئی حرف علت یعنی  
الف - واؤ - اور یا میں کوئی ایک ہو -

عَالِجٌ مُعَالِجَةٌ وَعِلَا جًا بِمَارِي كِي دَا  
كِرْنَا - مُعَالِجٌ عِلَاجٌ يَدُوُّ كِرْنَهُ وَالَا - عِلَاجٌ وَ  
مُعَالِجَةٌ دَاوُدُ وَرَمَن - دَوَا دَارُو - بِمَارِي كَا  
عِلَاجٌ - تَدَابِيرٌ - عِلَاجٌ قَدَّ جَارَهُ مَعْلَلٌ كَهْرِي -

عَلِيٌّ يَخْلُقُ عِلْفًا بِ جَمْنَا - لُكَا نَا بِكِرْنَا  
عِلَافٌ تَعَلَّقَ بِبَارٍ - لَكَوْ - تَعَلَّقَ بِج  
تَعَلَّقَاتٌ - لَكَوْ - بِبَارٍ - مَعْتَلِقٌ - لُكَا مَوَا  
جَمْنَا مَوَا - عِلَافَةٌ عِلَافٌ بِجَمْتٍ - تَعَلَّقَ

عِلْفَةٌ بَوَكٌ - مَعْلَفَةٌ وَهِيَ عَوْرَتٌ بِسَمْعِ خَاوَدٍ  
بِهِ طَلَقٌ وَبِهِ سَاغِي - مَعْلَفَاتٌ لُكَا نِي  
بَوِي سَ تَعَلِّقٌ - مَخْتَصِرٌ كِرْنَا - تَعَلِّقَةٌ كِتَابٌ  
كَأَحْشِيَةٍ - كِتَابٌ كَا ضَمِيمَةٍ - عِلْفَةٌ - حَنْظَلٌ مَرَّةً

عَلِمَ - يَعْلَمُ عَلَمًا - نَشَانٌ كِرْنَا - عَلِمَ  
يَعْلَمُ عَلَمًا جَانَا - عَلِمَ كِنَا - يَقِينٌ كِرْنَا -  
عَلِمَ يَعْلَمُ تَعَلِيمًا - سَكْمَانَا تَعْلِيمِيَا  
تَعْلَمَ يَتَعَلَّمُ تَعَلَّمَ مَا يَكِنَا - تَعْلِيمٌ

حَاصِلٌ كِرْنَا - عَلِمَ بِعِلْمٍ وَاقْفِيَّتْ عِلْمٌ  
عَمَتْ - عَلِمَتْ بِعِلْمٍ نَشَانٌ بِسَمْعِ عِلْمٍ -  
عِلْمِيٌّ نَسُوبٌ بِعِلْمٍ - عَالِمٌ بِعِلْمٍ جَانَا  
وَالَا - عَالِمٌ بِعِلْمٍ وَبِيَا - عَالِمٌ عَلَمًا نَشَانِي

عَلَامٌ وَعَلَامَةٌ زِيْرُ دَسْتِ عَالِمٍ وَفَاعِلٌ  
عَلِيمٌ - جَانَا وَالَا - آعَلَمُ خُوبٌ جَانَا وَالَا  
تَعْلِيمٌ تَعْلِيمَاتٌ وَتَعَالِيمٌ سَكْمَانَا -  
مَعْلَمٌ مَعَالِمٌ - آثَارٌ - نَشَانِي - مَعْلَمٌ سَكْمَا  
بَوَا - مُعَلِّمٌ أَسْتَاذٌ - مَعْلُومٌ جَانَا بَوَا - مَشْهُورٌ  
فَعْلٌ مَعْرُوفٌ - اِسْتَعْلَامٌ عِلْمٌ جَانَا -

عَلَنَ يَعْلِنُ - عِلَانِيَةٌ - مَشْهُورٌ بِبَوَا -  
عَامٌ بِبَوَا - اِعْلَانٌ اِنْهَارٌ كِرْنَا - مَشْهُورٌ كِرْنَا - اِعْلَانٌ  
مُعْلِنٌ - اِعْلَانٌ كِرْنَا وَالَا - عِلَانِيَةٌ كَهْلَمٌ كَهْلَمٌ  
عَلَى يَعْطُوْا عِلْوًا - اَوْ سَجَا بِبَوَا - بَلَدٌ بِبَوَا

عُلُوٌّ بَلَدِي - عَالِيٌ بَلَدٌ - اِعْلَاءٌ بَلَدٌ كِرْنَا -  
اِسْتِعْلَاءٌ بَلَدِي جَانَا - اَعْلَى بِهْتٌ بَلَدٌ -  
عَمِيٌّ بَلَدٌ اَوْ رِشَانٌ وَالَا - تَعَلَّى بَلَدِي كَا دَعْوِي  
بُرَا نِي كِي دَوِيْنِكٌ بَارْنَا - عُلُوِيٌّ - حَضْرَتٌ عَلِيٌّ رَضِيٌّ اَشْرَفٌ

عِنْدَ كِي اَوْلَادِ كَا اِيْكٌ فِرْدٌ - تَعَالَى وَهِيَ بَلَدٌ بِهْتٌ -  
مُنْعَالٌ بَلَدٌ اَوْ رَفْحٌ - اَعْلَى مُوْنَتٌ عُلْيَانٌ  
اَعَالِيٌ بَلَدٌ - عِلَافَةٌ بَلَدٌ مَرْتَبَةٌ - عِلَادَةٌ اِمْنَانَةٌ  
بَزَادٌ جِيْزٌ - عِلِّيُّوْنَ - اَسْمَانٌ مِيْنِ سَبْكِ بَلَدٌ مَقَامٌ  
عُلُوَانٌ - عِنْوَانٌ - سِرْنَا مَه - سِرْمِي -

عَلَى يَخْلُقُ عَلِيًا وَعُدِيًّا - جِرْهْنَا - جَوْنِيٌّ بِرَجَانَا  
لُغَةُ الْعَرَبِيَّةِ الْاَسَاسِيَّةُ بِاِخْلَاصَةِ الْمُنْجِدِ رُوْمَسَلِ  
چھتارہے گا - اور نئے سال کی جلد روم کے پچھے رسالہ  
میں بھی چھپ رہا ہے - خریدار آرڈر بھیج کر منگوائیں -

مینجر

## تعلیم القرآن المجید

اپریل تا ستمبر ۱۹۲۹ء

## لغات العربیۃ الاساسیۃ یعنی تلخیص العربیۃ یا خلاصۃ المتجددو

عَامٌ - عام۔ جو خاص نہ ہو جمع عَوَامٌ - عَامَّةُ النَّاسِ  
عام لوگ۔ سب لوگ۔ عَامِحٌ - عامی۔ اُن پڑھ سناؤ  
عَمِيْمٌ - عام۔ عالمک۔ اَعْمَدٌ - زیادہ عام۔ مَعَمَمٌ  
پگھلی والا۔ سردار بنایا ہوا۔

اَعْمَشٌ - کمزور دُھندلی نظر والا۔

عَمَدٌ - عَمِيْدٌ - عَمَدًا - سہارا لینا۔ عَمَدٌ وَ  
تَعَمَّدٌ وَ اِعْتَمَدٌ لِ وَاِلٰی قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔  
اِعْتِمَادٌ - کسی پر سہارا لینا۔ ٹیک لگانا۔ بھروسہ کرنا۔  
عَمَدٌ وَ تَعَمَّدٌ - ارادہ۔ عزم۔ منصوبہ۔ قصد۔  
عَمَدًا - جان بوجھ کر۔ بِالْاِرَادَةِ تَعَمَّدَ - ستون پھوٹی  
ٹیک۔ عَمَادٌ - وَ عِمَادَةٌ وَ اِعْتِمَادٌ - بیٹم  
عُمُوْدٌ - کھمبا۔ ستون۔ عَمِيْدٌ - قوم کا خاص آدمی۔  
حَطٌّ - عُمُوْدِيٌّ خط عمودی۔ مَعْتَمَدٌ - قائم مقام  
نمائندہ۔ نائِبٌ - تَعَمَّدٌ - ارادہ۔ قصد۔

عَمْرٌ - يَعْمُرُ عَمْرًا - آباد کرنا۔  
عِمَادَةٌ - آبادی کرنا۔ تَعْمُرُ عَمْرًا - آباد کرنا  
تعمیر کرنے والا۔ عُمُوْدٌ - آباد۔ اِسْتَعْمَادٌ - آبادی یا سہارا  
عَمْرٌ وَ عُمُرٌ - اَعْمَارٌ - عمر۔ زندگی۔ زمانہ جیسا  
مَعْمَرٌ - عمر دیا ہوا۔ ایسی زندگی والا۔ عُمَرٌ - کلمہ کثیف  
کا نفل ج جو ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس میں طواف کعبہ  
اور صفائے سروہ کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے۔

عَلَى - اوپر۔ پر۔ ساتھ۔ واسطے۔ لئے۔ اگرچہ۔ از بسکہ۔  
حالانکہ۔ گو۔ مطابق اس کے حرفِ جار ہے۔ مندرجہ ذیل  
معنوں استعمال ہوتا ہے۔ (۱) اِسْتَعْلَاً جیسے عَلٰی  
ظَهْرِ الدَّابَّةِ (گھوڑے کی پیٹھ پر) (۲) مَصَاحِبَةً  
جیسے بَدَلِ الْمَالِ عَلٰی فَقْرِهِ (اس نے مال باوجود  
احتیاج کے خرچ کیا) (۳) بِمَعْنَى عَنِ جیسے رَضِيَ عَلَيَّ  
(اس سے خوش ہوا) (۴) بِمَعْنَى تَعْلِيلٌ جیسے عَلٰی مَا  
تَضَرَّبْتَنِيْ مَجھے کیوں مارتے ہو؟ (۵) بِمَعْنَى ظَرْفِيَّةٍ  
جیسے دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰی غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا  
شہر میں بے خبری میں داخل ہوا۔ (۶) مُوَافَقَةً بَاءً جیسے  
اَرَكَبَ عَلٰی اِسْمِ اللّٰهِ - خدا کا نام لے کر سوار ہوا) (۷)  
بِمَعْنَى اِسْتِزَاكٍ جیسے عَلٰی اِنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ  
مِّنْ بَعْدِهِ۔ لیکن گھر کا قرب دُوری سے بہتر ہے (۸)  
کبھی مِّنْ کے بعد فوقی کے معنی دیتا ہے۔ جیسے اَقَامَ  
مِّنْ عَلٰی جَنَاحِ الْهَيْكَلِ وَہ ہیکل کے بازو پر کھڑا  
ہوا۔ عَلَيْهِ وَ بِہ۔ وہ مجھے دے دو۔ عَلَيْكَ زَيْدًا  
زید کو چھٹا بناؤ۔

عَمْرٌ يَعْمُرُ عَمْرًا - عام ہونا۔ حاوی ہونا  
تَعَمَّمٌ - عام باندھنا۔ عَمْرٌ جِجَا - عَمَّةٌ پھوپھی ج  
اَعْمَامٌ - عَمَّاتٌ - عَمَامَةٌ ج عَمَامَةٌ پگھلی  
دستار۔ عَمُوْقًا - عام طور پر۔ عَمُوْقِيٌّ - عام غیر معمولی  
آبادی

عَمَّارَاتٌ جمع عَمَارَاتٌ آبادی مکان۔ عاصِرٌ ہانڈ  
بنے والا۔ مُسْتَحْمَرَاتٌ ج مُسْتَحْمَرَاتٌ نوآبادی  
نئی بستی۔ کالونی۔ Colony  
عَمْرَانٌ تہذیب۔ شائستگی۔ آبادی۔ عَمَّادٌ  
معمار۔ عمارت بنانے والا۔ مَعْمَرٌ آباد۔ خوش حال۔  
عَمَّقَ يَعْمُقُ عُمُقًا گہرا ہونا۔ عمیق ہونا۔  
عُمُقٌ جَ أَعْمَاقٌ گہرائی۔ رستہ۔ عمیق۔ گہرا۔  
تَعَمَّقُ گہری نظر سے دیکھنا۔  
عَمِلَ يَعْمَلُ عَمَلًا کام کرنا۔ پھانا کرنا۔  
تَعَامَلٌ باہم عمل میں لانا۔ ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا۔  
اِسْتِعْمَالَ کسی سے خدمت طلب کرنا۔ خدمت چاہنا کسی  
کو عمل میں لانا۔ تَعْمِيْنٌ عمل کرنا عَامِلٌ عمل کرنے والا۔  
مَحْمُولٌ جسر کوئی عمل کیا جاوے جسے تختہ مشق بنایا  
جاوے۔ حَمَسٌ جَ أَعْمَانٌ کام۔ خدمت۔ ملازمت۔  
ایک لفظ کا دوسرے پر عمل۔ عَمَّالٌ کارندے۔ کارکن  
عَامِلٌ۔ عَمَلَةٌ کماشتے۔ مَعْمَلٌ جَ مَعَامِلٌ کارخانہ  
کام کرنے کی جگہ۔ مَعَامِلَاتٌ تجارت لین۔ دین۔ باہم  
عمل درآمد۔ مَجْلِسٌ عَامِلَةٌ ارکان مجلس۔  
عَمَّالِيْقٌ جَ عَمَّالِقَةٌ بنی اسرائیل کے مقابلہ میں ایک  
فلسطینی پہاڑی وحشی قوم۔  
عَمِيٌّ يَحْمِيُّ عَمِيًّا اندھا ہونا۔ نابینا ہوجانا  
أَعْمَى وَ مَحْمِيَانٌ اندھا۔ نابینا۔ مَعْمِيٌّ اندھا  
بیاہوا۔ دُھندلا۔ غیروانح۔ پوشیدہ۔ چھپایا ہوا۔ ایسا  
سوال یا تجارت جس کا مطلب اور حل مشکل سے معلوم  
ہو سکے۔ پیسہ ان۔ پیچیدہ بات۔

عَمَّنْ حرف جار ہے اس کے معنی امثلہ ذیل سے ظاہر  
ہیں (۱) مجاوزت کے لئے جیسے تَرَكَكَ عَنْ مَكَانٍ  
فِيهِ ضَيْمٌ۔ اس جگہ سے آگے گزرا جس میں ظلم  
ہو۔ (۲) بَدَلٌ جیسے يَوْمٌ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ  
نَفْسٍ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ دے گی  
(۳) تَغْلِيْلٌ جیسے مَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ  
إِضْطِرَّارٍ۔ اس نے اس کو بے بس ہو کر کیا۔ (۴) بعد  
جیسے عَنْ قَلِيْلٍ تَرَى۔ تھوڑی دیر کے بعد تو جان لگا  
(۵) اِسْتِعْلَاءٌ جیسے أَحْبَبْتُ الْإِحْسَانَ إِلَى  
الْفُقْرَاءِ عَنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ میں نے فقیروں  
پر احسان کرنے کو کثرت سے نماز پڑھنے پر ترجیح دی (۶)  
اسم یعنی جانبِ جَلَسَ۔ عَنْ يَسَادِ الْخَلِيْفَةِ  
وہ خلیفہ کی بائیں جانب بیٹھا۔ مِنْ وَعَنْ بعینہ ہی طرح  
عَنْ وَعَنْ عُنُونٌ عُنُونًا کتاب کا عنوان یا  
سرخی لکھنا۔ عُنْوَانٌ جَ عُنَاوِيْنٌ سرخی۔ عِنَانٌ  
جَ أَعْنَةٌ لگام۔ عُنَّةٌ نامردی۔ مَحْمِيْنٌ نامرد۔  
تَعْنُونٌ کسی کے نام سرخی لکھنا۔ نَسُوبٌ کرنا۔  
مَعْنُونٌ۔ نَسُوبٌ کی ہوئی۔ عَائَةٌ۔ پیڑو۔  
عُنْبٌ جَ أَعْنَابٌ انگور۔ عُنْبَرٌ۔ عنبر۔ ایک سیا  
سفیدی مائل خوشبو جو سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔  
عُنَابٌ۔ عناب کا پھل اور پودا۔  
تَعَنَّتْ۔ ستانا۔ دُكَّ دِينَا۔ عِنْدَ۔ ہم طرف سے  
پر پاس۔ سامنے۔ ساتھ۔ اوپر۔ آس پاس۔ بوقت  
وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے۔  
عِنْدَ يَحْنِدُ عُنُودًا۔ دانستہ حق کا مقابلہ کرنا  
سچ کی سخت مخالفت کرنا



تَعْوِيذٌ تَعْوِيذٌ بِجَاوِ كَا ذَرِيْعَةٍ جَزْجَانِ عَوْدٌ وَعِيَاذُ بِنَاءٍ  
بِنَاءِ عَاوِزٍ وَآعَادٍ سَتَعَارُ دِيْنًا عَارِيَةً دِيْنًا عَوْدَةٌ  
عَوْدَةٌ عَوْدَةٌ عَوْرَتُ مَرَدٍ كَيْ يَحْبِبَ هُوَ اِعْضَاءُ شَرْمِ كَاهِ  
عَارِيَةٌ اُوْدَهَارُ دِيْنًا اِسْتِعَاذَةٌ كُوْغْرِغُوْغِي  
معنی میں استعمال کرنا جیسے بہادر کو شیر کہنا، مُسْتَعَاذٌ  
عَارِيَتٌ لِيَا يُوْا عَادُ شَرْمٍ اَعْوَدُ بَهِيْنَكَا يَكُ حِشْمٍ

عَاَضٌ يَعْوُضُ عَوَضًا عَوَضٌ دِيْنًا عَوُضٌ وَ  
مَعَاوِضَةٌ بَدَلٌ قَامَ مَقَامَ عَوُضٍ بَدَلٌ اِيْكَ دُوْكَ  
كَيْ بَدَلٌ يَسْ عَوَّاقٌ تَعْوِيْقًا كَيْ اَمْرٌ سِي رُوْكَ نَا بَا  
رُكْنًا عَوَائِقُ رُوْكَ نَا وَ اَلِيْ بَا رُكْنِيْ وَ اَلِيْ

تَعْوِيْقٌ رُكَاوْطٌ اُوْا نِيْ كَا عَمَلٌ رُوْكَ تَقَامُ

عَالٌ يَعْوُلُ عِيَالًا كَيْ اِيْ رُوْرُشُ كَرْنَا

عَائِلَةٌ خَانْدَانٌ بِيُوِيْ عِيَالٌ كَنْبٌ بَالٌ بِيْ كَهْرُ كَيْ  
اُوْمِيْ كَهْرِيَارٌ عَاوَرَجٌ اَعْوَا مَرُّ سَالٌ

عَاوَنٌ يُّعَاوِنُ مُعَاوَنَةً مَدُوْ دِيْنًا تَعَاوُنٌ  
اِيْكَ دُوْ سَرِيْ كِي اِعَاَنْتُ كَرْنَا اِسْتِعَاْنَةٌ مَدُوْ طَلَبُ  
كَرْنَا اِعَاَنْتٌ مَدُوْ كَرْنَا مُعَاوِنٌ مَدُوْ كَارٌ مُعَاوِنٌ  
عَوْنٌ عَاوَانٌ مَدُوْ كَارٌ مُعَاوِنٌ مُعَاوِنَةٌ  
مَسْتَكْبِرِيْ عَوَانٌ جُوَانٌ دَرْمِيَانِيْ عَمْرُ كِي مُعِيْنٌ  
مَدُوْ كَارٌ مُسْتَعَاْنٌ جَسٌ سِي مَدُوْ نَا كِي جَا سِي

عَابٌ يَّعِيْبُ عَيْبًا عَيْبٌ وَ اِرْهُوْنَا عَيْبٌ  
عُيُوْبٌ نَقُورٌ نَقُصٌ بَرَانِيْ عَعَائِبٌ بَرَانِيْ  
كَنَاهٌ نَقُورٌ مُعَاوِيَةٌ نَامٌ اِيْكَ جَلِيْلِ الْقَدْرِ صَحَابِيْ كَا  
عَاَرٌ يَّعِيْرُ عَيْرًا مَلَامَتُ كَرْنَا بَرَا بَهْلَا كَهْنَا

عَاَرٌ شَرْمٌ ذَلَّتْ حَقَارَتٌ عَاوَنَتُكَ قَابِلُ شَرْمٍ بَا

عَبَادٌ بِدِمَعَاشٍ اُوَادِرُ كَرُوْ هُوْ شِيَارٌ چَالَاكٌ بِيْ  
چَلَنِيْ كَهُوْنِيْ وَ اَلَا عِيَادٌ وَ مَحْيَا دٌ نَابٌ يَا وَ زَنٌ جَا  
كَ اَلَا كَسُوْنِيْ كَيْ كَا سَجٌ يَا جَهُوْطٌ مَعْلُوْمٌ كَرْنِيْ كَيْ لِيْ قُرْآنِ كَرِيْمِ  
يَا حَدِيْثُ شَرِيْفِ كَا بِيَانُ كَرُوْهُ مَعْيَارٌ وَ لِيْلُ يَا بَرْمَانُ يَا  
عِيْسَى حَضْرَتُ مَسِيْحِ عَلِيْهِ السَّلَامُ كَا نَامٌ جُوْ قُرْآنِ كَرِيْمِ  
مِيْنُ وَ اَرُوْ سِي عِيْسَى وَ سُوْبُ سِي عَلِيْهِ السَّلَامِ عِيْسَى  
عَاَشٌ يَّعِيْشُ عَيْشًا زَنْدُ كِي بَسْرُ كَرْنَا مَعِيْشَةٌ  
زَنْدُ كِي بَسْرُ كَرْنَا زَنْدُ كِي كُذَارْنَا نَعِيْشٌ اَرَامٌ اُوْرَا  
سِي زَنْدُ كِي بَسْرُ كَرْنَا عِيَاَشٌ زَنْدُ كِي كُوْ اَلِيْ تَلِيْ سِي  
بَسْرُ كَرْنَا وَ اَلَا عِيْشٌ وَ عِيْشَةٌ زَنْدُ كِي بَسْرُ كَرْنَا كَا  
طَرِيْقٌ مَعَاَشٌ كُذْرُ اُوْقَاتُ كَيْ اَسْبَابٌ

عَانَ يَّعِيْنُ عَيْنًا نَظْرُ لُكَا نَا عِيْنٌ جَمْعُ  
عِيُوْنٌ اَنُكْ حِشْمٌ ذَاتُ اَلَا عِيَانٌ بَرُ سِي  
اُوْمِيْ مُعَايِنَةٌ اَنُكُوْ سِي بَعُوْرٌ وَ كِيْنَا تَعِيْنٌ  
مَقْرُرُ كَرْنَا عِيَانًا كَهْلًا كَهْلًا صَافٌ تَعِيْنٌ تَقْرُرُ  
مَعِيْنٌ مَقْرُرُ كِي اُوْا مُتَعِيْنٌ كَيْ كَامٌ بِرُ مَقْرُرُ كِيَا  
اُوْا مَحُوْدٌ عِيْنٌ مَوْنِيْ اَنُكْ وَ اَلِيْ حُوْرٌ عِيَانٌ وَ اَضْحُ  
صَافٌ مَعِيْنٌ صَافٌ شَافٌ عِيْنٌ اَصْلُ ذَا  
عِيْنٌ اَلِيْقِيْنٌ حَقُّ اَلِيْقِيْنِ پُوْرَا پُوْرَا اِيْقِيْنِ  
عِيْنٌ عَاْعِيْنٌ اَنُكْ حِشْمٌ عِيُوْنٌ حِشْمٌ

## بَابُ الْغَيْبِ

غَبٌّ يَّغِيْبُ غَيْبًا اِيْكَ وَ نٌ كَيْ بَعْدُ تِپْ كَا  
اَنَا اِيْكَ وَ نٌ چھوڑُ كَرُوْ دُوْ سَرِيْ وَ نٌ مَلَا قَاتُ كَرْنَا

حَمِّيْ اَلِيْغِيْبِ تَبِيْرٌ وَ نٌ كَا بَخَارٌ تَبِيْرٌ بَخَارِيْ

شَطْرُ الْغَيْبِ دُيُورًا بَخَارًا -  
 غَبْرٌ يَغْبُرُ غُبُورًا وَآغْبِرُ مِثْلِي كَيْ رَنُوكَا  
 کا ہو جانا۔ بہت غبار آلود ہو جانا۔ آغْبِرَاءُ زَيْنِ -  
 غبار مٹی۔ خاک کی رنگ۔ غَبْخَبٌ گلے کے نیچے لٹکنے  
 والا گوشت۔ غَبْنٌ خرید و فروخت میں دھوکا۔  
 يَوْمُ التَّغَابُنِ۔ قیامت کا دن۔ افسوس کا دن  
 غَبَاوَةٌ۔ گند ذہن ہونا۔ بے سمجھ ہونا۔ جہالت بیوقوفی  
 ساوہ لوجی۔ غَبِيحٌ۔ گند ذہن۔ جاہل۔ بے وقوف۔  
 غَدَّرَ يَغْدِرُ غَدْرًا - دھوکا دینا کسی کے ساتھ  
 بے وفائی کرنا۔ غَادِرٌ۔ خائن۔ غَدَّادٌ بہت بے وفا  
 دھوکے باز۔ غَدِيرٌ جوہڑ۔ تالاب۔  
 غِذَاءٌ جِغْذِيَةٌ خِرَاكٌ - غِذَاءٌ يَبِيئَةٌ غِذَاكَ  
 فعل یا عمل۔ غِذَائِيٌّ نسوب بہ غذا۔ اِغْتَرَبَ دھوکا  
 کھانا کسی کے فریب میں آ جانا۔ غُرَّةٌ چاند کی پہلی تاریخ  
 پور۔ نور کا ترکا۔ غُرُورٌ فضولیات (اردو تکبر۔ خود  
 پسندی) صَغْرُورٌ۔ دھوکہ خوردہ۔ متکبر۔ جبوٹا۔ خود  
 پسند۔ اِرَاغْرُورٌ دھوکے کا گھر۔  
 غَرَبٌ يَغْرِبُ - غُرُوبًا - سُورَجٌ كَا دُوبٌ جَانَا  
 غَرَبٌ مغرب۔ مَغْرِبٌ جِ مَغَارِبٌ وہ چہت  
 جہاں پر سورج ڈوبتا نظر آتے ہے۔ مَغْرِبِيٌّ نسوب  
 بہ مغرب۔ مغرب کا رہنے والا۔ غَرِيْبٌ مسافر پر وہی  
 جِ غُرْبَاءُ غُرْبِيَةٌ - مَسَافِرِيٌّ - اِجْنَبِيَّتٌ -  
 غُرْبِيَةٌ جِ غَرَائِبٌ کوئی عجیب اور غیر معمولی واقعہ  
 غُرَابٌ جِ غُرْبَانٌ كَوَا - غُرَيْبٌ مَسْكِيْنٌ -  
 غُرْبٌ - نَادِرٌ - مَفْلَسٌ - جِ غُرْبَاءُ

غُرْبَالٌ غُرَابِيْلٌ جُمْلَتِي -  
 غُرْغُرَةٌ مرنے کے وقت حلق سے جو آواز نکلتی  
 ہے۔ گلے میں آواز کا خراٹہ۔  
 تَغْرِيبٌ پرندوں کا چھپانا۔  
 غُرَيْرَةٌ قُوْرَتٌ - جَبَلِيٌّ مَزَاجٌ يَخْصَلْتُ  
 غُرَيْرِيٌّ - اصل - فطری - جبلی - پیدائشی طبیعی  
 غَرَضٌ يَغْرِضُ غَرَضًا - کام کرنا - غَرَضٌ  
 مقصد - تدعا - نصب العین - حاجت - غُرْفَةٌ رَج  
 غُرْفَاتٌ - بالافانہ۔  
 غَرِقٌ يَغْرِقُ غَرَقًا - پانی میں ڈوبنا۔  
 غَرِيْقٌ ڈوبنے والا - اِغْرَاقٌ مِبَالِغٌ - حد سے تجاوز  
 اِسْتِغْرَاقٌ شمول - شامل ہونا - صرف او تو میں کسی  
 جلسے کا کل افراد پر شامل ہونا - مَسْتَغْرِقٌ مَنہمک  
 ڈوبا ہوا - مشغول۔  
 مَغْرَمٌ جِ مَغَارِمٌ جِرْمَانَةٌ قَرْضٌ - تَاوَانٌ -  
 غُرَيْدٌ قَرْضَوَاهُ - تدعی - غَدْرًا صَدْرًا بَرْدًا اِغْرَاءً  
 اُكْسَانًا - بَرَايَكُمَا كَرْنَا - تَرْغِيْبٌ غَمْرَاءٌ رُوشَن تَابَان  
 مَحْزَلٌ يَغْزِلُ غَزْلًا وَ اِغْتَزَلَ عَاشِقًا  
 اور عورت کو مائل کرنے کے لیے اِسْتِغْرَاقٌ  
 عاشقانہ اشعار یا نظم کہیں عورت کی توجہ دینی  
 اور جہاں کے ذکر پیشکش اشعار کہتے ہیں عاشقانہ ناز  
 میں گفتگو کرنا۔ عشقیہ شاعری۔  
 غَزَالٌ ہرن - مَغْزَلٌ جِ مَخَارِزٌ - تَكْلَافٌ  
 غَزِيٌّ يَغْزُو غَزْوًا - دُشْمَنٌ كَالْمَلِكِ يَغْزِي  
 کرنے کے لیے باہر جانا۔



عَزْوَةٌ عَزَّوَانَتْ۔ ایک فوجی حملہ۔ اپنے دین کو بچانے کے لئے اسلامی جنگ۔ عَزَائِي عَزَائِي دین اسلام کی حفاظت کے لئے لڑنے والا۔ مَعَزِي مذہبی جنگیں اور اسلام کی حفاظت کی لڑائیاں۔ عَسَانٌ شام کا ایک عربی قبیلہ جو عیسائی ہو گیا تھا۔ غَسَلٌ يَغْسِلُ غُسْلًا وَغَسَلٌ۔ دھونا۔ پاک کرنا۔ غَسَلٌ۔ اسٹنان غسل۔ غَسَلٌ وَغَسَلٌ۔ مردہ کو نہلانے والا۔ مَغْسُولٌ لَانْدَرِي۔ مَغْسُولٌ دھویا ہوا۔ غَمْسٌ يَغْمِسُ غَمْسًا۔ قریب دینا۔ دھوکہ دینا۔ مَغْمِسُوشٌ کھوڑ۔ جعلی بناوٹی۔

غَمْسِيٌّ يَغْمِسُ غَمْسِيًّا دھانکنا۔ چھپانا۔ غَمْسَاءُ عَجِ غَمْسِيَّةٌ ڈھکن۔ پردہ۔ لثافہ۔ غَمْسِيٌّ بھوشی غَمْسَةٌ۔ غم۔ اندوہ۔ ناراضگی۔ گلوگیر رنج۔ غَضَبٌ يَغْضِبُ غَضَبًا وَرَاغْتَصَبٌ مِنْ جَبْرٍ اچھین لینا۔ غَضَبٌ زبردستی چھیننا۔ چھپی کر نوا ظالم۔ مَغْضُوبَةٌ چھینی ہوئی چیز۔ غَضُّ الْبَصَرِ آنکھ نیچی رکھنا۔ آنکھ پھیر لینا۔

غَضِبٌ يَغْضِبُ غَضَبًا عَلٰی كَسِيٍّ پرناراضی ہونا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ جن پر غصہ اور ناراضگی کی جائے غَضِبٌ۔ غصہ اور ناراضگی کرنے والا۔

غَضْمَقْرٌ شَرِبْرٌ۔ مَحْمَقْرٌ طَبِيْسٌ۔ چمک پشیر۔ مَقْرٌ غَفَرٌ يَغْفِرُ غَفْرًا وَغَفْرًا نَاوٌ مَغْفِرَةٌ لِی درگذرنا۔ بخش دینا۔ معاف کرنا۔ غَافِرٌ۔ غَفُورٌ غَفَّارٌ۔ کنا ہوں کو بخشنے والا۔ خداوند کریم۔ مَغْفُورٌ بخشا ہوا۔ اِسْتِغْفَارٌ کنا ہوں کی بخشش یا معافی طلب کرنا

مُسْتَعْفِرٌ کنا ہوں کی بخشش مانگنے والا۔ غَفِيْرٌ سب کے سب۔ سب کو شامل۔ جَعَدٌ غَفِيْرٌ بڑا گروہ بھٹیڑ۔ جوم۔ انبوہ۔ صِغْفَرٌ نود۔ زردہ وغیرہ۔ غَفْلٌ يَغْفُلُ غَفْلَةً۔ بے پرواہ ہونا۔ تَغَافُلٌ جان بوجھ کر یا بناوٹی طور پر بے پرواہی کرنا۔ چشم پوشی غَافِلٌ۔ غفلت کرنے والا۔ لاپرواہ۔ مَغْفَلٌ۔ سادہ لوح۔ بے وقوف۔

غَلَّةٌ آدنی مالکذاری۔ غَلَّةٌ۔ آغْلَالٌ۔ گروں کے لئے لوبے کا طوق۔

غَلَبٌ يَغْلِبُ غَلَبَةً۔ جیتنا۔ زیر کرنا۔

غَالِبٌ جیتنے والا۔ مَغْلُوبٌ زیر کیا ہوا۔ ہارا ہوا۔ آغْلَبٌ اکثر۔ غَالِبًا اکثر۔ عام طور پر۔ تَغْلِبُ قِتْلٌ سے غالب آنا۔ مغلوب کرنا۔ غَطْفَانٌ۔ یہود مدینہ کا ایک قبیلہ غَلَطٌ يَغْلِطُ غَلَطًا۔ بھول جانا۔ غلطی کرنا۔

مَغَالِطَةٌ ایک دوسرے کو غلطی میں ڈالنا۔ غَلَطٌ جِ آغْلَاطٌ غلطی۔ چوک۔ بھول۔ فروگذاشت۔

تَغْلِيْطٌ۔ کسی سے غلطی کرنا۔ غلطی کی تردید کسی کو غلطی کرنے کا الزام لگانا۔ اُغْلُوْطَةٌ جِ اُغْلُوْطَاتٌ مشکل مسئلہ۔ وہ سوال یا عبارت جو کسی کو غلطی میں ڈالتی ہے۔

غَلَطٌ يَغْلِطُ غَلَطَةً گاڑھا ہونا۔ سخت ہونا۔ گنہا ہونا۔ موٹا ہونا۔ تَغْلِيْطٌ گاڑھا کرنا۔ مَغْلِطٌ گاڑھا کرنے والا۔ مَغْلِطَاتٌ۔ گندی گالیاں۔ تَغْلِيْطُ الْقَلْبِ سخت دل۔ بد اخلاق۔ غُلْخَلَةٌ۔ شور و غوغا۔

غِلَافٌ۔ ڈھکنا۔ خول۔ میان۔ کیس۔ غُلْفَةٌ ختنہ کا چھوٹا

اَخْلَاقٌ مُشْكَلٌ كَلَامٌ مُخْلَقٌ مَبْهُمٌ - غیر واضح - پُرِيجٌ  
 مُشْكَلٌ بِمَجِيْدَةٍ - غَلَامٌ مَرَجٌ غِلْمَانٌ لَطِيْفٌ - نوجوان - اَمْرٌ  
 اِغْلَامٌ - لَوَاطِئٌ - بہائم سے وطنی - شہوت  
 پرست ہونا - مُخْلِمْ - لَوَاطِئٌ كَا عَادِي - لونڈ سباز  
 بد معاش - بد ذات - سخت شہوت پرست -  
 غُلُوٌّ - حدود معینہ سے تجاوز کرنا - غَالِيٌ نَذِيبٌ  
 سخت جوشیلا اور حد سے گذرنے والا - مِبَالِغٌ كَرْنَةٌ وَالِ  
 غَلْبَانٌ - جوش مارتا - اُبَالٌ - غَالِيَةٌ خَوْشِيُوَارٌ مَشَاكٌ  
 عنبر اور کافور سے ملی ہوئی خوشبو - قِيَمَتِي سَامَانٌ - غَالِيٌ  
 ہنگامہ گراں - غَمٌّ جَ غَمُوٌّ اِنْدُوہ - رنج - مَلَالٌ  
 مَغْمُوٌّ مَرَجٌ وَاِنْدُوہ میں مبتلا - غَمَامٌ سَفِيْدَاوَالِ  
 بادل - غَمْرَاتٌ اَلْمَوْتِ - موت کی تکلیف -  
 غَمْرَةٌ اَنَّهُ كَا اِسْاَرَه - غَمَارٌ اَنَّهُ سَہْتٌ اِسْاَرَه  
 کرنے والا - غَامِضٌ جَ غَوَامِضٌ - مُشْكَلٌ كَمْطَنٌ -  
 باریک - پوشیدہ - اِغْمَاضٌ چشم پوشی - اَنَّهُ بَہْرُ كَرْنِ  
 غَمٌّ بَہْرٌ بَکْرِيَاں - غَنِيْمَةٌ جَ غَنَائِمٌ لَوَطٌ  
 مال غنیمت جو جنگ میں لائق آئے - غَنِيْمٌ مَقَابِلٌ  
 مُغْتَنِمٌ غَنِيْمَتٌ سَمَحَا اَثْوَا غَنِيْمَتٌ جَانَنٌ وَالِ -  
 مَغَانِمٌ مَالٌ غَنِيْمَتٌ - غَنَّةٌ نَاكٌ سَ اَوَا زِنَا كَالِنَا  
 خُنْجٌ نَا زُو خَزُوہ -  
 غَنِيٌّ يَغْنِي غِنًا مَالِدَارٌ هُوَا - غَنِيٌّ مَالِدَارٌ  
 مُغْنِيٌّ مَالِدَارٌ كَرْنَةٌ وَالِ - اَغْنِيًّا مَالِدَارٌ لَوَاكٌ -  
 غِنًا كَا - مُغْنِيٌّ كُوِيَا - دُوْمٌ - مُطْرِبٌ كَا بُوَا  
 اِسْتِغْنَاءٌ لَ اِپْرُوَانِي  
 نَحَاتٌ يَخُوْتٌ غُوْتًا - اِدَاوِيْنَا - مَدُو كَرْنَا -

اِسْتِغْنَاءَةٌ - مدد چاہنا - فریاد کرنا - غُوْتٌ فریاد کرنا -  
 مَدُو بِنِي وَالِ اِسْتِغْنِيْتُ - مَدُو نَاكُنِي وَالِ - فریاد کرنا  
 غِنِيَاتٌ مَدُو نَاكُنِي كِي بِكَار - اِسْتِغْنِيْتُ مَدُو كَرْنَةٌ وَالِ -  
 غَارٌ - غَارٌ كَرْنَهَا - غُوْرٌ فِكْرٌ - بَجَارٌ - غَارِيٌّ كَرْنَهَا  
 وَالِ اِسْتِغْنِيْتُ كَرْنَهَا - غَوَامِضٌ - غُوَطٌ لَكَا نِي وَالِ  
 غُوَطَةٌ مَشَقٌ كَا كَرُو نَوَا رَجٌ - غَذِيُوَطٌ - اِيكٌ  
 مرض جس میں جامع کرتے وقت پاخانہ نکل جاتا ہے -  
 غُوْعَاءٌ لَوَاكُوں كَا كَلْمٌ مَدُو كَرُوہ - شُوْرُو غُوْعَا - مُجْمُوْلٌ جَ  
 غَيْبِلَانٌ - بَہُوْتٌ - مِتٌ - دِيُو - غَايِلَةٌ مَصِيْبَتٌ -  
 ہلاکت - اَمْرٌ غَيْبِلَانٌ - كَبِيْرٌ كَا وِرْحَتٌ -  
 غَوِيٌّ يَغْوِي غَيًّا كَرَاهٌ هُوَا - غَوَايَةٌ كَرَاهِيٌّ  
 مَغْوِيٌّ كَرَاهٌ كَرْنَةٌ وَالِ - اِغْوَاءٌ كَرَاهٌ كَرْنَةٌ - رَاہٌ سَ  
 بَھْطَا نَا - مَغْوِيَّةٌ كَرَاهٌ كِي هُوِيٌّ - غَاوِيٌّ كَرَاهٌ كَرْنُوَا  
 غَوِيٌّ - دَسُو كَرْنُوَا دِيُو وَالِ -  
 غَابٌ يَغِيْبُ غَيْبًا - غَيْرٌ حَاضِرٌ بَا نَا - نَا اِبٌ  
 ہوجانا - غَيْبٌ - پوشیدہ چیز - رَاہٌ بِيْدٌ غَايِبٌ  
 غَيْرٌ حَاضِرٌ - غِيُوْبٌ وَاہٌ غِيَا رِبٌ غِيُوْبَةٌ اِسْتِ  
 پَچھے کسی کی بڑائی بیان کرنا - غِيُوْبَةٌ بَہِيَا بُو شِيُوہ  
 ہوجانا - مَغِيْبَةٌ جَ مَغِيْبَاتٌ بُو شِيُوہ  
 غِيْبٌ كِي اَمُوْرٌ غِيْبٌ - غِيْبٌ اَمُوْرٌ كِي اَمُوْرٌ  
 مَغِيْبٌ ہُو -

غَارٌ يَغَارُ غَيْرَةً عَلِيٌّ وَرَبٌّ رِقَابَتِ  
 كِي بَاعَثَ عُوْرَتِ يَامُرُو كَا جَلْنَا كَرْنَهَا - اَغْنِيًّا  
 تَبِيْلٌ كَرْنَا - بَدَلٌ لِيْنَا - اَغْنِيًّا - بَدَلًا جَانَا - تَبِيْلٌ بُو شِيُوہ  
 غِيُوْبٌ اَغْنِيًّا دُو سَرَا كُوْنِي دُو سَرَا شَخْصٌ سُوَا كِي بُو شِيُوہ

وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، اور اس کے سوا۔ غَيْرَةٌ۔ حسد  
 بوش۔ حمیت۔ غلطی پر غصہ۔ مقدس چیزوں کی  
 نگرانی۔ مُتَغَيِّرٌ بدل جانے والا۔ غَيُورٌ جوشیلا  
 غیرت کھانے والا۔ مُغَيِّرٌ بدلنے والا۔ مُتَغَايِرٌ  
 خلاف۔ مُغَايِرَةٌ غیر ہونا۔ خلاف ہونا۔  
 غَيْظٌ۔ غصہ۔ ناراضگی۔ خشم۔ غَضَبٌ۔  
 غَيْمٌ بادل۔

غَايَةٌ غَايَاتٌ۔ سرحد۔ ميعاد۔ حد۔ در وقت  
 یا جگہ کی، منزل مقصود۔ مطلب۔ آخری مقصد۔  
 انتہاء۔ اِلْغَايَةُ اس درجے تک۔ اس حد تک۔ یہاں تک

## بَابُ الْفَاءِ

ف۔ یہ حرف کئی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔  
 (۱) حرف عطف کے طور پر جو ترتیب کے معنی بھی دیتا  
 ہے۔ جیسے قَامَ زَيْدٌ فَعَمَرَ پیلے زید کھڑا ہوا۔ پھر  
 عمر کھڑا ہوا۔ (۲) سبب کے لئے ضروریہ فہرات  
 اس نے اس کو مارا اس لئے وہ مر گیا۔ (۳) شرط کے جواب  
 کے لئے جیسے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاَحْفَظُوا  
 وَصَايَايَ یعنی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری  
 وصیتوں کو یاد رکھو (۴) بمعنی اِسْتِنَافٍ یعنی نئے  
 معنوں کے لئے جیسے يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۵)  
 زائد جیسے زَيْدٌ فَلَا تَضْرِبْهُ زید کو نہ مار۔  
 فَوَاعِدٌ اَفْعِدَةٌ۔ دل۔

فَاَزٌّ۔ چوہا۔ سَمُّ الْفَارِ چوہے کا زہر۔ یعنی سنگھیا  
 یا شگ بوشید زرد۔ سَمٌّ۔ سیاہ چار رنگ کا ہونا

فَأَسٌّ کھاڑا۔ مَرَاكُش کا ایک شہر۔ قَالَ جِ قَالَ جِ  
 قال بشگون۔ تَفْأُكٌ۔ قال کے طور پر اچھے شگون  
 کے رنگ میں۔

فَاتِحٌ يَفْتَحُ فَتْحًا۔ دروازہ کھولنا۔ فتح کرنا۔  
 قبضہ میں لانا۔ فَتْحٌ فَتُوحٌ جیت۔ کسی ملک یا  
 شہر کی فتح۔ نصرت۔ مدد۔ فَتُوحَاتٌ فتح کئے ہوئے  
 علاقے۔ فتوحات۔

فَاتِحَةٌ زَبْرٌ۔ فَاتِحٌ جیتنے والا۔ مَفْتُوحٌ۔ مَفْتُوحٌ  
 جیتا ہوا۔ کھلا ہوا۔ فَاتِحَةٌ فَوَاتِحٌ۔ ابتداء تہید  
 و بیا چہ۔ قرآن کریم کی پہلی سورۃ۔ فَتَاخٌ خوب کھولنے  
 والا۔ اِفْتِتَاخٌ۔ ابتدائی رسم۔ ابتداء۔ اِفْتِتَاخٌ رسم  
 مِفْتَاخٌ جِ مَفَاتِيحٌ وَ مَفَاتِيحٌ۔ کلید۔ کنجی۔ چابی  
 مَفْتُوحٌ۔ زبر والا حرف۔ فتح کی حرکت والا حرف۔  
 فَتْرَةٌ درمیانی فاصلہ۔ فَتْوَرٌ۔ سرد مہری۔ سستی۔  
 بے توجہی۔ خرابی۔ خلل۔ کمزوری۔

فَتَشٌ وَ فَتَشٌ يُفْتِشُ تَفْتِيشًا۔ جانچنا  
 پڑتال کرنا۔ تحقیقات کرنا۔ مُفْتِشٌ۔ جانچ پڑتال کرنے والا  
 تفتیش کرنے والا۔ تحقیقات کرنے والا۔  
 فَتَقٌ بھٹ جانا۔ باد خایہ۔ یعنی خصیہ بڑھ جانے کی  
 مرض۔

فَتَلٌ يُفْتَلُ تَفْتِيلًا۔ رسی بٹنا۔ فَتِيلَةٌ  
 چراغ کی بیٹی۔ مُفْتَلٌ رسی بٹنے والا۔ مُفْتَلٌ بٹا  
 ہوا دھاگا۔

فَتْنٌ يُفْتِنُ فِتْنَةً۔ جلانا۔ پگھلانا۔  
 فَتْنٌ يُفْتِنُ وَ فَتْنٌ وَ اِفْتِنٌ۔ فتنہ کرنے والا  
 دینا۔ مائل کرنا۔ فریبہ کرنا۔ فتنہ کرنے والا۔





إِفْرَاطٌ - زیادتی۔ تَفْرِيطٌ کمی کرنا۔ اِفْرَاطُ فَرِي بھي  
 ہي اِفْرَاطُ تَفْرِيطُ کا بگڑا ہوا ہے۔ مَفْرُوطٌ حد سے تجاوز  
 کرنے والا۔ فَرَّخٌ ج فَرَّوْعٌ - شاخ۔ ماخُوذٌ کسی چیز  
 کا بالائی حصہ۔ عورت کے بال۔ اصل چیز سے علیحدہ۔  
 تَفْرِيعٌ شاخ نکالنا۔ مُتَفَرِّعٌ شاخیں نکالنے والا۔  
 کئی شاخوں والا۔

فِرْعَوْنٌ ج فِرَاعِيْنٌ - مصر کے قدیمی بادشاہوں کا  
 لقب۔ ظالم۔ مغرور۔

فَرَّغَ يَفْرِغُ فَرَائِغًا - خالی ہونا۔ فارغ ہو جانا  
 اِسْتَفْرَغَ خَالِيًّا كَرْنَا - خالی کرنا۔ بول و براز کی حاجت  
 سے فراغت چاہنا۔ فَارِغٌ خَالِيٌّ بے کار۔ فَرَائِغَةٌ  
 فرصت۔ فَرَاعٌ خَلْوٌ ختم۔ اختتام۔ فراغت۔

فَرَّقَ يَفْرِقُ فَرَقًا وَفُرْقَانًا بَيْنَ تَقْسِيمِ  
 کرنا۔ دو چیزوں میں فرق کرنا۔

فَرَّقَ ج فُرُوقٌ - فرق۔ جدائی۔ اختلاف۔ امتیاز  
 تَفْرِيقٌ تَقْسِيمٌ کرنا۔ حصوں میں دینا۔ فَارِقٌ فرق  
 کرنے والا۔ فَاوْرِقٌ حق اور باطل کے درمیان فرق  
 کرنے والا۔ اَلْفَاوْرِقُ اُمُورٍ کا فیصلہ کرنے والا۔ حضرت  
 عمر رضی اللہ عنہ کا لقب۔ فُرُقَانٌ حق اور باطل کے درمیان  
 امتیاز کا ذریعہ فِرْقَةٌ ج فِرَقٌ جماعت۔ گروہ۔

فِرْقَةٌ اِفْتِرَاقٌ - فِرَاقٌ - جدائی۔ فِرَاقٌ - مفارقت  
 فَرِيقٌ علیحدہ گروہ۔ جماعت۔ مُفَارَقَةٌ جدائی  
 علیحدگی۔ اَلْفُرْقَانُ قرآن شریف۔ اَلْمُفَارِقُ بَدَلٌ  
 مُتَفَرِّقٌ علیحدہ علیحدہ۔ اَلْجَدُّ جَدًّا  
 اِفْرِيقِيَّةٌ بَرِّ اَعْلَمُ اَفْرِيقَةٍ۔

فَرَّقِدَانِ قَطْبِ شَمَالِيٍّ كَيْ قَرِيبٍ دَوْنِ سَائِرِ جَوْ قَطْبِ  
 ستارہ کے قریب ہوتے ہیں۔ فَرَّقِ سَائِرِ فَرَانِسِ كَالْمَكِ -  
 فَرَادِيهِمْ۔ خوشی۔ خوبصورتی۔ مہارت۔ فَرَادِيهِمْ پوسٹیں  
 بنانے والا۔ ایک نحوی کا لقب۔

فَرَّي يَفْرِئُ قَرِيًّا عَلِيًّا - اِقْتَرَأَ كَسِيًّا بِرَبِّتَانِ بَانِدِ  
 الزام لگانا۔ مُفْتَرِيٌّ جھوٹ باندھنے والا۔

مُفْتَرِيَّاتٌ - جھوٹ۔ جھوٹی باتیں۔ فَرَّيٌّ بَهْتَانٌ  
 اور جھوٹی بات۔ حیران کن بات۔

فَرَّعَ يَفْرِعُ فَرَّعًا مِّنْ دُرِّهِ - خُونٌ كَهَانَا -  
 فَرَّعٌ - ڈر۔ خوف۔ دہشت۔ بول۔

فَسَسَ - شَرَحَ تَرْكِي لُطْفِي - فُسْتَقِيٌّ وَفَسْدٌ تَقِيٌّ بِسَا  
 درخت یا پھل فُسْتَقِيٌّ - پستہ کے رنگ والا۔

فُسْتَانٌ - عورت کا لباس یا بیٹی کوٹ۔  
 فُسْتَحَةٌ - رحمت کا دن عید فصح کا روز کشادگی۔

كُنْسِيٌّ جَسَدٌ - بَوَكٌ - قَسِيمٌ - بَوَلٌ - مَكَانٌ - وَسِيمٌ جَسَدٌ  
 قَسَمَةٌ يَدُ مَسْمُومَةٍ قَسَمِيًّا - بَدَا بَدَا كَرْنَا قَانُونَ كَوْنُومِ  
 کرنا۔ عہد کو توڑ دینا۔

فَسَدٌ يَفْسِدُ فَسَادًا - فُسَادٌ - فُسَادٌ  
 فُسَادٌ - شَرَارَةٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ  
 فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ

فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ  
 فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ  
 فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ

فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ  
 فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ  
 فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ - فُسَادٌ



فَطَنَ يَفْطِنُ فِطْنَةً - ذہین اور تیز فہم ہونا۔

فِطْنَةٌ - سمجھ - تیز فہمی - جہارت - ذہانت

فَطَانَةٌ عَقْلِيَّةٌ - ذہین کی

فَعَلَ يَفْعَلُ فِعْلًا كَرْنَا - انجام دینا - کام کرنا۔

فِعْلٌ جَ آفَعَالٌ - کام - عمل - فَاعِلٌ کرنے والا۔

فَعَّالٌ - خوب کرنے والا - اور سر انجام دینے والا۔

مَفْعُولٌ اسم مفعول - کیا ہوا کام۔

إِنْفَعَالٌ جَ إِثْفَعَالَاتٌ اثر پذیری - شرمندگی۔

بیرونی حالات کا نشان یا اثر اور اِفْتِعَالٌ جعلی طور پر

بنانا۔ مُفْتَعِلٌ جعل ساز۔ مَفْعُولٌ بِهِ فعل متعدی

کا مفعول۔ آفَعِي جَ آفَاعِي سیاہ سانپ

فَعْفُودٌ - شاہان چین کا لقب۔

فَقَدَ يَفْقِدُ فَقْدًا نَائًا - کھونا کسی چیز سے محروم

ہونا۔ مَفْقُودٌ گم شدہ۔ غیر حاضر۔ فِقْيِدُ العَصْرِ

وَالنَّهْرِ لاثانی۔ بے ثانی۔ فَاقِدٌ حاجت مند۔

تَفَقُّدٌ - مہربانی۔ فُقْدَانٌ نقصان۔ عدم موجودگی۔

فَقْرٌ يَفْقِرُ فِقْرًا - غریب ہونا۔ مفلس اور نادار

ہونا۔ فِقِيرٌ جَ فُقَرَاءٌ - فقیر۔ درویش۔ فِقْرَةٌ

جَ فِقْرَاتٌ - جملہ۔ فقرہ۔ کلام کا اچھا جملہ۔

فَقْرُ الدَّمِ - خون کی کمی کی مرض۔ ذُو الْفِقْرِ حَضْرَتُ

علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا لقب۔

فَقِيهٌ يَفْقَهُ فِقَاهَةً - علم دین والا ہونا۔ فِقِيهَةٌ

تَفَقُّهُ - علم دین پڑھنا۔ فِقِيهٌ جَ فُقَهَاءٌ - علم دین

وفقہ و قانون شریعت کا عالم۔ قانون دان۔ ذہین۔ شرعی

قانون کا علم مع دلائل رکھنے والا۔

فَقَاهَةٌ - دانائی۔ جہارت۔ فقط۔ بس۔ صرف۔

إِنْفَكْتُ - الگ ہونا۔ کھلنا۔ آزاد ہونا۔

غَيْرٌ مُنْفَكٍ نَ ثَوْبٌ وَالْأ - (تعلق) فُكْتُ نَ

فُكُّوكُ جَبْرًا فُكْتُ الزَّهْنِيْنَ - رہن کو چھڑا لینا

فَكَرَ يَفْكِرُ فِكْرًا سَوْجِيًا - بچارنا۔ غور کرنا۔

تَفَكَّرَ کسی معاملہ پر سوچنا۔ بچارنا۔ فِكْرٌ جَ أَفْكَارٌ

خِیَالٌ - تصور۔ غور۔ فُكْرٌ - سوچ۔ بچار۔ فُفْكِرٌ

سوچنے بچارنے والا۔ غور و فُكْرٌ سے اعلیٰ مطالب

پیدا کرنے والا۔ تَفَكَّرَاتٌ فُكْرٌ - سوچ۔ بچار۔

فُكْرَاتٌ

فِكَةٌ يَفْكُكُ فِكَاةً خوش مزاج ہونا۔ مہمی

مذاق کرنا۔ فَاكِهَةٌ جَ فَوَاكِهٌ - مہرہ۔ مٹھائی۔

پھل فروٹ۔ فُكَاةٌ جَ فُكَاةَاتٌ خوش طبعی

چہل۔ خوش مزاجی ظرافت۔

فَلَحٌ يَفْلَحُ فَلْحًا - چیرنا۔ پھیلنا۔ جوتنا۔

فَلَاحٌ کامیابی۔ کامرانی۔ خوشحالی۔ بقار۔ نجات

فَلَاحٌ - کسان۔ زمیندار۔ کاشتکار۔ فَلَاحَةٌ

کاشتکاری۔ مَفْلِحٌ کامیاب ہونے والا۔ فَلَاحٌ

حاصل کرنے والا۔ مُحَمَّدٌ مَفْلِحٌ

علیہ السلام کا ایک الہامی نام جو اس سے پیشتر نہ

پڑھانہ سنا گیا۔ اسی مبارک نام پر خاکسار نے

اپنے اکلوتے بیٹے کا نام محمد مَفْلِحٌ رکھا جو ماشاء

اللہ تعالیٰ ۲۴ جون ۱۹۲۹ء کو چودہ سال کی

عمر کا ہو گیا ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ بِيَارِكِ

الْمُقَدَّرِيْنَ الَّذِيْنَ اَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ



النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالسُّلَاحِيْنَ  
 بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ  
 فَلَاحٍ وَ اِنْفَالِيَّةٌ - فَلَاحٌ بِالْقَوَّةِ كَمَا مَرَضٌ فِي مَبْتَلَا  
 هُوَ اِنْفَالِيَّةٌ اِدْرَتَاكُ كِي مَرَضٍ - مَفْلُوْجٌ فَلَاحٌ كِي مَرَضٍ  
 وَاللَّاءُ قَلِيْدَاتٌ وَهَاتِيْنَ مَعْدِنِيَاتٍ - قَالُوْذَةُ قَالُوْذُ  
 اَفْلَسٌ مُفْلِسٌ اَوْ قَلَاشٌ هُوَ غَرِيْبٌ هُوَ اَفْلَسٌ  
 اِفْلَاسٌ غَرِيْبٌ مَفْلِسٌ - مُفْلِسٌ غَرِيْبٌ نَادَا  
 فَلَاحٌ قَالُوْسٌ بِسِيَّةٍ مَجْهَلِيَّةٍ كَا چَانْدَه -  
 فَلَاسْفَةٌ - فَلَاسْفِيٌّ - قِيْلَسُوْتُ جَ فَلَاسْفَةٌ  
 فَلَاسْفَةُ كَا عَالَمٍ - فَلَاسْفِرٌ اِسْطُوْكَ اَلْقَبْ - فَلَاسْفُ مَرَجٍ  
 دَارُ فَلَاسْفِيْنَ كِهَا - فَلَاسْفِيْنٌ قَلَسْطِيْنٌ  
 فَلَاسْفِيْنِيٌّ - فَلَاسْفِيْنٌ كَا بَاشْتَنْدَه -  
 فَلَاسْفٌ يَفْلِسُ فَلَاسْفًا - پِهَارْتَا - چِيْرَا - فَلَاسْفُ  
 رَا ت كُو پِهَارْتَا كَر صَبِيْح كُو نُوْدَا ر كَر نِيْ وَاللَّاءُ - وَ اِنْدَه كُو چِيْر كَر  
 سَبْر سُوْنِي نَكَا لِيْ وَاللَّاءُ - فَلَاسْفُ جَ اَفْلَاكُ - آسْمَانُ  
 فَلَاسْفِيٌّ نَجْمِيٌّ - فَلَاسْفُ - جِهَار كَشْتِي -  
 فَلَاسْفٌ مُؤْتٌ فَلَاسْفَةٌ عِلْمٌ سِي كِنَا يَه مَعْ نِي فَلَاسْفُ -  
 فَلَاسْفٌ مَنَه - سُوْرَاخ - دَرِيَا كَا دِيْبَنَه - فَلَاسْفُ جَ اَفْنَانُ  
 وَ اَفَانِيْنٌ - قَسْمٌ - شَاخٌ - طَرِيْقَه - سِرٌ - عِلْمٌ كِي شَاخٌ -  
 دَا اَلْفُنُوْنُ - مَدْرَسَةُ الْعُلُوْم - يُوْنِيُوْر سْتِي -  
 قَفْنٌ - كُوْنَا كُوْنٌ هُوْنَا - قَسْمَا قَسْمٌ هُوْنَا -  
 مُتَفَتِيٌّ - دَهْوَكُ كِي چَال چَلِيْنِيْ وَاللَّاءُ - عِلْمٌ كِي مُخْتَلَفٌ شَاخُوْنُ  
 فِيْ مَابَهْر - كُوْنَا كُوْنٌ حَالَا ت وَاللَّاءُ -  
 فَلَاسْفَانٌ - چَايِيْ سِيْنِي كِي پِيَا لِي - قُسْدُقٌ - سَرَايِي  
 هُوْسُلٌ - جِنْگَلِي بَادَا م كَا پِهَل جُو مَقْوِي دِمَاغٌ وَ حَافِظَةٌ  
 ذِهْنٌ هِي

فَانُوْسٌ - جِهَارٌ - لَاسْفِيْنٌ -

قِنِي يَفْنِي قِنَاً - بَرِيَادٌ هُوْنَا - فَنَا هُوْنَا - نَحْمٌ هُوْنَا  
 جَانَا - چَك جَانَا - مَعْدُوْمٌ هُوْنَا - فَانِي - فَنَا اُوْر نَا بُوْد  
 هُو جَانِيْ وَاللَّاءُ - فَنَاءٌ هَلَاكُتٌ اِفْنَاءٌ تَبَاهُ كَرْنَا -  
 فِهْرِيْسٌ - فِهْرِيْسْتٌ جَ فِهْرِيْسٌ - مَضَايِيْنُ  
 كِي فِهْرِيْسْتٌ - فِرُوْدٌ سِيَا بَهْرٌ - رَحِيْبٌ  
 فِهْمٌ يَفْهَمُ فِهْمًا - سَمْحَانٌ مَحْسُوْسٌ كَرْنَا -  
 تَفْهِيْمٌ سَمْحَانٌ - فِهْيَمٌ صَا حِبٌ عَقْلٌ وَ فِهْمٌ -  
 مَفْهُوْمٌ مَطْلَبٌ - مَرَادٌ - تَصْوَرٌ مَعْ نِي - مَدْوَلٌ - وَ هُو  
 مَطْلَبٌ جُو كِسِي لَفْظِيَا عِبَارَتٌ سِي سَمْحَا جَانِيْ -  
 اِسْتَفْهَامٌ - دَرِيَا فِت كَرْنَا - سَمْحَانٌ چَا بِنَا - اَطْلَاعٌ  
 يَا وَ اَقْفِيْتٌ حَا صِل كَرْنِي كِي حَسْتُو - سُوَالٌ -

فَاتٌ يَفُوْتُ فَوْتًا - كَذْرَجَانَا - وَفَاتٌ يَا جَانَا  
 تَفَاوُذٌ - اِيْكٌ دُوْسَرِيْ سِي مُخْتَلَفٌ هُوْنَا - مُتَّفَاوُذٌ  
 اِيْكٌ دُوْسَرِيْ سِي عَلِيْحِدَه - فَوْتِيْبِيْجٌ - پُوْدِيْبِيْجِي كِي اِيْكِي  
 فَوُجٌ جَ اَفْوَاْجٌ فُوْجٌ - شَكْرٌ  
 اَفَاْدَةٌ يَفِيْدُ اِفَادَةً - فَاْنْدَه دِيْنَا - نَفْعٌ پُرْبِيْجَانَا -  
 اِسْتِفَادَةٌ يَسْتَفِيْدُ اِسْتِفَادَةً - فَاْنْدَه حَا صِل  
 كَرْنَا - فَاْنْدَةٌ جَ فَوَاْئِدٌ نَفْعٌ - فَاْنْدَه - مُفِيْدٌ فَاْنْدٌ  
 فَاْنْدَه دِيْنِيْ وَاللَّاءُ - مُسْتَفِيْدٌ فَاْنْدَه حَا صِل كَرْنِيْ وَاللَّاءُ  
 اِفَادِيٌّ نَسُوْبٌ بِ اِفَادَةٍ  
 فَاْرِيْفُوْرٌ فَوْرًا اَوْ فَوْرَانًا - كُوْلُنَا يَا اِبْلَتَا  
 فَوْرًا اِيَا عَلِي الْفَوْرِي - نُوْرًا - جِلْدِي سِي - فَوْرِي -  
 فَوَاْرَةٌ - وَ هُو پَانِي جُو زِيْن سِي اَجْمَل كَر نِي كِي - چَشْمٌ  
 سُوْنَا - جَهْرْنَا - فَاْدَةٌ چُو سِيَا - فَاْرَجٌ فَيْرَانٌ - چُو بَا

افاضۃ فیض پہنچانا۔ استیفاضۃ فیض حاصل کرنا۔  
فیض ج فیوض بیتات۔ کیاض سخی کریم النفس  
فیض ج اقبال۔ اقبالی۔

## بَابُ الْقَافِ

قَابٌ پلٹ۔ قَبِيَّةٌ ج قُبَّتٌ وَقِيَابٌ گنبد قبۃ۔  
گنبد والی عمارت۔ شامیانہ۔ پالکی۔

قَبْمٌ یَقْبِمُ قَبْمًا۔ بد صورت و بد شکل ہونا۔ رُؤَا  
اور ذلیل و خوار ہونا قَبَاحَةٌ رِیَاسِیٌّ۔ برائی۔ بد عینی  
خرابی۔ قَبِیْمٌ مَوْتٌ قَبِیْحَةٌ بد شکل۔ بجا۔ خراب  
قَبْرٌ یَقْبِرُ قَبْرًا۔ دفن کرنا۔ مُرَدٌ کَوَاکِرًا  
قَبْرٌ ج قُبُورٌ قَبْرِ کَوْرٌ۔ مزار۔ مرقد  
مَقْبَرَةٌ ج مَقَابِرٌ۔ قبرستان۔ گورستان۔  
قُنْبُرَةٌ ج قَنَابِرٌ۔ چنڈول۔ چکور۔ چکاوک۔  
قُبْرُسٌ جزیرہ سائپرس قَبْرُسٌ سِیٌّ قَبْرُسٌ کا  
باشندہ

قَبَسٌ یَقْبِسُ قَبْسًا۔ لگ لینا یا مانگنا  
اِقْتَبَسَ عِلْمٌ سِیْکُنًا۔ اقتباس یا اقتساب کرنا۔  
مُقْتَبَسٌ۔ انتخاب کردہ۔ قَبَسٌ ج قَبَسَاتٌ  
جس کا کوئی شوق انگلیوں پر لگانا۔

قَبَسٌ یَقْبِضُ قَبْضًا۔ پکڑنا۔ پکڑنا۔ پکڑنا۔  
اِقْتَبَاضٌ سکر جانا گھٹ جانا۔ جَمِدٌ اَلْقَبْرُوحُ  
قَابِضٌ اَلْقَبْرُوحُ سے پکڑنے والا مَقْبُوضٌ مَوْتٌ  
مَقْبُوضَةٌ۔ قبضہ میں آئی ہوئی چیز مَقْبِضٌ  
سکر ہوا۔ سمٹا ہوا۔ قَبْضَةٌ۔ گرفت۔ قبضہ۔

قَاذٌ یَفُوزُ قَوْزًا۔ کامیاب ہونا۔ فتح حاصل کرنا۔  
فَاوِزٌ کامیاب۔ مَقَاذَاتٌ کامیابیاں۔ قَوْزٌ  
فتح۔ بچاؤ۔ نجات۔ قَوْضٌ تَفْوِیضًا سپرد کرنا سونپنا  
مَفْوُضَةٌ۔ سپرد کردہ۔ قَوْطَةٌ خُصْبٌ۔ کیپورا۔  
فَاقٌ یَفُوقُ قَوْقًا۔ غالب آنا۔ سبقت لے جانا  
اوپر ہونا۔ قَوْقِیَّةٌ غلبہ۔ تَفْوُوقٌ۔ غلبہ۔ فَاوِیْقٌ  
عمرہ۔ اعلیٰ۔ فَاوِقَةٌ مغلس۔ غربت۔ اِفَاوِقَةٌ بیماری  
سے صحت۔ قَوْقٌ۔ اوپر قَوْقَانِیٌّ اوپر والا۔

فی حرف بحر ہے اسم پر داخل ہو کر آخری حرف کو زیر  
دیتا ہے ذیل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے فی  
الْبَيْتِ گھر میں۔ (۱) درمیان جیسے فی النَّاسِ (لوگوں  
کے درمیان) (۲) یعنی الی جیسے ذَا یَدَا فِی جَنْبِهِ  
(اس نے اپنا ہاتھ جیب کی طرف لوٹایا) (۳) یعنی صحاح  
جیسے جَاءَ فِی الْقَوْمِ (وہ قوم کے ہاتھ آیا) (۴) تعیل  
جیسے قَتَلَ فِی ذَنْبِهِ (وہ اپنے گناہ کے باعث مارا گیا  
(۵) مَقَابِسَةٌ جیسے مَا عَلِمَ فِی بَحْرِہِ اِلَّا قَطْرَةٌ  
میرا علم اس کے سمندر کے اندازہ پر ایک قطرہ ہے (۶)  
اِسْتَعْلَا جیسے لَا صَلَبَتْکُمْ فِی جَزْوَعِ النَّخْلِ  
دہن تم کو کھجور کے تنوں پر صلیب دوں گا) (۷) مُرَادٌ فِی بَاءٍ  
جیسے اَنْتَ بَصِیْرٌ فِی عَمَلِکَ تو اپنے کام کا خوب  
ماہر ہے (۸) مُرَادٌ مِنْ جِبِّ مَضَتْ عَلٰی ثَلَاثَةِ  
آشہرہ فی ثَلَاثِ سِنِیْنٍ تین سالوں میں سے  
تین مہینے مجھ پر گزرے ہیں۔

فِی جِ افْوَاہُ مِنْہُمْ۔ کفوۃ لفظ بولنا۔

فَاظٌ یَفِیضُ فِیضًا نَانُوْبٌ ہونا۔ کثرت سے ہونا

قَبِيلٌ غَسَبٌ بِرَبِّهِمْ مِثْلُ مِثْلٍ قَوْمٍ -  
قَبِيلَانِ - کپتان۔

قَبِيلٌ يَنْبَغِي - قَبُولًا لَيْسَ - وصول کرنا۔ مان  
لینا۔ منظور کر لینا۔ قَبَالَةٌ - ضامن یا ذمہ دار ہونا۔  
قَبَالَةٌ دَايَةٌ كَرِيْمٌ يَأْتِيهِ جَنَانٌ كَا كَامٍ كَرَانًا - اقْبَالٌ  
سامنے سے آنا۔ قُرْبٌ - تَقْبِيلٌ بُوْسَةٌ دِيْنَا - چومنا۔  
قَابِلٌ لَانِقٌ فَانِقٌ سَامِنٌ آتِيٌّ وَالَا - اِسْتَقْبَالٌ  
سامنے یا آگے آکر ملنا۔ ملاقات کرنا۔ آئندہ آنا۔

تَقَابُلٌ - ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ مقابلہ کرنا  
قَبْلٌ پِيْدَةٌ - بِرِيْثَةٍ قَبِيْلَةٌ وَهِيَ سَمْتٌ جِبْ كِي طَرَفٌ مِنْ  
سر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ قَبِيْلَةٌ بُوْسَةٌ - قَابِلَةٌ دَايَةٌ  
بُذُوْلٌ - جِنَانٌ وَالِيٌ - قَابِلِيَّةٌ - لِيَاقَتٌ - مَالَتٌ  
قبولیت قبول۔ رضامندی۔ منظوری۔ قَبِيْلٌ قَسْمٌ  
ضامن۔ کفیل۔ قَبِيْلَةٌ قَبِيْلَةٌ قَبِيْلَةٌ خَانِدَانٌ - ایک دادا  
کی اولاد کے لوگ۔ مُقَابِلَةٌ آتِيٌّ سَامِنٌ هُوْنَا - رُو  
برو۔ ہونا۔ مُقَبِلٌ نُوْشٌ قَسْمَتٌ آتِيٌّ وَالَا سَالٌ -

مُقَابِلٌ سَامِنٌ آتِيٌّ وَالَا - مُقَبُولٌ قَبُولٌ كَيْمَا هُوَا  
مُسْتَقْبِلٌ آتِيٌّ وَالَا -

قَبَا - اچکن۔ پورے آستینوں والا کوٹ۔  
خَطُّ اِنْقِطَاعٍ - قَنَادٌ كَيْ كَسْتُهُ اَتَارَانَا بَعْنِي بَرِيْ شَكْلٌ  
اور محنت سے حاصل کرنا۔ قَنَادٌ اِيْكَ بَهْمَتٌ خَارُوَارٌ  
پودا ہے۔

قَتْلٌ يَشْتُلُ قَتْلًا مَارُطًا - قَتْلٌ يَاهْلَاكٌ كَرْنَا  
مُقَاتَلَةٌ اِيْسٌ مِيْنٌ لُرْنَا - قِتَالٌ جِنَكٌ كَرْنَا -  
قَاتِلٌ قَتْلٌ كَرْنَا وَالَا - مَقْتُوْلٌ قَتْلٌ كَيْمَا هُوَا -

مُقَاتِلٌ رَطْنٌ وَالَا - قَتِيْلٌ بِمَعْنَى مَقْتُوْلٌ مَقْتُلٌ  
قتل کی جگہ۔ قِتَالَةٌ قَتْلٌ كَرْنَا وَالِيٌ - قِتَاءٌ - کھیرا۔  
ککڑی۔ اَفْحُوَانٌ - بَابُوْنٌ قَحْبَةٌ كَنْجِي - بازاری عورت  
قَحْطٌ خَشَكٌ سَالِيٌ - بارش نہ ہونا۔

قَدٌ - اسم بمعنی کافی ہے جیسے قَدْ زَيْدٌ ذَهَبٌ زَيْدٌ  
کو ایک درہم کافی ہے (۲) ماضی مطلق کے پہلے آکر اسکو  
قریب کے معنوں میں کر دیتا ہے (۳) نیز ماضی کے  
ساتھ تحقیق کے دیتا ہے جیسے قَدْ اَفْلَحَ بے شک  
وہ کامیاب میں (۴) مضارع کے ساتھ توقع یا تقبیل  
کے معنی دیتا ہے جیسے قَدْ يَقْدِمُ الغَائِبُ اَلْيَوْمَ  
ظنن اغلب ہے کہ غائب آج آجائے (۵) قَدْ يَصْدُقُ  
اَلْكُذُوْبُ - کبھی کبھوٹا بھی سچ کہتا ہے (۶) مضارع کے  
ساتھ تکثیر کا معنی دیتا ہے۔ جیسے قَدْ اَشْهَدُ الغَاةَ  
اَللّٰهُ خَوْلَاءٌ مِيْنٌ كِيْ مَرْتَبَةٌ بَرِيْ غَارَتٌ مِيْنٌ حَاضِرٌ هُوَا -  
قَدْ حُجَّ جِقَاقٌ سِيْ اَكٌ نَكَالًا - جرح قدح کرنا۔ حَسَنٌ وَ  
خوبی جانچنا۔ قَدْ حَتَّ اِيْنِيْ كَا پِيْرَا - قَدْ - قَدْ  
قامت۔ سائز۔ شکل۔

قَدْرٌ يَقْدِرُ قَدْرًا وَقَدْرَةٌ وَمَقْدِرَةٌ  
وَمِقْدَارٌ اَعْلَى قَابُوْ بَانَا طَاقَتٌ پَانَا - قَدْرٌ  
اندازہ۔ مقدار۔ ناپ۔ بسامت۔ قَدْرٌ - ضِدٌّ اَلْعَالِي  
کا حکم جو مشیت میں ہوا۔ اور جاری نہ ہوا۔ تقدیر۔ تقدیر  
قسمت۔ قَدْرَةٌ - طَاقَتٌ - اِخْتِيَارٌ - اَبِيْتٌ - قَابِلِيَّةٌ  
قَادِرٌ وَقَدِيْرٌ - طَاقَتُوْرٌ - تُوَانَا - صَا حِبٌ قَدْرَتَا -

اِقْتِدَارٌ - طَاقَتٌ - تُوَانَا - تَقْدِيْرٌ پِيْلٌ سِيْمَقَرٌ  
کی ہونی قسمت۔ مقدر۔ سر نوشت۔ مِقْدَارٌ اندازہ۔ مَقْدَرٌ  
مقررہ وزن۔

مَقْدُودٌ - طاقت - قدرت - مقدرت - مَقْدِرَةٌ  
 توانائی - وسعت طاقت - مَقْدَادٌ اندازہ کیا ہوا -  
 قسمت میں لکھا ہوا - علم صرف و نحو میں جو مذکورہ ہو مگر  
 اس کے معنی لئے جاویں - مَقْتَدِرٌ صاحب قدرت  
 قُدُسٌ يَقْدُسُ قُدْسًا - پاک ہونا - منبرک ہونا  
 تَقْدِسٌ پاکیزہ ہونا - مَقْدَسٌ پاکیزہ - منبرک -  
 قُدُوسٌ خداوند کریم جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے  
 قَدِيسٌ پاک انسان - مَقْدَسَةٌ پاک زمین  
 حَبِيبَةُ الْقُدُسِ - بہشت بیث الثمَدِ میں  
 یروشلم میں پہلا قبلہ انبیاء -

قَدَمٌ يَقْدُمُ قُدُومًا - آگے آنا - پیش قدمی  
 کرنا - قُدُومٌ سفر سے واپس آنا - کہیں سے آ پہنچنا -  
 قَدَامَةٌ پُرانا ہونا - قَدِيمٌ ہونا - تَقَدَّمَ پیش آنا  
 سامنے آنا - قَدَمٌ حَقْدَامٌ پاؤں - تَقْدِيمٌ کسی  
 کے سامنے پیش کرنا - مَقْدَمٌ آگے کیا ہوا - قَدِيمٌ  
 حَقْدَمَاءٌ پُرانا - مَقْدَمَةٌ اگلا حصہ - وہ معاملہ جو  
 کسی کے سامنے پیش کیا جاوے - مُتَقَدِّمٌ پیش رو -  
 سرور - لیڈ - حِفْظٌ مَا تَقَدَّمَ جَوَابَاتٌ آئندہ  
 پیش آنے والی ہے اس کی حفاظت یا اس کی پیش بندی  
 اِقْدَامٌ جرات - بہادری - پہل - اِقْتِدَاءٌ پیروی  
 کرنا - متابعت کرنا - مُقْتَدٍ وَ مُقْتَدِيٌّ پیروی  
 کرنے والا - نقل کرنے والا - قُدْوَةٌ نمونہ - وہ شخص جس  
 عمل کی پیروی اور نقل کی جائے - مُقْتَدِيٌّ وہ ہستی  
 جس کی متابعت کی جائے - قَدْرٌ حَقْدَامٌ میل کھیل  
 گند - پاخانہ - قَدْفٌ بہتان یا ہمت لگانا -

قَرَّ يَقْرِ قَرًا کسی جگہ ٹھہر جانا - اِقْرَارٌ کسی  
 بات کو مان لینا - تَقْرِيرٌ گفتگو کرنا - تقریر کرنا -  
 بیان - قَلٌّ تَقَدَّرٌ مقرر کرنا - اِسْتَقْرَارٌ قرار چاہنا  
 قیام کی خواہش کرنا - قَرَّةٌ ٹھنک - مُسْتَقَرٌّ ٹھہرنے  
 کی جگہ - مُقَرَّرٌ تقریر کرنے والا - مُقَرَّرٌ اقرار کرنے والا -  
 مان لینے والا - قَارُورَةٌ شیشی - نَوَّلٌ مَقَرٌّ ٹھہرنے  
 کی جگہ -

قَرَأَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً وَقْرَانًا - پڑھنا -  
 تلاوت کرنا - قرآن پاک کا مطالعہ - قَارِيٌّ قرآن پاک  
 کا پڑھنے والا - الْقُرْآنُ کتاب اللہ - قِرَاءَةٌ  
 قرآن مجید کی تلاوت کا علم - قُرْآنٌ پڑھنے کا عمل پڑھنا  
 تلاوت - اِسْتِقْرَارٌ تحقیق کرنا کسی کو کچھ پڑھوانا  
 تفتیش کرنا - خصوصاً اشیاء کے خواص کے متعلق ریسرچ  
 کرنا -

قَرِبٌ يَقْرُبُ قُرْبًا وَقُرْبَانًا کسی کے  
 نزدیک ہونا - قَرِيبٌ ہونا - نزدیک آنا - تَقَرُّبٌ  
 پاس جانا - مُقَرَّبٌ ہونا - اَقْرَبٌ بہت نزدیک -  
 مُقَرَّبٌ نزدیک کیا ہوا - قُرْبَانٌ اللہ کے نزدیک  
 ہونے کا ذریعہ - قُرْبَانِيٌّ قَرِيبٌ حَقْدَمَاءٌ  
 قَرِيبِيٌّ تَقْرِيبٌ حَقْدَمَاءٌ قَرِيبِيٌّ  
 کوئی واقعہ - خاص موقع - غَنَائِمٌ تَقْرِيبٌ تَقْرِيبِيٌّ  
 تَقْرِيبِيًّا قَرِيبٌ قَرِيبٌ قَرَابَةٌ رشتہ داری  
 اَقَارِبٌ رشتہ دار - مُتَقَارِبٌ متشابه - مانند -  
 قَرِيبٌ آنے والا - علم عروض میں ایک بحر کا نام -  
 قَرِيْبُوسٌ زین کا ہتھکڑیا یا اونچا خمدار حصہ -

قَرَحٌ تَقْرِیْحًا زخمی کرنا۔ اقْتَرَحَ اقْتِرَاحًا  
 ایجاد کرنا۔ اقْتَرَحَ بِی علی سختی کے ساتھ کسی  
 پر سکوت چلانا۔ بے سوچے سمجھے مانگنا۔ قَرَحٌ ج  
 قَرُوْحٌ زخم۔ چوٹ۔ گھاؤ۔ قَرِيْحَةٌ طبیعتِ خصلت  
 طینت۔ قَرْدٌ ج قَرْدَةٌ بندر لنگور۔

قَرِشٌ ایک عربی سگہ جو آنے کے برابر ہوتا ہے۔  
 قَرِیْشٌ عرب کا مشہور قبیلہ جس میں ہمارے آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ قَرِیْشِیٌّ نسب بہ  
 قبیلہ قریش۔ قَرِصٌ ج اقْرَاصٌ کبجہ دوا وغیرہ کی  
 گول روٹی۔ یک۔

قَرَضٌ یَقْرِضُ قَرَضًا کاٹنا۔ کترنا۔ قَارِضٌ  
 قرض یا ادھار دینے والا۔ مَقْرُوْضٌ جس نے ادھار  
 لیا ہو۔ مَقْرُوْضَةٌ وہ رقم یا چیز جو قرض لی گئی ہو  
 اِنْقِرَاضٌ وقت گذرنا۔ مَقْرَاضٌ قینچی۔ کترنی  
 قَرَطٌ بالی۔ کان کا زبور۔ قَبْرُوْطٌ مرہم۔ قَرَطَبَةٌ  
 کاہ ڈواہ سپانیہ کا شہر۔ قَبْرَاطٌ ج قَدَارِیْطٌ  
 دورتی کے برابر وزن۔ قَرَطَاسٌ ج قَدَارِیْطِیْسٌ  
 کاغذ۔ تخریب۔ کتاب۔ قَرَطَلَةٌ ٹوکری۔ بیگ۔

قَرَطَمٌ گنبد۔ کسم کے بیج۔  
 قَرَطٌ تَقْرِیْظًا مدح کرنا۔ تعریف کرنا۔ ربو یو کرنا  
 کسی کتاب وغیرہ کی تعریف کرنا۔ قَرَعٌ دروازہ کھٹکھٹانا  
 اَقْرَعٌ گنجد جس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں  
 قَرَاغُولٌ کزاکول۔ پولیس چوکی۔ قَوْدَمَةٌ گوشت  
 کا سالن۔ قَوْمٌ۔ قَوْمٌ سرخ رنگ۔ ارغوانی رنگ  
 قَوْمٌ مَطِیٌّ۔ قَرَامِطَةٌ یعنی شیعوں کے ایک فرقے  
 تعلق رکھنے والا۔

قَرْنٌ ج قَرَوْنٌ بینگ۔ ایک صدی۔ زمانہ  
 قَرْنٌ ج اقْدَانٌ کسی کا ہمسر۔ قَرِیْنٌ مصاحب  
 رفیق۔ ساتھی۔ قَرِیْنَةٌ سہیلی۔ قرینہ۔ تخمینہ۔  
 مَقْرُوْنٌ بوڑھا ہوا۔ ملایا ہوا

قِرَانٌ دوستاروں کا ایک بُرج میں اکٹھا ہونا  
 قَارُوْنٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مشہور  
 مالدار اور کنجوس اور خبیث۔

قَبْرَوَانٌ شمالی افریقہ میں ایک اسلامی شہر  
 قَرْنَقَلٌ لونگ۔ قَرِیْتٌ ج قَرِیٌ گاؤں۔  
 قَرٌّ ریشم۔ قَرُوْسٌ قَرِحٌ قوس قزح۔ دھنک

قَبْرِیْسٌ پادری۔ قَبْرِیْسِیَّتٌ پادری کا درجہ  
 قَسَطٌ یَقْسِطُ قِسْطًا وَاَقْسَطٌ انصاف والا  
 عادل ہونا۔ مُقْسِطٌ انصاف کرنے والا۔ قَسْطَاسٌ  
 ترازو۔ قَسْطَلَانِیٌّ ایک عالم کا لقب

قَسَمٌ یَقْسِمُ قَسَمًا۔ بانٹنا۔ تقسیم کرنا۔  
 اَقْسَمٌ یَقْسِمُ اِقْسَامًا قسم یا سوگند کھانا۔  
 قِسْمٌ ج اَقْسَامٌ حصہ۔ قِسْمَةٌ بانٹ نصیب  
 قاعدہ۔ تقسیم و حساب۔ مُنْقَسِمٌ تقسیم ہونے والا  
 مَقْسُوْمٌ تقسیم ہوا ہوا۔ قَسَامٌ بہت تقسیم کرنے  
 والا۔ قَسِیْمٌ برابر کا حصہ دار۔

قَسَا یَقْسُو قَسَاوَةً دل کا سخت ہونا۔ سنگدل  
 ہونا۔ قَسِیُّ الْقَلْبِ۔ سنگدل۔ سخت دل۔ بے رحم  
 قَسْوَةٌ سختی۔

قَشْرٌ ج قَشُوْرٌ چھلکا۔ قَشْرٌ ج قَشْرٌ چھلکا دور کیا  
 تَقَشَّرٌ چھلکا علیحدہ ہو جانا۔

اَقْضَى - بہت دُور۔ اَلْمَسْجِدُ اَلْاَقْصَى - مسجد  
بروٹلم۔ بیت المقدس۔ اِسْتَقْصَاۃً - پیچھا کرنا۔  
دریافت کرنا۔ تحقیقات کرنا۔  
قَضِيْبٌ ج قَضِيْبَانٌ - شاخ۔ چھڑی۔ کنایہ از  
آلہ نناسل۔

قَضَى يَقْضِي قَضَاءً جُكَا نَا - فیصلہ کرنا۔  
طے کرنا۔ تصفیہ کرنا۔ قَضَا - تقدیر۔ فیصلہ۔

قَضِيَّةٌ ج قَضَايَا - فیصلہ۔ واقعہ۔ چیز۔ مقدمہ  
عبارت۔ کلام۔ قَاضِيٌ ج قُضَاةٌ ج جج۔ مجسٹریٹ  
حاکم۔ قَاضِيُ الْقَضَاةِ جيف حِسُّ - تقاضا  
مطالبہ۔ مُتَقَاضِيٌ - جھگڑا کرنے والا۔ مُتَقَضِيٌ

مناسب۔ مُنْقَضِيٌ گزر جانے والا۔ ختم ہو جانے والا  
اِقْتِضَاءٌ ج حاجت۔ ضرورت۔ خواہش۔ قَطُّ كَافِيٌ  
وانی بس۔ قِطٌّ بِلَا - قُطْبٌ ج اَقْطَابٌ قطب ستارہ  
چمکی کے درمیان لوہے کی ترخ۔ اَللّٰهُ كَا پَيَارَا - یعنی

وَاللّٰهُ جُورَاهِ خدایں غیرت زلزل اور ثبات  
قدم اور مستقل مزاج ہو۔ قَابِلَةٌ سب کے تمام

قَطْرٌ يَقْطُرُ قَطْرًا ج قَطْرَةٌ قطره ٹپکنا  
قَطْرَةٌ ج قَطْرَاتٌ بوند بوند۔ قَطْرَةٌ ج قَطْرَاتٌ

قَطْرٌ قَطَارٌ - قَطْرٌ ج قَطْرَاتٌ قطار۔ قارہ۔ جانب  
طرف۔ تَقَاطُرٌ بوند بوند ٹپکنا۔ قطره نظرہ کرنا۔

مُقَطَّرٌ قطره قطره پکایا ہوا۔ تَقَطُّبٌ ٹپکانے  
کا عمل۔ قَطَارٌ طَرِينٌ - قَطْرَةٌ پانی پر چلنے والا

کیڑا۔ مایخولیا کی ایک قسم۔ قَطَعَ يَقْطَعُ قَطْعًا  
تغیر کرنا۔ کاٹ کر جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا۔

اِقْتِشْرَادٌ کا پینا۔ سکرنا۔ روکنے کھڑے ہو جانا۔  
قَشَعْرِيَّةٌ کپکپی۔ سکر اہٹ۔ تَقَشُّفٌ بد  
حال ہونا۔ جسم کا گندہ ہونا۔ درویشوں یا سادھوؤں  
جیسی زندگی بسر کرنا۔ قَشْلَاقٌ - بیرک۔ شفا خانہ۔  
قَصٌّ يَقْصُ قَصَصًا عَلٰی بِيَانٍ کرنا۔ خبر  
دینا۔ قِصَاصٌ - خون کا بدل لینا۔ انتقام لینا۔ قَاتِلٌ  
کو خون کے عوض قتل کرنا۔ قِصَّةٌ ج قِصَصٌ قصہ  
کہانی۔ فسانہ۔ واقعہ۔ بیان۔ حالت۔ مَقْصُصٌ - مفروض۔  
فینچی۔ قَصَبٌ زرکل۔ قَصَبٌ السُّكَّرِ گٹا۔  
قَصَبَةٌ ج قِصَابٌ قصبہ فہر کا اہم حصہ۔ غذا کی  
نالی۔ قِصَابٌ قِصَابِيٌّ

قَصْدٌ يَقْصِدُ قَصْدًا ج - اِلٰی - کسی بات کا  
ارادہ کرنا۔ قَاصِدٌ نامہ بر۔ پیغام رساں۔ مَقْصُودٌ

جس بات کا ارادہ کیا جاوے۔ مَقْصِدٌ ج مَقَاصِدُ  
مطلب۔ ارادہ۔ مقصد۔ قَصِيْدَةٌ ج قِصَايِدُ

ایسی نظم جس میں کسی کی مدح یا تعریف ہو۔ اِقْتِضَادٌ  
میانہ روی۔ کفایت شعاری۔ دولت کو جمع کرنے کا علم

قَصْرٌ يَقْصُرُ قِصْرًا ج قِصْرَةٌ چھوٹا ہونا۔ کوتاہ ہونا۔  
قِصْرٌ ج قِصُورٌ کوتاہی۔ غفلت۔ بستی۔

تَقْصِيْرٌ تَقْصِيْرَاتٌ کوتاہی۔ گناہ۔ نوکذا  
مَقْصِرٌ کی کرنے والا۔ قِصْرٌ ج قِصَايِرٌ کَرُوْمٌ

کے بادشاہوں کا لقب قِصْرٌ ج قِصُورٌ نخل۔  
پتھروں کا گھر۔ قَاصِرٌ کی کرنوالا۔ تَقْصِيْرٌ چھوٹے قد کا

آدمی۔ قِصَادٌ دھوبی۔ گاڈر۔ مَقْصُوْرَةٌ - کمرہ۔  
پالکی۔ وسیع مکان۔ قِصْعَةٌ - پیالہ۔ لکڑی کا پیالہ

قَفَاءٌ گدی۔ گردن کا پچھلا حصہ۔ قَافِيَةٌ شعر کا  
آخری حرف۔ مُتَقَفِيٌّ ہوزن کلام۔ سجع والی کلام  
قَاقِلَةٌ الاپچی۔

قَائِمٌ سمور۔ ایک جانور ہے۔

قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً کم ہونا۔ تھوڑا ہونا۔ قَلِيلٌ  
تھوڑا۔ کم۔ اَقْلَبُ بہت تھوڑا۔ اَقْلَيْتُهُ کم ہونا  
تھوڑا ہونا۔ تَقْلِيلٌ کم کرنا۔ قُلَّةٌ پہاڑ کی چوٹی  
اِسْتِثْلَالٌ مطلق العنان ہونا۔ آزاد ہونا۔

مُسْتَقِيلٌ آزاد۔ مطلق العنان۔ خود مختار۔ قَلِيلًا  
قَلِيلًا تھوڑا تھوڑا۔

قَلْبٌ يَقْلِبُ قَلْبًا وَقَلْبٌ تَبْدِيلٌ کرنا۔

اَلثَّابِتُ اِنْقِلَابُ اَلثَّابِتِ پلٹ ہو جانا۔ مُثْقَلٌ  
اَلثَّابِتِ پلٹ ہو جانے والا۔ قَلْبٌ رُحُ قُلُوبٌ دِل

رُوح۔ قَالِبٌ رُحُ قَوَالِبُ۔ ڈھانچہ۔ کالبد تَقَلَّبُ  
ہیر پھیر۔ مَقْلُوبٌ اُلْثَابُ ہوا مُقَلَّبٌ اُلْثَابُ

وینے والا۔ بدل دینے والا۔ قَلَدٌ تَقْلِيدٌ اِمَارٌ  
پہنانا۔ کسی کی نقل اُتارنا۔ کسی کی پیروی کرنا۔

قَلَادَةٌ رُحُ قَلَادِيْدٌ۔ پٹکا۔ ہار گلے کی مالا۔  
قَلِيْدٌ رُحُ مَقَالِيْدٌ۔ چابی۔ میگزین۔ خزانہ۔

مُقَلِّدٌ کسی امام کی پیروی کرنے والا۔ تَقْلِيْدٌ کَرِيْمًا  
نقل اُتارنے والا۔

قَلْبُورٌ ایک چھوٹے سمندر کا نام جو ایک شہر کے  
نام پر ہے۔ قَلْبُورَةٌ۔ کلاہ۔ ٹوپی۔

قَلْعٌ يَقْلَعُ قَلْعًا جُرُوسٌ اُكْحَارُنَا بِيْعٌ كُنِيٌّ كَرْنَا۔  
مَلَاعٌ پھنسیاں جو لوہوں یا مٹنہ پر ہوں۔

تَقْطِيعٌ کاٹنا علیحدہ علیحدہ کرنا۔ شعروں کی صرفی

نحوی ترکیب بیان کرنا۔ قَاطِعٌ کاٹنے والا۔

مَقْطُوعٌ کاٹا ہوا۔ قِطْعَةٌ رُحُ اِقْطَاعٌ ٹکڑا  
قِطْعَاتٌ ٹکڑے۔ اِنْقِطَاعٌ الگ ہو جانا۔

مُنْقَطِعٌ الگ ہو جانے والا۔ مَقَاطِعَةٌ  
تعلق چھوڑ دینا۔ قِطْعًا بِلَا شَكٍّ وَشِبْهِ قَاطِعٍ

اَلطَّرِيْقِ رَاہِزِن۔ ڈاکو۔ قَطِيعٌ يَقِيْنِي مَقْطَعٌ  
غزل یا قصیدہ کا آخری شعر۔ مَقْطَعَةٌ رُحُ مَقْطَعَاتٌ

چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ قرآن پاک کی بعض سورتوں  
کے ابتدائی حروف۔ مثلاً اَلْمَخْمَلِيْسُ وَغِيْرُ

قَطْفٌ خوشہ چینی۔ مُقْتَطَفٌ چُنا ہوا۔ اِنْتَابٌ  
کیا ہوا۔ قُطْنٌ۔ کپاس قَاطِنٌ باشندہ۔

يَقْطِئْنَ گول کدو کی بیل۔  
قَعْدٌ يَقْعُدُ قُعُوْدًا۔ بیٹھنا۔ قَاعِدٌ رُحُ

قُعُوْدٌ بیٹھنے والا۔ قَاعِدٌ رُحُ مَقَاعِدٌ  
بیٹھنے کی جگہ۔ سُرْبٌ۔ قَاعِدَةٌ رُحُ قَوَاعِدٌ بِنِيَادِ

قانون۔ ضابطہ۔ نمونہ۔ ذُو الْقَعْدَةِ۔ گیارہواں  
قرمی ہینہ۔ قَاعِدَةُ الْمَلِكِ دار الخلافہ۔

مَتَقَاعِدٌ پدشنہ وظیفہ یاب۔ قَعْرٌ گہرائی۔ نَہْ  
مَقَعْرٌ گہرا۔ گہرائی والا۔ کھوکھلا۔ عَمِيْنٌ۔

قَفْصٌ پنجا۔ قَفْسٌ  
قُفْلٌ رُحُ اَقْفَالٌ تالہ۔ قَفْلٌ قَافِلَةٌ رُحُ قَوَافِلٌ

مسافروں کی بہت قافلہ قِبْقَالٌ بازو کی ایک رگ کا  
نام۔ سَرَارٌ جو سر کی بیماریوں کے لئے کھولی جاتی ہے

مَقْفَلٌ قَفْلٌ لُکایا ہوا۔ بند کیا ہوا۔







(۵) ضمیر منفصل منصوب کے ساتھ جیسے ایتاک  
(صرف تجھ کو)

(۶) بعض اسماء افعال کے ساتھ جیسے دَوَيْدَكَ  
پھر جاؤ۔

كَا مِج كُوُوَسْ۔ پیالہ کھورا۔ کَا ذُو كِيس  
كَا دُج۔ کَا ذَاتُ۔ پیشہ۔ کام۔

كَا نَ (۱) حرف تشبیہ جیسے کَا نَ ذَيْدٌ اَسَدٌ گویا  
زید شیر ہے، (۲) بمعنی شک و ظن کے کَا نَ ذَيْدٌ  
قَائِمٌ شَا دُ زَيْدٌ کھڑا ہے (۳) تقریب کے لئے جیسے  
كَا نَ تَكَ بِالْ دُنْيَا لَمْ تَكُنْ وَفِي الْاٰخِرَةِ  
لَمْ تَزَلْ قَرِيبٌ ہے کہ دُنْيَا میں نہ ہو۔ اور آخرت  
میں ہمیشہ رہے۔

کِتَابٌ۔ بھوننا، ہوا گوشت کِبِدٌ اَكْبَادُ جَر  
مَكْبُوْدٌ جگر کی بیماری والا۔ عَظْمٌ اَلْکَبِدِ  
ورم الکبد کا مریض۔

کَبِيْرٌ يَكْبُرُ کَبِيْرًا۔ بڑا ہونا۔ بڑی عمر کا ہونا  
تَكْبِيْرٌ۔ بڑائی بیان کرنا۔

کَبِيْرٌ جُ كَبِيْرًا بَرًا۔ بڑی شان والا۔ تَكْبِيْرٌ  
مُتَكَبِّرٌ ہونا۔ بزرگی و عظمت والا ہونا۔ اَكْبَرُ ج  
اَكْبَرٌ بہت بڑا۔ کَبِيْرٌ اَجْرٌ کَبِيْرٌ بہت

بڑی معیشت یا گناہ مُتَكَبِّرٌ مُتَكَبِّرٌ کَبِيْرًا بَرًا کرنا  
مُسْتَكْبِرٌ بَرًا بننے کی خواہش کرنے والا۔ کَبِيْرٌ  
بُنَجْرٌ۔ ستاخی۔ کَبِيْرٌ بہت بڑی (عورت)

اَقْرَبُ الْکَبَا ئِرِ شَرَابٌ۔ کَبِيْرٌ بَرًا بَرًا بَرًا  
غُرور۔ کَبِيْرِيْتٌ کَبِيْرٌ۔ دیاسلانی۔ یا قوتِ احر

کَبِيْرٌ بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا  
کَبِيْرٌ بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا  
کَبِيْرٌ بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا  
کَبِيْرٌ بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا بَرًا

کَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا۔ لکھنا۔ تحریر کرنا۔ مصنف  
بننا۔ فیصلہ دینا۔ كِتَابَةٌ لکھنے کا کام کرنا۔ کَاتِبٌ  
کِتَابٌ لکھنے والا۔ كِتَابٌ جُ كَتَبْتُ كِتَابًا۔ نو  
خط حکم سزا۔ فیصلہ۔ مَكْتُوبٌ خط۔ لکھا ہوا ج  
مَكَاتِبٌ۔ مَكْتُوبَةٌ لکھی ہوئی۔ مَكْتُوبٌ  
اَلَيْهِ جس کی طرف خط لکھا جاوے۔ مَكْتُوبٌ ج  
مَكَاتِبٌ مَوْتٌ مَكْتَبَةٌ کتب خانہ۔ لائبریری  
لکھنے یا پڑھنے کا گھر۔ اَهْلُ الْکِتَابِ یہود و نصاریٰ  
اَقْرَبُ الْکِتَابِ سو قافلاً تَحْکَاتِبٌ آپس میں خط و کتابت  
کرنا۔ کَبَرًا کَاتِبِيْنَ وَرَشْتَهُ بَوْنَامَهُ اَعْمَالٌ لکھتے  
ہیں۔ کَتَبْتُ جُ اَكْتَفَتُ مَوْنَدُهُا کبندھا شانہ  
کَا تُوْلِيْتُ كِتَابَكَ يُونَانِي۔

کَتَمَ يَكْتُمُ كِتْمَانًا۔ چھپانا۔ کَاتِمٌ  
پرائیویٹ سیکرٹری۔ مَكْتُوْمٌ چھپا ہوا۔

کَتَمَانٌ۔ اسی کا پورا

کَثْرٌ يَكْتُرُ کَثْرَةً بہت ہونا۔ کَثِيْرٌ زیادہ  
بے شمار۔ بہت اَكْتُرُ بہت زیادہ۔ کَوْثَرٌ  
بے شمار۔ خیر کثیر۔ بہت کثیر کا ایک دریا

تَكَثَّرَ تَعْدَادٌ میں بہت ہونا۔  
کَثْفٌ يَكْتَفُ کَثْفًا۔ کَثْفٌ ہونا

کَثِيْفٌ کَثْرًا۔ کَثِيْفٌ کَثْرًا  
کَثَلٌ يَكْتَلُ کَثَلًا وَكَثَلٌ وَرَا كَثَلٌ نَبْرٌ  
اگانا۔ آٹک میں سرمہ ڈالنا۔ کَثَلٌ سرمہ۔ آٹک

میں ڈالنے کی ذرا۔ کَثِيْلٌ آٹک جس میں سرمہ ڈالا  
ہوا ہو۔ کَثَالٌ سرمہ فروش اَلْاَكْثَلُ بازو کی ایک رگ

کَثِيْلٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ  
کَثِيْلٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ  
کَثِيْلٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ  
کَثِيْلٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ کَثَالٌ

مِثْلَهُ سِرْمَوَانِي - كَذَّ - مَحْنَت - كَوْشَش

كَذَرِيكُورُ كُذُورَةً - كَدَلَه هُونَا - مِيلَا هُونَا -

مُنْكَدِرُ - پَرَاكِنْدَه طَبَع - كُودَنُ - بِيَوْوَف مَخْلُوطِ لَسَل

كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا - جَهْوُوثُ بُولْنَا - كِذْبُ

جَا كَاذِيبُ جَهْوُوثُ - كَاذِيبُ جَهْوُوثُ بُولْنَه وَالَا

كَذَابُ بَهْتُ جَهْوُوثَا - تَكْذِيبُ كَسِي كُو جَهْلَانَا

اِنْكَارُ كَرْنَا - مِثْلُ كَذَبُ جَهْوُوثَا كَهْنَه وَالَا -

كَذَا - كَذَا لِكَ وَهَكَذَا - اِسِي طَرَحُ - اِسِي

طَرَحُ سَه - اِسِي طَرِيقَه سَه -

كَزَيْكُورُ كُزَا - وَتَكَرَّرَ عَلِي لُوطَا لُوطَا

حَلَه كَرْنَا كَسِي پَرَا لُطَا پُزْنَا - دُو بَارَه حَلَه كَرْنَا - كُزَا لُ

بَار بَار حَلَه كَرْنَه وَالَا - تَكَرَّرَ بَار بَار اَلْطَانَا - دُهْرَانَا

كُرَّةٌ وَكُرَّةٌ كُولَه - كَرَه اَرْض - كَلُوب - كِهِنْد - مَكْرَدُ

دُهْرَا يَا هُوَا - دُو بَارَه كِيَا هُوَا - لُوطَا يَا هُوَا - كُرَّةٌ جَا كُرَاتُ

اِيك بَار - بَارِي - نُوْبَت - كُرْبُ وَكُرْبُ بَتْرَجُ كُرُوبُ

فَكْرَه رَج - مَشَقَّت - كُرُوْبِي - مَقْرَبُ فَرَشْتَه - عِبْرَانِي

لَفْظَه - كُرْبَا سَس - كَهْدَر - كَهْرُورَا كِهْرَا -

كُرْبِلَاؤُ - عِرَاقُ عَرَبُ بِيں وَه جَكَه - جِهَاں پَر حَضْرَت

اِمَامُ حَسِيْن رَضِي اَللّٰهُ عَنْهُ شَهِيْدُ هُوَسُ -

كُرْجِي - كُرْجَتَانِي - كُرْجَانَتُ كَارْفَا - وَتَكَرَارِي

كِي دُكَان - كُرْدِي - كُرْدِسْتَانُ كَا بَا شَدَه -

كُرَاتُ - كُنْدَا كِرِيْبَتُ - جَزِيْرَه كِرِيْبُ - كَا نُدِيَا -

كُرَا سَتَه - كَا پِي - پَمْفَلُ - كُرْسِي جَا كُرَا سِي تَحْت

كُرْسِي عِلْم - كُرُوْسَتَه جَا كُرُوْسَاتُ - سُوَارِي كِي كَاؤُ

كُرْسِيَتَه - رِيُوَارِي - اِيك پُوَا كَا نَامُ چُو كِنْدَمُ كِه كِهْبِتُ بِيں

هُوَ تَا پَر كُرْفِي مَوْجُو

كَرْفَسُ - جِنْكِي اَبُو اِسْن -

كُرْكُجُ - كَلْنَك - كُوخُ - سَارَسُ - بَلَا - كُرْكَدَنُ كِهِنْدُ

كُرْكُمُ - زَعْفَرَان - كِهْسِر - كُرْتُبُ كُرْمُ سَاك - كُرْمُ كَلَا -

كُوْبِي -

كُرْمُ يَكْرُمُ كُرْمًا وَكِرَامَةٌ سَمِي هُونَا عَلِي

هُوَ صَدَه هُونَا - بَرْزَكُ وَشَرِيْفُ هُونَا - كُرْمُ شَرَانَتُ

دُرْكَدَر - فَيَا ضِي - اِكْرَامُ تَعْظِيْمُ كَرْنَا - عَزَّتُ سَه

پِيْشُ آْنَا - كِرِيْمُ جَا كِرَامُ - بَرْزَكُ - شَرِيْفُ مَوْجُو

اِكْرَامُ زِيَادَه شَرِيْفُ تَكْرِيْمُ عَزَّتُ - تَوْقِيْر -

مَكْرَمَةٌ جَا مَكَا رِمُ عَزَّتُ كَا كَامُ - مَكْرَمُ مَوْجُو

بَا عَزَّتُ مَوْثُ - مَكْرَمَةٌ كِرَامَةٌ خَارِيْقَا عِلْمَاتُ

اِمْرُجُو اَوْلِيَاءُ كِه طَفِيْلُ ظَا هِر هُو - كِرِيْمَةٌ شَرِيْفُ عَوْرَتُ

بِيْطِي كِرِيْمَتَانُ - دُونُوں اَنَكِهِيں كِرَامَةٌ

شَرَا فِت - حُبًّا وَكِرَامَةٌ بَسْرُو شِمُ - بِيْجَانُ دَوْلُ

كِرِيَةٌ يَكْرَهُ كِرَاهَةٌ نَا پَسِنْدُ كَرْنَا -

اِكْرَاهٌ مَجْبُورُ كَرْنَا - نَا پَسِنْدُ كَامُ پَر اَمَادَه كَرْنَا -

كِرَاهَةٌ كِرَاهِيَةٌ - نَفْرَتُ - كِرَاهِتُ - كَا رِهَةٌ

كِرَاهِتُ يَا نَفْرَتُ كَرْنَه وَالَا - مَكْرُوْهَةٌ جَا

مَكْرُوْهَاتُ نَا پَسِنْدِيْدَه كَامُ سَخْتِي - مَصِيْبِتُ

اِسْتِكْرَاهٌ نَا پَسِنْدُ خِيَالُ كَرْنَا يَا پَانَا - كِرِيْمَةٌ

نَا پَسِنْدِيْدَه مَكَا رِهَةٌ نَا پَسِنْدِيْدَه اِمُور - مَصَابِيْ

نَفْرَتِيں - كِرَاءُ كِرَا يَه پَر دِيْنَا - كِرَا يَه - مَزْدُورِي -

اَجْرَتُ - مَحْصُولُ (بِهَارَه) مَكَا رِي كِرَا يَه پَر دِيْنِي وَ

كُرَّةٌ جَا كُرَاتُ كَرَه - كِهِنْد - مَدُور - كُطُوْس -

كُرْدِي - مَدُور - كُولُ - كُرْبِيْرَةٌ - كَشْنِيْز - وَهْبُ

كُسْبُوْرِي



دَاعُ الْكَلْبِ ہلکا و کا مرض۔ کَلَا۔ کَلْنَا۔ دونوں  
ہر دو۔ کَلْبُهُمَا۔ دونوں۔ کَلْنُوهُمْ۔ پر گوشت کالوں  
والی عورت۔ کَلَسْتُ۔ چونا۔ تَكْلِيسٌ۔ چونہ بنانا۔ کسی  
دھات کو گشتہ کرنے کا عمل۔ مَكْلَسٌ گشتہ کردہ۔  
مَكْلَسٌ چونہ فروش۔

كَلْفٌ چہرہ کا داغ۔ دَضْبٌ۔ سرخی یا سیاہی مائل داغ  
كَلْفٌ۔ تَكْلِيفٌ میں ڈالنا۔ مُكَلَّفٌ کرنا۔ كَلْفَةٌ بے آبی  
مشقت۔ مَجْبُورٌ۔ تَكْلِيفٌ ج تَكْلِيفٌ تَكْلِيفٌ۔ رسم  
محصول۔ اخراجات۔ تَكْلَفٌ جان بوجھ کر مشکلات میں  
پڑنا۔ مَتَكَلَّفٌ منافق۔ مَكْلَفٌ قیمتی۔ ذمہ وار بنانا  
ہوا۔ مامور یا باز پرس کے لائق۔

كَلِمَةٌ بِيَكْلِمٌ كَلِمًا وَ كَلِمَةٌ تَكْلِيمًا۔ زخمی کرنا  
كَلِمَةٌ تَكْلِيمًا وَ كَلِمًا بَاتٌ کرنا۔ گفنگو کرنا  
مخاطب ہونا۔ تَكَلَّمَ كَوْنِي كَلَامٌ يَزْبَانٌ بُولْنَا مُتَكَلِّمًا  
کلام کرنے والا۔ كَلْبُهُ دوسرے سے یا آپس میں بات  
چیت کرنے والا۔ كَلِمَةٌ ج كَلِمَاتٌ بات۔ جملہ کلمہ  
لفظ۔ كَلَامٌ كَفْتَاوُ۔ کلام۔ مقولہ۔ جملہ۔ لغت۔ عِلْمٌ  
الْكَلَامِ۔ وہ علم جس میں مذہب کی باتیں بدلائل عقلیہ  
ثابت کرتے ہیں۔ كَلْبِمُ اللّٰهُ حضرت موسیٰ علیہ السلام  
کا لقب۔ كَلْبَةٌ ج كَلْبَاتٌ۔ گردہ۔

كَمٌ کس قدر۔ کتنا۔ کتنے۔ بہت۔ کئی۔ كَمِيَّتٌ مقدار  
تعداد۔ كَمَفٌ جمع نذکر حاضر کی شمیر (تم سب مرد) كَمًا  
تم دونوں۔ كَمَا جیسے۔ جس طرح سے کہ۔ ایسے۔ اِز  
طرح سے۔ كَمِيْبَالَةٌ۔ ہنڈی۔ قبائ۔ چک۔  
كَمِيَّتٌ سیاہی مائل سُرخ (گھوڑا) كَمْرٌ كَمْرٌ جَمِيَّتٌ خانہ

كَفَرٌ بِيَكْفُرُو كُفْرًا۔ ڈھانکنا۔ چھپانا۔ انکار کرنا  
ناشکری کرنا۔ کافر ہونا۔ كُفْرَانٌ۔ ناشکر گزاری۔  
كَافِرٌ كُفْرًا خدا کا منکر۔ تَكْفِيْدٌ کسی کو کافر کہنا  
مَكْفِدٌ کافر کہنے والا۔ كَافُوْدٌ ایک جرم گش سفید  
رنگ کی دوا کا نام ہے۔ كُفْرَانَةٌ خیرات۔ روزہ۔  
ایسی نیکی جو دوسری کے قائم مقام ہو۔

كَفَسٌ بِيَكْفُلُ كَفَالَةً وَ كَفَسٌ كَفَالَةً  
يا ضامن بننا۔ كَفَالَةٌ ضمانت۔ ذمہ داری۔  
كَفِيْلٌ۔ ضامن۔ مَتَكَفِّلٌ ذمہ داری لینے والا۔ یا  
ضامن بننے والا۔ پروردگار نے وار۔ كَافِلٌ پرورش  
کرنے والا۔

كَفَنٌ بِيَكْفِنُ كَفْنًا۔ مُرَدٌ كُفِنَا نَا يَاطْهَانِكُنَا  
تَكْفِيْنٌ مُرَدٌ كُفِنٌ مِيْنٌ پھینکا۔ كَفْنٌ ج كَفَنٌ  
مردے کو پھیننے کا کپڑا۔

كَفِيٌّ بِيَكْفِي كِفَايَةً۔ ضرورت کے مطابق ہونا  
کافی ہونا۔ اَلْتِفَاقُ بِي كَفِيٌّ شَيْءٌ بِرَقَاعٍ هُوَ  
مُكَافَاةٌ۔ عوض۔ بدلہ۔ صلہ۔ جزا۔ معاوضہ۔

بِالْتِفَاقِ۔ کافی طور پر۔ كَافٍ كَافِيٌّ۔ بقدر ضرورت  
مَكْفِيٌّ۔ کفایت کرنے والا۔ كُلٌّ سَبٌّ كَاسِبٌ  
بِالْكَيْفِيَّةِ۔ پورے طریقہ سے بالکل۔ كُلٌّ مَسْبُوبٌ كُلٌّ  
أَلْ كَرِيْمِيَّةٌ۔ محرم شمول۔ كَلْبِيَّاتٌ سَبٌّ كِي سَبٌّ نَظْمٌ  
و نثر کا مجموعہ۔ كَلْبٌ ہرگز نہیں۔ ہاں ہاں۔ ضرور۔  
سُجٌّ كَلْبًا جَبٌّ كَبِيٌّ۔ جو کچھ۔ یہاں پر ہوا مصدر کے  
ساتھ کل کے کرایے کے لئے آتا ہے۔

اِسْتِشْرَافٌ۔ تار۔ مَسْكَلٌ تار پھینا ہوا۔ كَلْبٌ ج  
کلاب۔ گھوڑا

کَمْدُجِيْ مَحْصُوْلٌ لِيْنِ وَالْاَكْمَثْرَايِ - ہي۔ امرود  
 نَاشِبَاتِيْ كَمِيْنٌ - گھات میں بیٹھے ہوئے لوگ۔  
 كِمَادٌ وَهٗ كِبْرًا جَسَّ سَعُوْرُ كِيْ جَاۤءُ - تَكْمِيْدٌ طُوْرًا كِرْنَا  
 كَمَلٌ يَكْمُلُ كَمَالًا - صَبِيْبٌ هُوْنَا - پُوْرًا هُوْنَا -  
 بے کم و کاست ہونا۔ تَكْمِيْلٌ پُوْرًا كِرْنَا - كَمَالٌ ح  
 كَمَالَاتٌ سَرَاجًا مَّوْجِيْنًا - كَامِلٌ پُوْرًا - مَوْنَتٌ  
 كَامِلَةٌ مَّكْمَلٌ كَامِلٌ كِيَا هُوَا - تَكْمِيْلَةٌ وَهٗ حَصَّةٌ  
 جَسَّ كُوْنِيْ مَضْمُوْنٌ پُوْرًا هُوَا جَاوے - سِيْمِيْلِيْنَتٌ  
 اِكْمَالٌ كَامِلٌ كِرْنَا -

كَمُنٌ يَكْمُنُ كَمُوْنًا - اِنِّيْ تِيْنٌ چھپانا۔  
 كَمِيْنٌ ح كَمْنًا - چھپا ہوا۔ گھات میں دجا ہوا  
 كَمُوْنٌ زِيْرٌ - كَمُوْنِيٌّ زِيْرٌ وَالْاَكْمَةُ مَادِرْنَا  
 اِنْدَهَا - كُنَّ - ضَمِيْرٌ جَمْعٌ مَوْنَتٌ حَاضِرَةٌ سَبَّ عَوْرَتِيْنِ -  
 كُنَّ يَكُنُّ كَنًا چھپانا۔ مَكْمُوْنٌ چھپایا ہوا  
 بِالْكُلِّ مَحْفُوْظٌ - كَانُوْنٌ بَهِيْ - پُوْلہا۔

اَلْكَانُوْنُ الْاَوَّلُ دَسْمِرٌ اَلْكَانُوْنُ الثَّانِيْ - جَنُوْرِي  
 كَنُوْدٌ نَاشِكْرًا - اِحْسَانٌ فَرَامُوْشٌ - كَنُوْدٌ نُوْبَانٌ -  
 اِيْكٌ قَسْمٌ كَاوْنَدٌ - كَنَادٌ بِيْرٌ - بِيْرِيْ كَاوْرَحْتٌ - كَنُرٌ  
 ح كَنُوْرٌ - خَزَانَةٌ - وَفَنٌ كِيَا هُوَا مَالٌ - كَنِيْسَةٌ  
 كَنَائِسٌ - عِيَايُوْنٌ كَاوْرَبَايَا مَسْرٌ - يَهُودِيْ عِبَادَتٌ  
 مَكْنَسَةٌ جَمَارُوْ - جَارُوْبٌ - كَنَائِسٌ - جَسْمَلٌ -  
 كَنَعَانٌ - سَامٌ بِنُ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كے بیٹے کا نام  
 اِيْكٌ جَلَّةٌ كَاوْرَبَايَا مَسْرٌ اِبْرَاهِيْمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كے  
 مَعْرَتِيْ -

كَنَّةٌ - مَدَّةٌ - اِنْتَهَا كَنَّةٌ - حَقِيْقَتٌ - نَاشِبَاتِيْ

كُنِيَّةٌ بَابٌ يَابِيْثَا كِيْ طَرَفٌ نَسَبٌ - وَهٗ مَامٌ جَسَّ كے  
 پيے اَبٌ - اِبْنٌ يَا - اُمٌّ آئے - كِنَايَةٌ وَهٗ بَاتٌ جُو  
 اِيْسے الفاظ میں ادا ہوں گے حَقِيْقَتِيْ اور مَجَازِيْ دُوْنُو  
 مَعْنَى لِيْنِ جَاۤءُ هُوْنٌ - يُوْشِيْبِيْهٗ بَاتٌ - اِشَارَةٌ -

كَهْرُبَا - زَرُوْعٌ عَسِيْرٌ اِيْكٌ قَسْمٌ كَاوْنَدٌ - اِيْكٌ قَسْمٌ كَاوْرَدٌ  
 رَنَكٌ كَاوْرَحْتٌ چمکار گوند ہوتا ہے - جُوْ كَلَسٌ كُوْ كَبِيْحٌ  
 اِيْتَاہے كَهْرُبَايِيٌّ - بَعْلُوْ وَالِيْ - جَاوْ بِيْتِ وَالِيْ -  
 كَهْفٌ ح كَهُوْفٌ - غَارٌ - پَنَاهٌ - گھر کی شڪل پَر  
 پھاڑ میں گھود کر بنایا ہوا مکان - پھاڑی غار

كَهْوَالَةٌ - عَمْرٌ كَاوْرَدِھِيْرُوْنٌ - پَكِيْ عَمْرٌ  
 كَاهِنٌ - غَيْبٌ كِيْ اَسْكَلٌ سَبُوْ خَبْرٌ لِيْنِ بِنَاۤءِ وَالِیْ - يَهُودٌ  
 كَاوْرَبِيْ رَاہُ نَا - كَهْمَالَةٌ - غَيْبٌ كُوْنِيْ كَاوْرَبِيْتٌ -

كُوْبٌ ح اَكُوَابٌ كَلَسٌ - اِيْكٌ - پِيَالَةٌ -  
 كُوْبٌ بِيْتٌ كَاوْرَبِيْ رَاہُ نَا - كُوْبٌ كَاوْرَبِيْتٌ كَاوْرَبِيْتٌ  
 شَامِيَا - مَلٌ -

كَادٌ - يَكَادُ كُوْدٌ اَكُوْبٌ كُوْرَبِيْتٌ كُوْرَبِيْتٌ  
 ہونا - كَاوْرَبِيْتٌ وَهٗ كُوْرَبِيْتٌ وَالِیْ -

كُوْرَبِيْتٌ بَهِيْ - چُوْلہا كِيْدَاوْرَبِيْتٌ كُوْرَبِيْتٌ  
 كَاوْرَبِيْتٌ ح كُوْرَبِيْتٌ پِيَاوْرَبِيْتٌ كُوْرَبِيْتٌ  
 كُوْرَبِيْتٌ كِيْدَاوْرَبِيْتٌ كُوْرَبِيْتٌ وَالِیْ -

كَادِيَاوْرَبِيْتٌ - اَلْاَدِيْ كَاوْرَبِيْتٌ  
 كُوْرَبِيْتٌ اِيْكٌ شَہْرٌ اِنْتَهَا كُوْرَبِيْتٌ كُوْرَبِيْتٌ  
 كُوْرَبِيْتٌ ح كُوْرَبِيْتٌ سَتَارَةٌ كُوْرَبِيْتٌ جَمْعٌ  
 كُوْرَبِيْتٌ اِيْتَاہے كُوْرَبِيْتٌ بِنَاۤءِ -

كَانَ يَكُوْنُ كَاوْرَبِيْتٌ وَهٗ كُوْرَبِيْتٌ وَالِیْ -

تکوین پیدا کرنا۔ وجود میں لانا۔ کون موجودگی  
 فطرت۔ عالم وجود۔ مادہ۔ جوہر دنیا۔ کائنات  
 کائنات۔ موجودہ دنیا۔ حادثہ۔ واقعہ۔ موجودات  
 مکانات۔ ممکنہ۔ جگہ۔ مقام۔ مکانات  
 مکانات۔ رتبہ۔ درجہ۔ مکین۔ صاحب رتبہ۔  
 مکان میں رہنے والا۔ تمکین۔ مرتبہ پانا۔ تمکین  
 شان پانا۔ گیوان ستارہ زحل۔ اسنگانہ عابری  
 کرنا۔ کئی داغ دینا۔ گائیہ داغ دینے کا لوبا۔  
 کئی ویکئی تاکہ کئی تاکہ نہ۔ مبادا کہ۔  
 کثیت و کثیت ایسا ایسا۔ اس اس طرح۔  
 کید۔ کر و فریب کرنا۔ فریب دھوکہ۔ جیلہ جنگ  
 مکینہ۔ مکینہ۔ جیلہ۔ دھوکہ۔ داؤ۔  
 کیبائتہ و انائی۔ ذہانت۔ کاریگری۔ کیبائتہ ہوا  
 تقیل۔ ہمیانی کیف کس طرح۔ کیسے۔ کیفیبتہ  
 حالت۔ کیفیبت۔ تکلیف حالت اختیار کرنا۔  
 گیلموس غذا جو معدہ میں آشبوکی طرح ہوتی ہے  
 غذا کارس یا عرق اس کے بعد کی حالت گیلموس  
 کسوتی ہے۔ کیبما (کی صا) اس غرض سے کہ تاکہ  
 کیبنا۔ کونین۔ تشب الیکینا۔ کین کی چھال  
 سنگونا کی چھال۔

## بَابُ اللَّامِ

لی۔ یہ تین قسم کا ہوتا ہے جاڑ۔ بازم۔ غیر عام  
 (۱) سیاہی۔ ہم ظاہر اور باہر متکلم کے ساتھ لکسور  
 اور کبیر اور مستفاد کے ساتھ شروع ہن منتوج

ہوتا ہے جیسے لزید زید کے لئے۔ کت نیرے  
 لئے۔ یا کت خدا یاد کر۔ یہ کئی معنوں میں آتا ہے  
 (۱) انتصاف جیسے الجنة لیسو من بنت من  
 کے لئے خاص ہے۔ (۲) استحقاق جیسے العزرة لله  
 بڑائی کا حقدار اللہ ہے (۳) ملک جیسے بلدا فی  
 السموات والارض خدا ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں  
 اور زمین میں ہے۔ (۴) تبلیغ جیسے قلت لہ ینے اس کو  
 پہنچا دیا۔ (۵) تعریف جیسے ما اللہ حب زید  
 لعمر و زید کو عمر سے کتنی بڑی محبت ہے (۶) قسم جیسے  
 بالله لافعلت خدا کی قسم میں ضرور اس کو کرونگا۔  
 (۷) ضرورت جیسے ولید اللسان لیحیو  
 ابیدیہ۔ انسان ہمیشہ کی زندگی کے لئے پیدا ہوا۔  
 (۸) بعضے علی و الی و فی و عند و بعد بھی ہوتا  
 ہے۔ جیسے یخردون للاحقان وہ ٹھوڑیوں پر گتے  
 ہیں۔ اوخی لہا۔ اس کی طرف وحی کی۔ لیومہ القیامہ  
 قیامت کے دن میں گتبت لخمیس خلون بانج  
 تاریخ کے گذرنے پر مینے لکھا۔ آقیرہ الرسلوۃ  
 ینہ لوائ الشمس۔ سورج ڈھلنے کے بورناز  
 پڑھو اور کبھی زائد ہوتا ہے جیسے ضربت لزید  
 مینے زید کو مارا۔ (۹) تعلیل کے لئے۔ جتک  
 لتعلمہن میں تیرے پاس آیات تاکہ تم مجھے تعلیم  
 (۱۰) ماگان زید لیکر ملک زید ہرگز تیری  
 تعلیم کو نہ تھا یہاں فعل پر داخل ہو کر اس کے آخر کو  
 زبردی ہے اور اس کو مصدری معنوں میں تبدیل  
 کر دیا ہے (ب) جازم جیسے لیخکد اللہ خدا فیصد





لَبِنٌ وَابْنٌ وَكَبِنَةٌ ابْنٌ. لَبْنَانٌ ابْنٌ  
 بطنے والا۔ لَبْنَانٌ۔ لوبان۔ گندر۔ صنوبر۔ لَبْنَانٌ  
 ملک شام کا ایک پہاڑ۔ لَبْنَانِيٌّ۔ لَبْنَانٌ کا رہنے والا  
 کبھی۔ تَلْبِيَّةٌ۔ لبیک کہنا۔ حاجی کاج کے اتنار  
 میں تلبیہ کرنا یعنی كَبَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْتِكَ الخ کہنا۔  
 اَلَّتِي (الذاتی کا مونت)، اَلَّتَانِ تشبیہ۔  
 اَلسَّوَاتِي وَاللَّائِي وَاللَّائِي جمع وہ چیز وہ  
 مونت جو

لِيَا جَنَّةً۔ اصرار کرنا۔ ضد سے جھگڑنا۔ کوشش کرنا  
 ہٹ کرنا۔ لُجَّةٌ گہرا سمندر۔ سَنَابُجٌ یہ اصل میں نام  
 سِنَةٌ لُجٌّ یعنی چھ دریا یا چھ دریاؤں والا ملک  
 جو عرب فاتحین نے رکھا تھا جیسے پنجاب پنج آب  
 مرکب ہے یعنی پانچ دریاؤں والا ملک۔ مسلمان فاتحین  
 نے سندھ کو بھی پنجاب میں شامل کر لیا۔

نَجًا يَأْتِيَانِ لُجَّاءً وَالتَّجَارِي لِيَا لِيَا  
 نَجْمًا يَأْتِيَانِ لُجَّاءً وَالتَّجَارِي لِيَا لِيَا  
 مَلْنِيٌّ پناہ لینا۔ مَلْنِيٌّ پناہ لینے کی جگہ۔  
 مَلْنِيٌّ پناہ لینے والا۔ حفاظت میں آنے والا۔  
 رُتَجَا كَرْنِيٌّ دَالا۔

لِيَا لُجَّاءً لُجْمٌ دُكَّامٌ دُورٌ  
 لُجْمَةٌ کبٹی۔ جماعت۔ جلسہ تشریحی۔ گروہ جو کسی  
 معاملہ پر غور کرے اور اسے پسند یا ناپسند کرنے کے  
 لئے اکٹھا ہو۔ ج لُجْمَاتٌ۔

آ لُجْمِيٌّ السُّؤَالِ۔ کسی کا کوئی چیز مانگنے یا طلب  
 کرنے پر اصرار کرنا۔ سوال کر کے تنگ کرنا۔ پوچھنا  
 لینا۔ اَللُّجْمِيٌّ سخت تقاضا۔ ضد ہٹنا۔ اصرار۔

لَحْدٌ يَلْحَدُ لَحْدًا وَآلْحَدٌ۔ قبر میں ایک طرف بغلی  
 بالحد کھودنا۔ آ لَحْدٌ وَآلْحَدٌ عَنْ دِينِ اللَّهِ  
 سچے دین سے پھر کر گمراہی اختیار کرنا۔ صادق عقائد  
 سے پھر جانا۔ اپنا مذہب چھوڑ دینا۔

لَحْدٌ جِ اَلْحَادِ۔ قبر کی بغلی یا الحد جس میں مردہ کو  
 رکھتے ہیں۔ قبر گور۔ اَلْحَادُ۔ بے دینی۔ بدعت۔  
 لامذہبیت مَلْحَدٌ جِ مَلْحَدَةٌ سچے مذہب  
 کو چھوڑ دینے والا۔ کافر گمراہ۔ بدعتی۔ سچری۔ مرتد۔  
 دہریہ۔

لَحْظٌ يَلْحَظُ لَحْظًا۔ آنکھ کے بیرونی گوشے سے  
 کسی پر نظر ڈالنا۔ کسی پر توجہ کی نگاہ سے دیکھنا۔ لحاظ  
 کرنا۔ خیال رکھنا۔ نظر میں رکھنا۔ آنکھ سے دیکھتے رہنا  
 اَلْحَظُّ مَلَا حَظَّةً وَ لِحَاظًا لُكْسِيٌّ بَانِدٌ كَر  
 دیکھنا۔ غور سے دیکھنا۔ کسی کا خیال رکھنا۔ لَحْظٌ جِ  
 لِحَاظًا آنکھ کا باہری گوشہ۔ مَلَا حَظَّةً ایک دوسرے  
 کا خیال رکھنا۔ رعایت کرنا۔ لَحْظَةٌ لِحْمٌ۔ آنکھ کی  
 بھپک۔ تزجھی نظر۔ مَلْحُوظٌ کوئی پیش نظر چیز  
 کوئی بات جو انسان کی نگاہ میں یاد دہیان میں ہو۔

لَحْفٌ يَلْحَفُ لِحْفًا وَآلْحَفٌ۔ کبیل وغیرہ  
 میں پھینا۔ پوشاک پھینا۔ کپڑے پھینا۔ لِحْفَةٌ  
 اوپر اوڑھنے کا کپڑا۔ چادر۔ کبیل۔ لحاف۔ کھیس۔ دکانی  
 بیوی۔ جُورٌ۔ مَلْحُوفٌ کپڑے میں لپیٹا ہوا۔

لِحْقٌ يَلْحَقُ لِحْقًا وَآلْحَقٌ۔ پہنچ جانا۔ جا ملنا  
 جا لینا۔ ملا دینا۔ اَلْحَاقُ ملا دینا۔ شامل کر لینا۔ پیوستہ  
 لَحْفٌ بَالِنٌ وَاوِيٌّ مَلْحَقٌ۔ شامل کیا ہوا۔ ملایا ہوا۔

لَا حِنَّجَ كَوَاحِقِیْنَا بِلِنِّهِ وَالَا رِشْتَه دَارِ تَعْلَقِ  
 رَكْنَه وَالَا لَحْمٌ لَحْمٌ مَرَّ - گوشت - ماس - لَحْمٌ  
 مَوْتًا نَزْدَه - گوشت سے بھرا ہوا - بھاری بھر کم - پُر گوشت  
 مَا حَمَمَتْهُ جَ مَلَا حَمَمَه - لطافتی - جنگ - کارزار  
 لَحْنٌ یَلْحَنُ لَحْنًا پڑھنے یا بولنے میں صرف و نحو  
 کی غلطی کرنا کسی عربی لفظ پر اعراب غلط پڑھنا -  
 لَحْنٌ جَ اَلْحَانُ آواز - راگ - خوش الحانی -  
 تَلْحِیْنٌ خوش آوازی -

تَلَا حِی یَتَلَا حِی ایک دوسرے کو گالیاں دینا  
 اَرُوْا مِی مَلَا حِیَا سَنَانًا اسی سے گالیاں دینے  
 کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

لَحِیْتَه جَ لُحِی - داڑھی - نیش - لَحِیْتَه التَّیْسِ  
 ایک بڑی بوٹی کا نام ہے لفظی ترجمہ بکرے کی داڑھی  
 بڑیا بکرہ کی داڑھی کو بھی کہتے ہیں۔

لَخْلَخَتْ - نو شہوار دو آئی جو بعض بیماریوں میں سونگی  
 جاتی ہے۔ لَخَصَ - اصل یا عذرہ حصہ چھاتنڈا۔

تَلَخِیصَ - انتخاب کرنا - خلاصہ کرنا - اصل یا عذرہ  
 حصہ انتخاب کرنے کا فعل - تَخْلِیصَه - خلاصہ  
 انتخاب - تَلَخِیصَ خلاصہ یا انتخاب کیا ہوا مختصر  
 کیا ہوا - مختصر پورٹ۔

لَدُوْدٌ لُدٌّ - بڑا جھگڑالو - لڑاکا - بِأَدَبِ اللّٰهِ  
 حدیث شریف کی پیشگوئی میں وہ مقام پہاں پر و تیاں قتل ہوگا  
 یعنی جہاں پادریوں یا عیسائیوں کے فتد تشریفات کا  
 استیصال کیا جائے گا۔ لُدُّعٌ - چھو یا سانپ کا  
 ڈنک مارنا - نہریلے جانور کا کاٹنا۔

لَدُنَّ وَ لَدُنَّ - پاس - کو - ساتھ - قریب - نزدیک  
 لُدْنِی ایسا د علم، جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوا اور اس  
 میں اکتساب یا تحصیل کا دخل نہ ہو۔ وہی علم و عرفان  
 لُدْنِی - پاس - کو - ساتھ - یہ دونوں صیغے دوسرے  
 لفظ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ لَدُنَّ تَبَرَّ  
 پاس - تَدْبِیْدٌ لَدَا ذَا ذَا - مزیدار اور خوش ذائقہ  
 ہونا۔ لَدَا ذَا ذَا لَطَف - مزہ - ذائقہ - حَقْ  
 لذت - لَذِیْدٌ - مزیدار - پُر لطف - خوشگوار خوش  
 ذائقہ - خوش مزہ - اَلتَّذَاذُ و اِسْتِذَاذُ لَطَف  
 اُطْطَا - مزہ اُطْطَا - چٹخارے بھرنا - مُلَذِّذٌ لذت  
 دینے والا - مُتَلَذِّذٌ لذت یا اُطْطَا والا۔

مَلَذَّ ذَا ذَا اسی ادویات جو سوز اور سرور کو زیادہ  
 کریں۔ لَذِیْتَه نیش - سوزش - آگ کا جلانا جلن  
 لَذِیْحٌ سوزش یا جلن پیدا کرنے والا۔ لَذَا حِی کَا تَنَ  
 والا۔ کُوذِ عِی عَقْلَمَد - سمجھ دار - ہونے یا بار آفت کا

پرکار۔ خوش بیان - فصیح اللسان - عالم و فاضل انسان  
 اَلَّذِیْنِ مَتَّ اَلَّذَا نِ جَمِیْعِ اَلَّذِیْنِ وَہ شخص - جو  
 شخص - وہ جو - جس - جو کہ - وہ چیز جو چیز اسم و صول  
 ہے۔ لَذِیْحٌ و لَذِیْحٌ - لَذِیْحٌ

کَرِیْحٌ یَلْزِیْحٌ لَذِیْحٌ پھاپ جانا چرٹ  
 جانا۔ کَرِیْحٌ پیک جانے والا۔ کَرِیْحٌ جِیْبِ  
 پیر - پیک - چیب

لِیْمَرِیْلَزَمٌ لُزُوْمًا و لُزُوْمًا لُزُوْمًا کسی چیز  
 سے ہمٹ جانا۔ واجب یا فرض ہونا۔ لُزُوْمًا کسی  
 سے علیحدہ نہ ہونا کسی کے ساتھ لگ رہنا۔ لُزُوْمًا کسی  
 ساتھ پہننے رہنا۔

الْإِئْتِزَامُ - پابند ہونا۔ ضروری ہونا۔ لازماً ضروری  
واجب۔ لازمی۔ كُذُومٌ ضروری اور لازمی ہونا۔  
الْإِئْتِزَامُ ذِمَّةٌ لِّكَ وَبَيْنَا ضَرُورِي بِالْإِئْتِزَامِ فَرَارٌ دِينًا كَيْسِي  
پر کوئی بات تھوپ دینا۔ مُتْلِذِمٌ وہ شخص جس پر کوئی  
بات عائد کی گئی ہو (اردو میں وہ شخص جس کے ذمہ کوئی  
گناہ لگایا گیا ہو) مُجْرِمٌ - مُسْتَلْزِمٌ لازم آنے والا۔  
ضروری ٹھہرا یا جانے والا۔

لَسَعٌ يَلْسَعُ لَسْعًا دَسْنًا - ڈنک مارنا۔  
لِسَانٌ حَالِيْنَةٌ - زبان۔ گفتگو۔ لغات۔ بولی  
لِسَانٌ أَلْحَالِي - زبان حال۔ لِسَانٌ - زبان  
دراز۔ باتوں کی آدمی۔ جس کی زبان بہت چلتی ہو۔  
لِسَانِيٌّ زَبَانِيٌّ - زبان کے متعلق۔ لِسَانٌ حَالِيٌّ  
چور۔ ڈاکو۔ لِسَانٌ - قزاق۔

لَصِيقٌ يَلْصِقُ لَصِيقًا وَالتَّصِيقُ - کسی سے  
چمٹنا۔ چپکنا۔ خوب ملا ہوا ہونا۔  
التَّصِيقُ - اتحاد۔ میل جول۔

لَطْفٌ يَلْطَفُ لُطْفًا بِوَلِيٍّ كَيْسِي پُرْهَرَانِي  
کرنا۔ لَطَافَةٌ نازک ہونا۔ باریک ہونا۔ لطیف و  
سبک ہونا۔ کسی کے ساتھ عہدگی اور سلیقے سے برتاؤ  
کرنا۔ سلیقہ مند ہونا۔ عمدہ ہونا۔ مَلَا لَطْفَةً مَهْرَانِي  
کا برتاؤ کرنا۔ شفقت سے پیش آنا۔ تَلَطَّفْتُ  
خوش خلقی اور محبت و شفقت سے پیش آنا۔

لَطْفٌ حَالِيٌّ - مہربانی۔ عنایت۔ شفقت۔  
مہر۔ وہ سنی۔ خدا تعالیٰ کی حفاظت و فہم و کرم۔ لَطِيفٌ  
عنایت کرنے والا۔ نازک۔ پیارا۔ نفیس۔ عمدہ۔ حسین۔ جمیل۔ شفیق۔  
مہربان۔ عنایت کرنے والا۔

الْإِطِيفُ - باریک بین۔ خدا تعالیٰ کا وصفی نام ہے  
لَطَمٌ يَلْطَمُ لَطْمًا وَ لَاطَمَ - تھپڑ مارنا۔ طمانچہ  
مارنا۔ دھول مارنا۔ کانوں یا گالوں پر تَلَاطَمٌ ایک  
دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ بھند  
کی لہروں کا آپس میں ٹکرانا۔ لَطْمَةٌ حَالِيٌّ لَطْمَاتٌ كَالِ  
یا گال پر چیت رسید کرنا۔ لَطِيٌّ - آگ بشعلہ یا لپٹ  
لَعِبٌ يَلْعَبُ لَعِبًا كَهْلًا - کودنا۔ ہنسی و  
دل لگی کرنا۔ مذاق کرنا۔ مَلَاعِبَةٌ ایک دوسرے کے

ساتھ کھیلنا کودنا۔ میاں بیوی کا آپس میں چہل کرنا  
لَعِبٌ كَهْلٌ كُودٌ - لَعِبَةٌ كُودِيَةٌ - کھلونا۔ کٹ پتلی۔ ہر  
وہ چیز جس سے کوئی کھیلے۔ لَعَابٌ - رال۔ ٹھوک۔ لَعَابٌ  
دہن۔ لَعَابِيٌّ لَبِيسَةٌ - لَعَابِيَّةٌ - کھیل۔ ہنسی۔  
مٹھا۔ کھلونا۔ مَلْعَبٌ حَالِيٌّ كَهْلَةٌ كَامِيَانٌ  
تاشا گاہ۔ تھپڑ۔ ناٹک۔ فیلڈ۔ لَعِبَةٌ بَرَبَرِيٌّ  
لچھنا لچھنی۔ لَفَاحٌ - بَبْرُوعٌ الصَّغْمُ - بیلہ ڈونا۔  
ایک مشہور جرطی بوٹی جس کی شکل مرد و عورت کی طرح  
ہوتی ہے۔ اور ذکات جس کا ذب کو دفع کرتی ہے۔

لَعِقٌ يَلْعَقُ لَعَقًا - چاٹنا۔ اُنْجَلِيٌّ سے چاٹنا۔  
لَعْوَةٌ - چٹنی۔ ہر وہ دوا جو چاٹی جا سکے۔ مَلْعَقَةٌ  
حَالِيٌّ چمچ۔ قاشق۔ لَعَلٌّ - شائد۔ ہو سکتا ہے  
جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے معنی  
واجب کے ہوتے ہیں۔ لَعَلَّابٌ بَعْنٌ لَعَلٌّ - ممکن ہے  
امید ہے اکثر اس کے آخر میں ضمیر متصل لگا دینی جاتی  
ہے جیسے لَعَلَّابٌ۔

لَعْنٌ يَلْعَنُ لَعْنًا - پھٹکار۔ بیجنا۔ دُور کرنا۔ رُحْنٌ  
سے دور کرنا۔

مَلَاعَنَةً اِیْکَ دوسرے پر لعنت یا پھٹکا ڈالنا۔ کوسنا  
لَعْنٌ وَ لَعْنَةٌ لِعَانٌ۔ لعنت۔ پھٹکار۔ بد دعا  
رحمت سے محروم کرنا۔ دھتکارنا۔

لَعِیْنٌ وَ مَلْعُوْنٌ۔ لعنت کیا ہوا۔ دھتکارا ہونا  
رحمت و قرب سے دُور کیا ہوا۔ مردود۔ مَلْعُوْنَةٌ  
بد بخت۔ لعنتی۔ رحمت سے دُور کی ہوئی۔

لَعْبٌ وَ لَعُوْبٌ۔ نھکان۔ کمزوری۔ ضعیف۔  
لَعْرٌ پھیلی۔ چھیستان۔ معتمہ۔ بھیبہ۔

لَعَا یَلْعُوْا لَعْوًا۔ بات چیت کرنا۔ بولنے میں غلطی  
کرنا۔ فضول بکنا۔ لُعْنٌ لُعْنٌ وَ لُعَاتٌ۔ زبان  
بولی۔ لفظ۔ فقرہ۔ محاورہ۔ جملہ۔ کلام۔ بیان۔ عِلْمٌ

اللُّغَةِ۔ کسی زبان کے مفرد الفاظ کا علم۔ لُعُوْبٌ  
باجاوریہ زبان جاننے والا۔ اَهْلُ اللُّغَةِ لغت  
کے عالم۔ علم لغت کے ماہر لوگ۔ لَعُوٌّ وَ لَاغِیْبَةٌ

فضول بات۔ بے ہودہ کلام۔ بیج و پوچھ گفتگو بیہودگی  
لَفٌّ یَلْفٌ لَفًّا وَ لَفْفٌ۔ پیٹنا۔ لفافے  
میں بند کرنا۔ چھپانا۔ بلانا۔ لَفَاقَةٌ پیٹنے کی چیز

مَلْفُوْفٌ پیٹا ہوا۔ بند کیا ہوا۔ لَفٌّ وَ كَشْرٌ  
پیٹنا اور کھولنا۔ علم بدیع کی ایک صنعت کا نام۔  
لَفِیْفٌ۔ وہ فعل جس کے حروف اصلی میں سے دو

حرف علت ہوں جیسے طَوِیٌّ وَ وَفِیٌّ۔ مُلْتَفٌ  
گنا۔ گنجان۔ گتھا ہوا۔ اُلْبَھَا ہوا۔  
لَفْتٌ یَلْفُتُ لَفْتًا۔ ادھر ادھر پیٹنا۔

اَلتَّفَاتٌ الی۔ مُرْکَرٌ دیکھنا۔ اِنْتِفَاتٌ دیکھ  
مُرْکَرٌ دیکھنا۔ توجہ۔ فکر۔ عنایت کرنا۔ پرواہ کرنا۔ خیال  
کرنا

لُقَّاحٌ۔ یسْرٌ وَ حِجُّ الصَّنَمِ۔ بیلا ڈونا۔ یا پھینا پھینتی  
لُعِبْتُ بربری ایک مخدر دوا کا نام جو دفع ذکاوت  
حس کاذب و باطل کے لئے مفرد بطور سفوف یا سنگر  
استعمال کی جاتی ہے اور مرگب کر کے بھی۔

لَفْظٌ یَلْفِظُ لَفْظًا۔ پھینکنا۔ مُنْہ سے نکالنا۔  
کسی لفظ کو ادا کرنا۔ لَفْظٌ آ لَفَاطٌ مُنْہ سے نکالا  
ہوا کلمہ۔ کلام۔ لہجہ۔ لفظ۔ تَلَفُّظٌ کلام کرنا بولنا۔  
زبان سے ادا کرنا۔ مَلْفُوْظَةٌ مَلْفُوْظَاتٌ  
کسی کا کلام۔ بات۔ گفتگو۔ بیان۔

لَفَاطٌ بناوٹی یا حد سے زیادہ بولنے والا۔ لَفْظًا وَ  
مَعْنٰی الفاظ اور معانی کے لحاظ سے

مَلْفُوْظٌ بولا ہوا۔ کہا ہوا۔ زبان سے ادا کیا ہوا  
تَلَا فِی یَتَلَا فِی تَلَا فِیًّا۔ کسی معاملہ کو لے کر  
اس کا انتظام کرنا۔ درست کرنا۔ کسی نقصان کا بدلہ  
پورا کرنا۔ تدارک کرنا۔

لَقَّبَ بِ۔ خطاب دینا۔ اچھا لقب دینا یا بُرَا  
نام رکھنا۔ تَلَقَّبَ خُطَابٌ وَ اَلَا ہونا۔ لقب اختیار  
کرنا۔ لَقَّبَ حِجُّ اَلْقَابِ۔ لقب۔ اِنْبَھَا اَلْقَابُ  
عزت یا خطاب یا حقارت کا نام۔ لَقَبٌ

مُلَقَّبٌ لقب دیا ہوا۔ خطاب رکھنے والا۔  
تَلَا قَبٌ ایک دوسرے کو بُرے القاب سے گالی  
دینا۔ لِفْتٌ تَلْفُمٌ لِفْتٌ الشَّیْطَانِ یا لِفْتٌ  
اَلْحِیَّةِ۔ سب بولتی۔ سُور گنڈا۔ ہتھ میں۔ جو ایک

زہریل جڑی بوٹی ہے  
لَقَطٌ یَلْقُطُ لَقْطًا۔ زمین سے چُن کر اٹھا لیا۔

لُقِطَةٌ گری ہوئی چیز جس کا مالک معلوم نہ ہو۔  
مُلْتَقَطَةٌ منتخب کیا ہوا۔ چُنا ہوا۔ اِلْتِقَاطٌ  
چُنا۔ انتخاب کرنا۔ اِقْتِبَاسٌ کرنا۔

لَقْلَقٌ۔ سارس۔ لَقْلَقَةٌ سارس کی آواز۔  
حِزْبٌ واضطراب والی آواز۔

لَقْمَةٌ يَلْقَمُ لَقْمًا۔ جلدی جلدی نگلنا یا  
تیزی سے کھانا۔ لُقْمَةٌ نوالہ۔ لُقْمَةٌ لِقْمَةٌ لِقْمَةٌ  
یا نوالہ بنا لینا نگلنا۔ حلق سے اُتارنا۔ لُقْمَانٌ ایک  
ریاضی حکیم یا روحانی فلاسفر کا نام جس کا ذکر قرآن پاک  
میں ہے۔

لَقِنٌ يَلْقِنُ لَقْنًا فَوْرًا سَمَّحًا جَانًا۔ تَلْقِينٌ  
سمجھانا۔ سکھانا۔ بتانا۔ تَلْقِينٌ کرنا۔

لَقْوَةٌ مَنَّهُ طَبْرًا ہو جانے کی بیماری ہو جانا۔  
لَقِيَ يَلْقُو لَقْوًا۔ لقوہ ہو جانا۔ مَنَّهُ طَبْرًا ہو جانا  
لَقِيَ يَلْقِي لِقَاءً آئِنَةً سَمْنَةً هُونًا۔ مَنَّهُ  
بھیڑ ہو جانا۔ ملاقات کرنا۔ لَاقِي مَلَاقَاتٌ کسی کو  
ملنے کو جانا۔ ملاقات کرنا۔ دوچار ہو جانا۔ تَلَاقِي  
آپس میں ایک دوسرے سے ملنا۔ مَلَاقِي ملنے والا  
ملاقات کرنے والا۔ اِلْقَاءٌ وَاِلْنَا۔ دل میں ڈالنا۔

بھینک دینا۔ اِسْتَلْقَاءٌ چت لیٹنا۔ تَلْقَاءٌ  
آئینے سامنے۔ طرف۔ جانب۔ يَوْمُ التَّلَاقِي  
قیامت کا دن۔ روز محشر۔ مَلْتَقِي جنکشن ملنے کی  
جگہ یا مقام۔ لَكْتُ لَاحٌ۔ چپڑا لاکھ جو ایک درخت سے  
حاصل ہوتا ہے لَكْتُ ج لَكُوكٌ۔ ایک لاکھ۔  
ایک کروڑ۔ لَكْتُ لَاحٌ کے درخت کا رس یا گوند

لَكَدَ يَلْكَدُ لَكَدًا۔ ہاتھ سے مارنا یا دھکیلنا  
لَكَمَ يَلْكَمُ لَكْمًا۔ مارنا۔ لَكَمَ مار کر پیچھے ہٹانا  
مَلَاكِمَةٌ گھونٹے بازی۔ مَلَاكِمَةٌ بازی۔ لَكْنَةٌ  
اچھی طرح بول نہ سکتا۔ ہلکانا۔ تَلْتَلَانَا۔ گنواروں کی  
طرح بولنا۔ زبان کا گفتگو میں رُکنا اور اُٹکنا۔ اَلْكَنُّ  
ہلکا۔ لَكْنَتٌ والا۔ لَوُكْنَدَةٌ۔ ہوٹل۔ سِرَّةٌ۔  
لَكِيْنٌ۔ وَ لَكِيْنٌ۔ لَآكِيْنٌ۔ لیکن۔ تاہم۔ تِسْ پر  
بھی۔ ہر حال۔

لَكِيْنٌ۔ لَكِيْمًا۔ تاکہ۔ یَكِيْلًا مَبَادِرٌ۔ لَمْ نَهِيْ  
لَمَّا ابھی تک نہیں۔ صرف۔ بُوَدٌ۔ بُوَدٌ۔ لَمَّا  
اس کا استعمال دو طریقوں پر ہوتا ہے۔ (۱) مضارع  
کو ماضی منقہ کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے لَمَّا  
يَدْخُلُ ابھی تک نہیں داخل ہوا۔ (۲) ظرف کے  
معنی دیتا ہے جیسے لَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ خُوْشِرًا  
لانے والے کے آنے کے وقت میں۔

لِمَاذَا کیوں؟

لَمَحَّ يَلْمَحُ لَمَحًا۔ الی کسی کی طرف پُرانی  
ہوئی نظر سے دیکھنا۔ نَظْرًا اِلْنَا۔ لَمَحَةٌ ج لَمَحَاتٌ  
پوشیدہ نگاہ۔ ایک لمحہ۔ تَلْمِيْحٌ کسی چیز کا اشارہ  
کنا یہ۔ رمز۔ تعریض۔ خفیہ اشارہ۔

لَمَسَ يَلْمَسُ لَمَسًا۔ چھونا۔ ہاتھ سے ٹولنا  
اِلْتِمَاسٌ کسی چیز کے لئے عرض کرنا کسی سے کوئی  
چیز مانگنا۔ لَمَسٌ۔ چھونا۔ احساس۔ قُوْتٌ لَامِسٌ  
چھونے یا احساس کرنے کی طاقت۔

لَا مَسَّةٌ تُؤَلِّقُ يَأْجُوهُ كِي حَسٌّ۔ مَلَمَسٌ  
چھونے کی جگہ۔

مُلْتَمِسُ التَّجَارِ یا التَّمَاثُلِ یا اور خواست کرنے والا۔  
عرض یا استدعا کرنے والا۔ مانگنے والا۔

لَمَعَ يَلْمَعُ لَمَعَانًا۔ چمکنا۔ دکھنا۔ روشن ہونا۔  
جھلملانا۔ لَامِعٌ چمکنے والا۔ اَلْمَعِيُّ تیز عقل والا۔  
سمجھدار۔ ہوشیار۔ مُلْمَعٌ چمکنے والے۔ (اردو)  
میں ایسا زیور یا اوزار جس پر سونے وغیرہ کا پانی چڑھایا  
ہوا ہو، گلٹ کیا ہوا۔ يَلْمَعِيُّ ذہین۔ تیز مزاج  
لَنْ فَعْل مَضَارِعٌ کو نصب دینے کا حرف اور نفی  
استقبال کا کام دیتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بالکل نہیں  
کبھی نہیں۔

لَهَبٌ يَلْهَبُ لَهَبَانًا۔ بھڑکنے۔ شعلہ مارنا  
زور سے مشتعل ہونا۔ اِلْتِهَابٌ سوزش۔ جلن  
آگ لگ جانا۔ مُلْتَهَبٌ بھڑکنے والا۔ جلنے والا۔  
شعلہ زن۔ اَبُو لَهَبٍ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کا ایک چچا جو آپ کا سخت مخالف تھا۔

الْاَهْوَاتُ الْاَوْهِيَّتُ۔ صفت ذات الہی۔  
الہیت۔ خدائی۔ عِلْمُ الْاَهْوَاتِ۔ علم عقائد۔ دینیات  
لَا هُوَتِيٌّ عِلْمُ ذَاتِ الْاَلٰہِیِّ كَالْعَالَمِ۔ دینیات و عقائد کے  
علم کا عالم۔ تھیولوجی۔

كَلْهَجَةٌ۔ زبان کی نوک۔ زبان۔ آواز۔ لہجہ۔ طرزِ ادا  
بولی۔ اَلْهَمَّ۔ اَلْهَامًا۔ اِلْفَاكْرَانَا۔ دل میں ڈالنا۔  
اِلْهَامٌ رَجِ اِلْهَامَاتٌ۔ دل میں ڈالی ہوئی بات  
الہام۔ وحی۔ مُلْهِمٌ۔ الہام یا وحی کرنے والا۔ مُلْهِمٌ  
جس کی طرف الہام کیا جائے۔ كَلْهَوٌ۔ کھیل۔ بہلاوا  
شغل۔ غافل کرنے کی چیز۔ مشغله۔ مُلْهِمٌ رَجِ مَلَاہِی  
تفریح۔ کھیل۔ کودکا سامان

اَلَا تِ الْمَلَاہِی۔ باجگانے بجانے کے آلات۔  
مزامیر۔

کُوْ حَرْفٌ شَرْطٌ ہے۔ اگر۔ کاش۔ یہ چھ طرح استعمال  
ہوتا ہے۔ (۱) زمانہ ماضی پر شرط کے معنی دیتا ہے جیسے  
لَوْ جَاءَنِي لَأَكْرَمْتُهُ۔ اگر وہ میرے پاس آتا تو  
میں اسکی عزت کرتا۔ (۲) زمانہ مستقبل میں شرط کے  
معنی دیتا ہے۔ (۳) مصدریہ یعنی آن۔ لیکن یہ نصب  
نہیں دیتا (۴) تمنا کے لئے (۵) عرض کے لئے (۶)  
تعلیل کے لئے و لَوْ۔ باوجودیکہ۔ گو کہ۔ اگرچہ۔ کُوْ لَوْ  
بغیر اس کے۔ اگر نہیں۔ اَلَا تِ یہ موقع نہیں یہ وقت  
نہیں۔ کُوْتُ كَيْفٌ لِنَهْرِنَا۔ مَلُوْتُ لِنَهْرِنَا۔ کُوْتُ  
گناہ ناپاکی۔

لَا حَ يَلُوْحُ لَوْحًا۔ ٹھٹھانا۔ چمکنا۔ دکھنا۔ جھلملانا  
جگمگانا۔ لَوْحٌ اَلْوَاْحُ۔ تختی۔ تختہ۔ پتھر ہر  
ایک چوڑی چیز۔ چوڑی۔ چھٹی ہڈی۔ نَلُوْحَاتٌ  
کتاب کے توشی یا نوٹ۔ لَامِحَةٌ لَوَاْحٌ چمک  
دک۔ ظہور۔ فہرست۔ جِسْرٌ جِسْمٌ۔ لَامِحَةُ الْعِلْمِ۔ پروگرام  
لَاذٌ يَلُوذُ لِيَاذًا۔ پناہ لینا۔ گھبر لینا۔  
مَلَاذٌ پناہ لینے کی جگہ۔ قَلَمٌ كَلَمٌ۔ لَوَاظِمٌ بَادِمٌ  
درخت اور بھیل۔

لَا طَ يَلُوْطُ لَوَاظِمَةٌ اِعْلَامٌ اَرْنَا۔ لَوَاظِمَةٌ لَوَاظِمَةٌ  
سچہ بازی کرنا۔ لَوَاظِمٌ وَ لَوَاظِمٌ لَوَاظِمٌ بَادِمٌ  
لَوَاظِمَةٌ اَعْلَامٌ اَرْنَا۔ لَوَاظِمَةٌ اَعْلَامٌ۔ لَوَاظِمَةٌ بَادِمٌ  
لَوَاظِمٌ اَعْلَامٌ اَرْنَا۔ لَوَاظِمَةٌ اَعْلَامٌ اَرْنَا۔ لَوَاظِمَةٌ  
اَعْلَامٌ اَرْنَا۔ لَوَاظِمَةٌ اَعْلَامٌ اَرْنَا۔ لَوَاظِمَةٌ اَعْلَامٌ اَرْنَا۔

# بَابُ الْمِيمِ

مَا۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) حرفیہ جو مندرجہ ذیل طرز پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مَا هَذَا بَشَرًا یہ آدمی نہیں۔ (۲) زائد جیسے قِيمًا رَحْمَةً مَقِينٍ لِي لِيْتَتْ لَهُمْ بِسَخَاةٍ رَحْمَةٍ مِّنْ تُوَانِ كَيْ لَمْ يُوَا۔ (۳) مَا كَانَهُ جِيسِي كَانَمَا يَسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ كَوِيَا كَوِيَا مَوْتِ كِي طَرَفِ لَانِكِي جَانِي هِي (۴) مَا مَصْدَرِيَه جِيسِي ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ بَاو جُو دَفْرَاحِ هُونِي كِي اِنِ پَرِي زِي مِي نَتَنِكِ هُوَكِي (۵) مَصْدَرِيَه نَظْرِيَه وَ اَوْ صَاتِي بِالصَّلْوَةِ وَالزَّكْوَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اُس نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا (۶) اِسْمِيَه اِسْتَهَامِيَه جِيسِي مَا عِنْدَكَ تِيرِي پَاسِ كِيَا هِي۔ (۷) مَجْرُورِ هُونِي كِي هَالْتِ مِي اِسِ كِي اَلْفِ كُو كِرَا كِرِيمِ پَرِ فْتَمِهِي پَرِ طَرَفِي هِي۔ جِيسِي هَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (۸) مَوْصُولِ مَعْنِي جُو كِي يَا جُو كُجْ كِي جِيسِي مَا عِنْدَكَ يَنْفَدُ جُو كُجْ تَهَارِي پَاسِ هِي خْتَمِ هُو جَا كِي كَا۔ (۹) جَزَائِيَه جِيسِي مَا يَفْعَلُ اَفْعَلُ جُو كُجْ وَ هُو كَرِي كَا مِي اَكْرُو كَا (۱۰) تَعَجُّبِ كِي لِي جِيسِي مَا اَحْسَنَ زَيْدًا زِيَدِ كِي سَا نُو بِصَوْرَتِ هِي (۱۱) فَعْلِ كِي سَا تَه مَصْدَرِ كِي تَحْوِيلِ كِي لِي جِيسِي بَلَّغْنِي مَا صَنَعْتَ مَجْهِي تِيرَا فَعْلِ پَهِنِجِ كِيَا هِي۔

مَاذَا۔ لِمَاذَا۔ كِيَا۔ كِيَا۔ جِيَز۔ كِيُولِ؟ بِيْتَمَا جِيَكِي۔ حَالَمَا۔ يُو هِي۔ حَيْثُ مَا۔ جِهَانِ كِي هِي۔

لَوْعَةً جِلْنِ سَوْزِشِ تِيْشِ۔ لَوْفٌ اِيَكِ قِسْمِ كَا پُو دَا جُو جِيَكِي پِيَا زِي كِي طَرَحِ هُو تَا هِي اَسِي سُو رَكْنَدَا جِي كِهْتِي هِي اُو رَفِئْتُ الْحَبِيَه جِي اِسِي كَا نَامِ هِي  
 لَوْلَا۔ لَوْ مَا۔ اَكْرِيُولِ نَهْ هُو تَا تُو۔ اَكْرِيَا سَا نَهْ هُو تَا لَا مَرِيْلُوْمُ لَوْ مَا۔ مَلَامَتِ كَرْنَا۔ سَرْزِشِ كَرْنَا۔ لَعْنَتِ كَرْنَا۔ مَلَامَةٌ مَلَامَتِ۔ سَرْزِشِ۔ لَآئِمٌ مَلَامَتِ كَرْنِي دَا لَا۔ كَوْنٌ جَمْعُ اَلْوَانِ۔ رَنِكِ۔ قِسْمِ شَكْلِ۔ مُتَلَوْنٌ۔ رَنِكِ لَانِي دَا لَا۔ تَلَوْنٌ رَنِكِ بَدَلْنَا مُخْتَلَفِ رَنِكِ اُو رِ حَالَتِ بَدَلْنَا۔ لَوْنَدَا۔ لَوْنَدَرِ اِيَكِ قِسْمِ كَا اَنِكْرِيِي عَطْرِ۔

لَوَاعِجُ اَلْوِيَّةِ۔ جَهْنَدَا۔ بِيْرَقِ۔ عِلْمٌ اَلتَّوَاعِيَةُ جِي وَ اَلنَا۔ مَلْتَوِي كَرْنَا۔ مَوْزِنَا۔ جِيُوْزِ دِيْنَا لَوِيِي جِ لَوِيِيُونِ۔ لَوِيِي پَسِرِ حَضْرَتِ يَعْقُوبِ عَلَيْهِ السَّلَامِ كِي اُو لَادِ كَا اَدْمِي۔

لَيْتٌ۔ حَرْفِ تَمْنَا كِي چِيَزِ كِي تَمْنَا كِي اَنَهَارِ كِي لِي اَكْثَرًا مَكْنِ چِيَزِ كِي اَرَزُو كِي لِي اَنَهِي مَعْنِي۔ كَاشِ لِي كَاشِ۔ كَيْتَسِ هِي هِي۔ اِسِ فَعْلِ كَا مَضَارِعِ هِي هِي هُو تَا۔ يِرِ اَصْلِ مِي لِيْسِ هِي مَبْنَدَا اُو رِ خِيْرِي دَا خَلِ هُو كَرِ مَبْتَدَا اُو رِ فَعِ اُو رِ خِيْرِي كُو نَصْبِ دِي تَا هِي لَاقٌ يَلِيْقُ لِيَا قَةً۔ لَاقٌ هُو تَا۔ مَطَابِقِ هُو تَا اِهْلِ هُو تَا۔ مَنَاسِبِ هُو تَا۔ لَاقٌ وَ لِيِيْقٌ۔ مَنَاسِبِ هُكِي۔ كَيْلِجِ كَيْبَالٍ وَ كَيْلَنَةٌ وَ كَيْلَاتٌ رَا لَانَ يَلِيِيْتُ لِيِنَةً۔ نَرْمِ هُو تَا۔ مَلَامٌ هُو تَا۔ نَا زَكِ هُو تَا۔ كَيْتَنَ تَلِيِيْتِنَا نَرْمِ كَرْنَا۔ مَلَامٌ كَرْنَا مَلِيِيْتِنُ نَرْمِ وَ مَلَامٌ كَرْنَا لَوَا لَا۔ لِيِنَةٌ نَرْمِي۔ كَمْزُورِي۔ مَلَامَتِ۔ وَ صِيْلَانِ





کہ یہ دونوں قومیں (یا جوچ یا جوچ) سب دنیا پر تسلط  
جما کر اور غلبہ حاصل کر کے آخر کار آپس میں لڑائی اور  
ایک ہولناک جنگ کے ذریعہ ان دونوں کا خاتمہ ہو  
جائے گا۔ اور اس آخری جنگ میں . . . . .  
. . . . . اور روس شکست کھا کر بلیا بیٹ  
ہو جائے گا۔ اور جماعت الہیہ کے ذریعہ اسلام پر  
رواق و بہار کے دن لوٹیں گے۔ اور اسلام دنیا میں  
پھیل جائے گا۔ اور حکومت الہیہ حضرت مسیح محمدی  
علیہ السلام کی جماعت کے ذریعہ قیامت تک قائم  
ہوگی۔ اور حضرت مسیح محمدی علیہ السلام کا ایک بیٹا  
بھی تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوگا اور بخارا اور  
روس کی سلطنت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی  
جماعت کے ہاتھ آجائے گی۔ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ  
وَمَنْ لَّمْ يَسْتَأْذِنْ يَكُنْ ۙ ۱۴ رمضان ۱۳۵۸ھ  
مَجِدٌ يَّمْجِدٌ مَّجِدًا۔ بڑا ہونا۔ نامی گرامی  
ہونا۔ مَجِدٌ جِجَادٌ شرافت۔ درجہ۔ شان و  
شوکت۔ قیاضی۔ عزت۔ زمین کا بلند حصہ۔  
تَمَجِيدٌ تعریف۔ عزت۔ بزرگی۔ شرافت والا  
ہونا۔ مَا جِدُّ مَث مَا جِدَّةٌ بزرگی والا۔  
آفَجِدُّج آفَجِدُّ۔ زیادہ شریف زیادہ بزرگ  
زیادہ باعزت۔ مَجِيدٌ معزز۔ اَلْمَجِيدُ بزرگ  
و برتر خداوند کریم۔ مَجِيدِيٌّ سلطان عبدالمجید خاں  
کے عہد حکومت کا ایک چاندی کا سکہ جس کی قیمت  
اڑھائی روپیہ تھی۔  
مَجْرٌ آسٹریا یا ہنگری کا باشندہ

مَجُوسٌ مجوسی لوگ۔ آتش پرست۔  
مَجُوسِيَّةٌ۔ آتش پرستوں کا مذہب۔  
تَمَجِسٌ آتش پرست یا مجوسی بن جانا۔  
مَجْدَةٌ مجموعہ قوانین کتاب یا ماہواری رسالہ۔  
مَجَانٌ وہ تحفہ جو مفت دیا جاوے۔  
مَجَانًا۔ مفت میں۔ بلا داموں کے۔  
مَحَصٌ يَمْحَصُ مَحْصًا بِ صاف اور  
خالص کرنا۔ کھرا بنانا۔ تَمَحِصُ خالص کرنا۔ پاک  
اور صاف کرنا۔  
مَحْضٌ۔ خالص جس میں آمیزش نہ ہو۔ صرف  
اصلی۔ مَحْقٌ۔ فنا۔ بربادی۔ تباہی۔  
مَحَاقٌ قمری مہینے کی آخری تاریخیں۔ جن میں چاند  
چھپ جاتا ہے۔ سلخ ماہ۔ چاندنی کی کمی۔  
مَحَالٌ ناممکن۔ لَا مَحَالَہ۔ لَا بُدَّ بے شک ضروری  
مَحَنٌ يَمْحَنُ مَحْنًا۔ جانچ کرنا۔ آزمائش  
کرنا۔ اِمْتِحَانٌ۔ جانچنا۔ آزمانا۔ جانچ۔ پڑتال  
تجربہ۔ آزمائش۔ مِحْنَةٌ جِ مِحْنٌ مشقت  
آزمائش مصیبت۔ بَدْمَنِيٌّ۔ مُمْتَحِنٌ۔ امتحان  
لینے والا۔  
مَحَا يَمْحُو مَحْوًا۔ مٹانا۔ ناسب کرنا۔  
مَحْرَجٌ مِحْرَجٌ۔ بھیجا۔ گودا۔ مفر۔ مَحْبِضٌ  
چھاپھ۔ کٹی۔ مَطَّأٌ۔ مَخَاطٌ۔ رینٹ۔ ناک کی بلغم نزلہ  
مَخَاطِيٌّ بلغم والی (جھلی وغیرہ)  
مَدَّ يَمُدُّ مَدًّا۔ پھیلانا۔ لمبا کرنا۔ چوڑا کرنا  
اِمْتِدَادٌ پھیلنا۔ لمبا ہونا۔ دراز ہونا۔

اشتمداداً - مدد مانگنا - امداد مانگنا - مَدُّ الْبَحْرِ  
 سمندر کے پانی کا خشکی کی بڑھنا - مَدٌّ وَ مَدَّةٌ ہر  
 (ء) کے کھینچنے یا دراز کرنے کی علامت - مَدِّ (س)  
 مَدُّ خشک چیزوں کے ناپنے کا پیمانہ جو تین پاؤ  
 کے قریب ہوتا ہے - مَدَّةٌ - وقفہ - عرصہ - مدت  
 مَدَّةٌ - پیپ - مواد - مَدَّةٌ وَ اِمْدَادٌ - مدد  
 رعایت - نصرت - امداد - دستگیری - مَدَادٌ  
 سیاہی - روشنائی - مَادَّةٌ ج مَوَادٌّ بیوٹی  
 غلط مادہ - چیز - اصل شے - مَادِیٌّ جو مادہ سے  
 بنی ہو یا جو روحانی نہ ہو - مَدِيدٌ لمبا - دراز -  
 علم عروض کا ایک بحر - مَدَدٌ پھیلاؤ - درازی  
 وسعت - مُمْتَدٌّ کھینچ کر بڑھایا ہوا - پوڑا - وسیع  
 پھیلایا ہوا - علم عروض کا ایک بحر مُمَدٌّ مددینے  
 والا - مَمْدُودٌ - انگریزی - مَوَادُّ اللُّغَةِ لغت  
 کے الفاظ - مَوَادُّ الْعِلْمِ علم کی بحثیں -  
 مَدْحٌ يَمْدَحُ مَدْحًا - تعریف کرنا - کسی  
 کی خوبی بیان کرنا - مَدْحَةٌ قابل تعریف کام -  
 مَا دِحٌّ مدح یا ستائش کرنے والا - مَمْدُوحٌ  
 مٹ مَمْدُوحَةٌ جس کی تعریف کی جائے -  
 مَدَّاحٌ بہت ہی تعریف کرنے والا - ستائش  
 مَدِيحٌ مَدَّاحٌ - ستائش - تعریف - ستائش  
 اهل المدینہ - شہری لوگ - مَدَنٌ شہر بنانا  
 مَدَنٌ شہر بسا کر رہنا - شَائِسْتہ ہونا - تہذیب  
 یافتہ ہونا - شَائِسْتِی تہذیب - شہریت -  
 مَدِينَةٌ مَدَنٌ وَ مَدَائِنٌ - شہر - قصبہ -

الْمَدِينَةُ - مدینہ منورہ - مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
 مَدَنِيٌّ - مدینہ شریف کا رہنے والا - مَدِينَةٌ  
 شہریت - مَدَنِيٌّ الطَّبِيحُ بل جل کر سنجہ والا -  
 مَدَائِنٌ - مزاج - مَدٌّ (کسی خاص وقت) سے  
 مَرَّ يَمُرُّ مَرُّوْرًا - پاس سے ہو کر گذرنا -  
 اِسْتَمْرَادٌ جاری رہنا - ایک ہی حالت میں ہونے  
 رہنا - قائم رہنا - مستقل رہنا - مَرَّ كَرُوْرًا -  
 مَرَّ ایک دو بار جو تک شریف کے آس پاس پیدا ہوتی  
 ہے اور مرغی کہلاتی ہے - مَرَارَةٌ کڑوا پن - تلخی  
 کڑواہٹ - ایک عضو کا نام جسے پتہ کہتے ہیں - مَرَّ  
 سخت کڑوا -

مَرَّةٌ ج مَرَارَاتٌ - ایک بار - ایک مرتبہ  
 مَرَّةٌ پتہ - صفراء - طاقت - مَرَّ وَ مَرُّوْرًا  
 یا وقت کا گذرنا - مَمَرٌ راستہ - مَرَّ گزرنے کی جگہ  
 مَسْتَمِرٌّ دیر پا - جاری رہے ہمیشہ رہنے والا -  
 مَرَّوْرٌ وَ اِمْرَاؤٌ مَرَّوْرٌ وَ اِمْرَاؤَةٌ  
 ج نِسَاءٌ وَ نِسْوَانٌ - عورت - مَرَّوْرَةٌ جو امرؤی  
 آدمیت ہمت - بہادری - قہر مری - مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ  
 غذا کی نالی - مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ  
 مَادُوْتٌ ایک فرسوں کا نام یا ایک فرسٹھنہ  
 نعلت آدمی جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے دوسرے  
 کا نام ہادوث تھا -  
 مَرَّوْرٌ - تکلیف - گڑبڑ - بے ترتیبی - مَرَّوْرٌ  
 مونگا - سرخ رنگ کا سمندری موتی -  
 مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ مَرَّوْرٌ

مَرَّجٌ - منگل - سیارہ - مرتج یا جلاذ فلک۔ لمبار  
یا بھالا۔ اس سیارہ میں موجود زمانہ کے ہیئت اولیٰ  
نے آبادی کا حال معلوم کیا ہے۔

مَرَزٌ مُجَوِّشٌ - مَرَزٌ تَوَكُّشٌ - آذان الفار  
پوہے کئی بوٹی۔ دونا مروا

مَرَدٌ يَمْرُدُ مَرْدًا - سرکش ہونا۔

تَمَرْدٌ سَرَشِيٌّ - نافرمانی کرنا۔ آ مَرْدٌ بے ریش  
و بروت جوان لڑکا۔ مُتَمَرِّدٌ سَرَشِيٌّ کربووالا۔ نافرمان

مَرِيْدٌ سَرَشِيٌّ - شریر۔

مَادِسٌ يُمَارِسُ مَمَادِسَةً - مشق کرنا۔ ہمت

پیدا کرنا۔ مَادِسْتَانٌ - شفاخانہ۔ ہسپتال۔

مَرِيضٌ يَمْرُضُ مَرَضًا - بیمار ہونا۔

مَرَضٌ جَ آصْرَاضٌ - بیماری۔ علالت۔ روحانی

مرض۔ نفاق۔ مَرِيضٌ جَ مَرَضِيٌّ - بیمار۔ علیل

تَمَارِضٌ بناوٹی۔ بیمار بننا۔

مَرْمَرٌ - سنگ مرمر۔ ماربل سٹون

مَرْمِيْسٌ - گینڈا۔ کرکن۔ مَرْمَنٌ عَلِيٌّ خُوگر ہونا

عادی ہونا۔ تَمَرِيْنٌ مشق کرنا۔ ہمت کرنا۔

تَمَرِيْنٌ مشق کرنا۔

مَرَاهِمٌ جَ مَرَاهِمٌ - مرہم۔ لیب۔

مَرُوْدَةٌ ایک پہاڑی کا نام جو بیت اللہ کے

قریب ہے۔ مَرَاةٌ - لڑائی۔ جھگڑا۔ اِمْرَاةٌ

شک کرنا۔ شبہ میں پڑنا۔ مَرِيَّةٌ شک۔ لڑائی

جھگڑا۔ مَرُوْدَةٌ چقماق کا پتھر۔ ناز یویا

ٹلسی کا بُوْدَا۔ مَرَزُبَانٌ - سروار۔ چودھری

مَرُوِيٌّ - مرو (خراسان) کا سب سے والا۔ مَرَاةٌ جمع مَرَاةٍ  
مَرِيْمٌ - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا  
نام۔ مَادِ بَيْتَةٍ - ایک عورت کا نام۔

مَادِ بَيْتَةٍ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرم  
پاک کا نام۔ مَرَجٌ - يَمْرُجٌ - مَرَجًا - ملانا۔ گڈ گڈ کرنا

اِمْتِرَاجٌ بکسی کے ساتھ ملنا۔ مَرِيْمٌ - مَرِيْمٌ - مَرِيْمٌ  
مَمْرُوْحٌ ملا ہوا۔ مَرَاةٌ جَ اَمْرِيْمٌ مزاج

ساخت۔ آمیزش۔ ملاوٹ۔

مَرَاةٌ جَ يَمْرُجٌ مَرَجًا - مذاق یا محول کرنا۔

مَرَاةٌ جَ - مذاق۔ ہنسی۔ دل لگی۔ جھل۔

تَمَارِجٌ - آپس میں ایک دوسرے سے محول کرنا۔

مَرَقٌ يَمْرُقُ مَرَقًا - پھاڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے

کرنا۔ چیرنا۔ تَمْرُقٌ وَ تَمْرِيْقٌ منتشر کر دینا

ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔

مَرِيْمَةٌ جَ مَرَاةٌ - خوبی۔ عمدگی۔ بڑھیا ہونا۔

مَسٌّ يَمْسُ مَسًّا - چھونا۔ ٹولنا۔ مَسَّاسٌ

و مَسَّاسَةٌ - چھونا۔ ہاتھ لگانا۔ مس کرنا۔

تَمَّاسٌ - باہم ایک دوسرے کو چھونا۔ تَطَّقَ

مَسٌّ - تانبا۔

مَسْحٌ يَمْسَحُ مَسْحًا - زمین ماپنا۔

مَسَاخَةٌ - زمین کی پیمائش کرنا۔ مَسْحٌ بِالْمَاءِ

پانی سے تر کرنا۔ مَسْحَةٌ - گیلے ہاتھ کا نشان کرنا

عِلْمُ الْمَسَاخَةِ - جیومیٹری۔

یہ پہلے سال کا آخری رسالہ ہے۔ نئے سال کی

خریداری کے لئے پانچ روپیہ بھیجیں۔ - منبج۔

(حکیم عبداللطیف پرنٹر پبلشر نے استقلال پریس لاہور میردن لوہاری کیٹ چھپوا کر شائع کیا۔)

جلد ۱

## تلخیص العربیہ یا خلاصہ المنجد اردو

اکتوبر ۱۹۶۹ء

اس رسالہ میں ۲۲۶ صفحہ پر یہ لغات ختم ہو رہی ہے۔ آئندہ سلسلہ اسباق القرآن شائع کیا جائیگا۔ اور اس کے خاتمہ پر عربی بول چل شائع ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

مَسْكًا بِمَسْكٍ مَسْكًا - ب ناقد میں پکڑنا پکڑنا  
پکڑنا۔ تَمَسَّكَ وَاسْتَمْسَكَ - مضبوط پکڑنا۔  
اَمْسَكَ رُكْنَا - مَسَّكَ نَجِيل - روکنے والا۔

مَسَّكَ سَكَا - ایسی دو آہیں جو انزال میں مانع ہوں  
مَسَّكَ رُكْنَا - قُوَّةٌ مَسَّكَ رُكْنَا -  
قوت۔ مَسَّكَ كَسْتُورِي مَسَّكَ -

مَسَاءً - شام۔ مغرب کا وقت۔ آمس کل جو گذر گیا۔  
مَسَّطٌ كَنَكْسِي كَرْنَا - مَسَّطَةٌ كَنَكْسِي كَرْنَا -  
مَسَّطٌ كَنَكْسِي - مَسَّطٌ نِيْرِي سے کام کرنا۔ مَسَّطٌ نِيْرِي  
مَسَّطٌ نِيْرِي - زرد آلو۔ یا نوبانی۔

مَسَّطٌ نِيْرِي مَسَّطٌ نِيْرِي - چلنا۔ مَسَّطٌ نِيْرِي مَسَّطٌ نِيْرِي  
بہت چلنے والا۔ چل پھر کر علم و معرفت حاصل کرنے والا۔  
تَمَسَّطٌ - چلنا پھرنا۔ سیر کرنا۔ چل قدمی کرنا۔ مَسَّطٌ نِيْرِي  
والا۔ مَسَّطٌ نِيْرِي - اسی سے بڑھ کر بن گیا ہے۔

مَسَّطٌ نِيْرِي مَسَّطٌ نِيْرِي - شہر۔ ملک۔ مَسَّطٌ نِيْرِي مَسَّطٌ نِيْرِي  
ملک کا بڑا شہر۔

مَسَّطٌ نِيْرِي - سسٹکی - سسٹکی روی جو ایک درخت کا زرد رنگ  
کا گوند ہوتا ہے مقوی معدہ دافع اسہال دوائی ہے

مَسَّطٌ نِيْرِي قَبِيْدٌ مَسَّطٌ نِيْرِي - مَسَّطٌ نِيْرِي - چبانا۔  
مَسَّطٌ نِيْرِي گوشت کی بوٹی۔ مَسَّطٌ نِيْرِي کھا کرنا۔

مَسَّطٌ نِيْرِي کا اندر دھونا۔

مَسَّطٌ نِيْرِي بہت سیاحت کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
اس لئے مسیح کہلاتے ہیں کہ وہ سیاحت کرنے والے تھے  
اور واقعہ صلیب کے بعد انھوں نے بحکم الہی بنی اسرائیل

کے ان دس قبیلوں کو تبلیغ کرنے اور پیغام حق پہنچانے  
کے لئے افغانستان اور کشمیر کے پہاڑوں کی طرف  
لمبی سیاحت اور سفر کیا۔ اور اپنی باقی ستائیس سال کی

عمر ان دس قبیلوں میں گذاری جن کو بخت نصر بادشاہ  
نے فلسطین سے جلا وطن کر دیا تھا۔ اور حدیث شریف میں  
بیان شدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق  
ایک سو بیس برس کی عمر پا کر فوت ہوئے اور کشمیر کے

دارالسلطنت سری نگر کے محلہ خانیا میں آپ کی قبر مبارک  
اب تک موجود ہے جسے کشمیری یوز آسف بنی کاروضہ  
کہتے ہیں۔ مَسَّطٌ نِيْرِي - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیرو۔  
عیسائی۔ مَسَّطٌ نِيْرِي - عیسائیت مَسَّطٌ نِيْرِي جسے برکت

دی گئی ہو۔ اَلْمَسَّطٌ نِيْرِي - پادریوں کا گروہ  
جو ساری دنیا میں تبلیغ عیسائیت یا تثلیث کی غرض سے

پھر جائے۔ مَسَّطٌ نِيْرِي - مَسَّطٌ نِيْرِي - زمین کی پیمائش کرنا۔  
تَمَسَّطٌ نِيْرِي مَسَّطٌ نِيْرِي - مَسَّطٌ نِيْرِي - مَسَّطٌ نِيْرِي -

مَسَّطٌ نِيْرِي مَسَّطٌ نِيْرِي - کسی کی صورت بدل  
دینا۔ یعنی یا مطلب تبدیل کر دینا۔ مَسَّطٌ نِيْرِي - آواگون تنازع۔

مَسَّطٌ نِيْرِي - بد شکل۔

مَضَى يَمْضِي مُضِيًّا كَزَجَانَا. مَاضِي كَزَجَانَا  
 گذرا ہوا زمانہ۔ مَضَى مَا مَضَى۔ جو گذرنا تھا گذر چکا  
 جو ہونا تھا ہو چکا۔ اِمْتِضَاءُ۔ اجراء جاری کرنا۔ پورا کرنا۔  
 مَطْرُوحٌ اِمْطَارُ بَارِشٍ۔ مِئْبُتٌ۔ مِطْرَانٌ۔ لاث پادری  
 مَطْلٌ مِمَّا طَلَّتْ۔ قَرْضٌ دِينَ فِي مَالٍ مَطُولٌ كَرْنَا۔ اِدَائِي  
 میں دیر کرنا۔ مَطِيئَةٌ جَ مَطَايَا۔ سواری کا جانور۔  
 مَعَ مَعَهُ۔ ساتھ کسی کے ساتھ کسی کے ہمراہ۔ مَعًا ساتھ  
 ساتھ۔ ایک دم سے۔ فَوْرًا۔ مَعِيئَةٌ ساتھ۔ موجودگی۔  
 ہمراہی۔ مِثْدَةٌ۔ او جھری معدہ۔ سٹامک۔  
 اِمْعَانُ النَّظَرِ بَهِتٍ غُورٌ سَعْدٌ كَجِنَا۔ مَاعُونٌ كَهْرِي  
 ضروریات۔ برتن وغیرہ۔ مَعِينٌ بہنے والا پانی۔  
 مِعَى جَ اِمْعَاءٌ۔ آنت۔ رُودَةٌ۔ مِعْوِيٌّ آنتوں سے  
 تعلق رکھنے والا۔ مَغْصٌ۔ آنتوں میں مروڑ پیدا ہونا۔  
 بیٹ کا درد۔ کالک۔ باؤسول۔ فونج کا دروچہ۔  
 مَمْخُوصٌ۔ چیخ کی مرض والا۔ مَغْطِيسٌ مَغْطِيسٌ  
 مَقْتٌ۔ نفرت۔ کراہت۔ مَقْلَةٌ۔ آنکھ کا ڈھیلا۔  
 مَكَّةٌ۔ شہر مکہ شریف۔ مَكِّيٌّ۔ مکہ شریف کا باشندہ۔  
 مَكْرٌ يَمْكُرُ مَكْرًا۔ بری تدبیر کرنا۔ دھوکہ دینا۔  
 فریب دینا۔ مَكِيدٌ تدبیر کرنے والا۔ مَكَاذٌ فریبی بہت  
 دھوکہ دینے والا۔ مَكْجٌ۔ دغا باز۔  
 مَكْنٌ يَمْكُنُ مَكَانَةً۔ قدرت رکھنا۔ طاقتور ہونا۔  
 قوی ہونا۔ تَمْكِينٌ مضبوط ہونا۔ قدرت پانا۔  
 مَكْنَةٌ قدرت۔ بیاقت۔ مَكَانٌ جَ اَمْكِنَةٌ وَ  
 اَمْاِكِنٌ۔ جگہ۔ مقام۔ مرتبہ۔ درجہ۔ عہدہ۔ مَكَانَةٌ  
 بیوی۔ مَكِينٌ۔ مَكِينٌ۔ مضبوط۔ ٹھوس۔ دیرپا۔

اِمْكَانٌ جَ اِمْكَانَاتٌ۔ امکان۔ قدرت۔ ممکن ہونا۔  
 مُمْكِنٌ جَ مُمْكِنَاتٌ۔ ممکن۔ وہ جس کا ہونا ممکن ہو  
 اور محال نہ ہوں۔ مُمْكِنٌ طاقت پایا ہوا۔ قدرت یافتہ  
 مَلٌّ يَمَلُّ مَلًّا وَ مَلَاكَةٌ مِنْ كَسِيٍّ اُكْتَا  
 جانا۔ تھک جانا۔ مَلُولٌ تَهْكَنُ اَلْاُكْتَايَا ہوا۔ مِلْتَةٌ ج  
 مِثْلٌ ذَهَبٍ۔ دین۔ مَلَالٌ وَ مَلَاكَةٌ تَهْكَنُ۔ اُدَايَا  
 اُكْتَا جانا۔ مَلًّا بَرًا قَاضِيًا ج۔  
 مَلَاءٌ يَمْلَأُ مَلًّا۔ بھرنا۔ پُرْنَا۔ مَمْلُوءٌ بھرا  
 ہوا۔ لِبَالٌ۔ مِلَاءٌ۔ وہ مقدار جس سے کوئی چیز پُر ہو  
 جاوے۔ مَلَاءٌ اَعْمَلِيٌّ مَشِيروں کی جماعت۔ اِمْتِلَاءٌ  
 پُری۔ غلبہ خون۔ مَمْتَلِيٌّ پُر۔ بھرا ہوا۔ مَلَاءٌ اَعْمَلِيٌّ اَعْمَلِيٌّ  
 ارواح۔ ملائکہ کی جماعت۔ مِلْحٌ جَ اَمْلَاحٌ۔ نمک۔  
 کھاری پانی۔ مَلَاخَةٌ خُوبُورَتِي۔ مَلِيحٌ خُوبُورَتِي  
 مَلَاخٌ۔ ہزاران۔ ناخدا۔ مَلُوْحَةٌ۔ نمکینی کھاری پانی  
 تَمَلَّقٌ۔ خوشامد۔ چاہوسی۔ دم دلاسا۔  
 مَأَكٌ يَمْلِكُ مَلِكًا۔ قابض ہونا۔ مالک ہونا۔  
 تَمَلَّقٌ خُودِ مَخْتَارٌ ہونا۔ مَلِكٌ قَبْضَةٌ۔ ملکیت۔ تصرف  
 مَلِكٌ جَ اَمْلاِكٌ۔ جانداد۔ قبضہ۔ سامان ملکیت  
 مَلِكٌ جَ مَمَالِكٌ۔ ملک۔ زمین۔ حکومت۔ مَلِكٌ ج  
 مَلَايِكَةٌ فرشتہ۔ مَلِكٌ جَ مَلُوكٌ بادشاہ  
 مَلِكَةٌ ملکہ۔ مَلِكَةٌ جَ مَلَكَاتٌ۔ عادت۔ ہمارت  
 ملکہ۔ مشقِ بخلت۔ مَلِكُوْتٌ۔ بادشاہت۔ حکومت  
 مَلِكِيٌّ وَ مَلُوكِيٌّ۔ بادشاہانہ۔ حاکمانہ۔ تَمَلِيْكٌ  
 مالک بنانا یا مالک ہونا۔ مَمْلِكَةٌ جَ مَمَالِكٌ  
 بادشاہی۔ حکومت۔ سلطنت۔ مَمْلُوكٌ غلام۔ نو

صَنِیٌّ مَنِ - نطفہ - اِشْتِمَاءٌ مَاتَهُ یَا کِسِی دوسرے طریقے سے  
 مَنِ نکالنا - جلق کی عادتِ بد میں مبتلا ہونا -  
 مُهَجَّةٌ جَان - رُوح - زندگی - خون -  
 مَهْدٌ یَمُهَدُ مَهْدًا - بچانا - پھیلانا - مَهْدُجٌ  
 مَهْوَدٌ - بچونا - بچہ کا پنگوڑا -  
 تَمَهِّدٌ ج تَمَهِّدَاتٌ ترتیب دینا - آراستہ کرنا  
 کسی کتاب کا دیباچہ لکھنا -

مَهْرٌ یَمَهِّرُ مَهَادَةً - چالاک ہونا - تجربہ کار ہونا -  
 مَاهِرٌ - ہوشیار - تجربہ کار - چالاک - مَهْرُجٌ مَهْوَدٌ عَوْتُ  
 کا حق مہر - مَهَادَةٌ - شاقی - قابلیت -

مَهْرَجَانٌ - ہرگان - پارسیوں کا ایک تہوار جو ۲۱ راج  
 کو ہوتا ہے - مَهْلَةٌ - تیاری کے لئے وقفہ - ہمت -  
 رَاهَالٌ بہت دینا - رخصت دینا - مَهَالًا امر کے واسطے  
 آتا ہے معنی یہ کہ آہستہ چلو - جلدی نہ کرو - آرام سے چلو -  
 تَمَهَّلٌ - آہستگی - ویر - مَهْمًا جو کچھ - جب کبھی -  
 مَهِيئٌ ذلیل و خوار و حقیر -

مَاتَ یَمُوتُ مَوْتًا - مرنا - قُوت ہونا - مرجانا -  
 مَوْتٌ ج آمواتٌ مرگ - ننا - کال - موت - رَاهَاتٌ  
 موت دینا - مار دینا - مَبِیْتُ ج آمواتٌ  
 مَوْتِی مَرُوے - مَمَاتٌ موت مَبِیْتُ مارنے والا -  
 مَوَاتٌ بے بے بان پیر -

مَا جَ یَمْوِجُ مَوْجًا - سمندر کا جوش میں آنا -  
 مَوْجٌ ج آمواجٌ لہر - موج - چھلکار - تَمْوِجٌ کھلبلی  
 ہلچل - گڑبڑ - مَوْزٌ کبلا - طَلْحَةٌ - مَوْسِی - اُسترہ  
 مَاسٌ یَمْوِسُ مَوْسًا - موندنا - مَوْسِی حضرت موسیٰ  
 علیہ السلام -

مَا لَکَ قَابِضٌ - مَلِیْکُ بادشاہ - مَا لَکَ خَوْلِیَا - مایخویا -  
 جنون - سودا - اِضْلَاجٌ کچھ بول کر لکھوانا - تخریر کروانا -  
 مَلِیُوْنٌ - بلین - دس لاکھ - مَنٌ - کون - جو کوئی - بطور - یہ  
 کَلِمَةٌ اِشْتِفَاهَمُ بمعنی کون شخص ؟ اور اسم موصول  
 بمعنی وہ شخص کہ - جو شخص کہ - وہ کہ - جو کہ - (دنگر و مونث) بولا جاتا  
 ہے - مَنٌ حرفِ جارٍ بمعنی سے - کا - کے - واسطے - بعوض -  
 بجائے - نسبت - بولا جاتا ہے -

مَنْ یَمُنُّ مَنًّا - کسی پر ہریان ہونا - کسی پر احسان کرنا  
 مَنٌّْ - احسان - ایک آسمانی غذا جو بنی اسرائیل کے لئے ہتیا  
 کی گئی - مَنٌّْ ایک طبعی وزن جو دو طول کے برابر ہوتا ہے یعنی  
 قریباً اتنی تولہ یا ایک سیر - مَنَّةٌ ج مَنَنٌّْ - احسان بہت  
 مَنَانٌ احسان کرنے والا - اَلْمَنَانُ بڑا احسان کرنا والا  
 خداوند کریم - مَمْنُوْنٌ - زیر بار احسان - منقطع -

مَمْنُوْنِیَّةٌ - احسان مندی - احسان کی زیرباری -  
 اِمْتِنَانٌ - احسان جبتلانا -  
 مُمْدٌ و مُمْدٌ (کسی خاص وقت) سے

مَنْعٌ یَمْنَعُ مَنَعًا عَنْ وَ مَنِ کسی کو کسی بات سے  
 روکنا - باز رکھنا - مَانِعٌ روکنے والا - مَمْنُوْعٌ منع کیا ہوا  
 ناجائز مَمْتِنِعٌ نامکن - مَنِیْعٌ دشوار - ناقابل رسائی -  
 مَمْنُوْعَةٌ ناجائز - جس سے روکا گیا ہو - اِمْتِنَاعٌ نامکن  
 ہونا - کسی بات سے باز رہنا - تَمَنُّی - چاہنا - خواہش کرنا  
 کسی چیز کے لئے آرزو مند ہونا - مَتَمَنُّی آرزو یا خواہش  
 کرنے والا - مَنِی بگہ شریف کے پاس ایک مقام جہاں پر حاجی  
 لوگ جمع ہوتے ہیں - مَثَبَةٌ ج مَنِی - خواہش آرزو  
 اُمْنِیَّةٌ ج اَمَانِیٌّ - تمنا - آرزو - باطل خواہش - فضول آرزو

میںنا۔ بند گاہ۔ مینزاب۔ پرناہ

## بَابُ التُّونِ

نا۔ ہم۔ ہم کو۔ ہمارا۔ نادرچیل۔ ناریل۔

اَنْبُوبُجُ اَنْبَابُجُ نَبِيْ نَبِيْ بَابُجُ اَنْبَابُجُ

الرَّيْجُ پھیڑے ہوا کے مخارج۔

نَبَاءٌ وَّ اَنْبَاءٌ تَنْبِيْءٌ بِ خَبْرٍ دِيْنَا۔ آگاہ کرنا

اطلاع دینا۔

تَنْبِيْءٌ يَتَنْبِيْءُ تَنْبِيْءٌ۔ نبی ہونے کا دعویٰ کرنا

پیشگوئی کرنا۔ نبوت کا مدعی بننا۔ غیب کی بات بتانا۔ آنے

والے حالات کی اطلاع دینا۔ اِسْتِنْبَاءٌ خَبْرٍ وَّ رِيَاغٍ

کرنا۔ نَبَاءٌ جُ اَنْبَاءٌ خَبْرٍ اِطْلَاعٍ۔ آگاہی۔ نَبِيْجُ جُ

اَنْبِيْآءُ نَبِيْ۔ رسول۔ پیغمبر۔ نَبِيْوَةٌ نَبِيْ ہونا پیشگوئی

خَبْرٍ خَيْبٍ۔ خبر دینا۔ نَبِيْوِيٌّ نَبُوْتٍ کے متعلق۔

مُتَنَبِيْجٌ جَبُوْنَا نَبِيْ بِنْتِ وَا۔ نبوت کا ذبح کا دعویٰ کرنے

والا۔ مدعی نبوت باطلہ۔

نَبَتٌ يَنْبُتُ نَبَاتًا وَّ اَنْبَتٌ۔ اُكْنَا بَرُصْنَا

اُكْنَا پودے کا۔ نَبَتٌ۔ پودا۔ جڑی بوٹی۔ روئیدگی

نباتات۔ نَبَاتٌ جُ نَبَاتَاتٌ۔ پودا۔ روئیدگی۔

نَبَاتِيٌّ نَبَاتَاتٍ کے متعلق۔ مَنَابِتٌ جُ مَنَابِتٌ

کسی پودے یا درخت کے اُگنے کا مقام۔ عَالَمُ النَّبَاتِ

نباتات کی دُنیا۔

نَبَذَ۔ پھینکنا۔ تَوْرْنَا۔ (عہد وغیرہ) نَبَذْنَا اَيْكَةً

کلام کا۔ قطعہ۔ نَبِيْذٌ شَرَابٌ كُجُوْرٍ يَا اَنْجُوْرٍ كَارِسٍ

شربت۔ مَنَبِرٌ جُ مَنَابِرٌ مَنِيْرٌ بِيْطٍ فَاْرَمٍ۔ اسٹیج۔

اونچا چوڑا۔

مُؤَسِّقِيٌّ۔ علم موسیقی۔ رَاكٌ رَاكِيٌّ كَاْفِنٌ۔ مَاشٌ اُرُو۔

ماش۔ معمولی فرنیچر۔ مَالٌ جُ اَمْوَالٌ۔ مال و دولت۔ نَدُو

جواہر۔ تَمَوَّلٌ وَاوْتَمَدَ هُوْنَا۔ مالدار ہونا۔ مَتَمَوَّلٌ مَالِدَارٌ

آدمی۔ كَالِيٌّ مَالِيٌّ۔ روپے پیسہ کے متعلق

مَالِيَّةٌ۔ قیمت۔ دولت شاہی خزانہ۔ جِيْتِيَّتٌ

يَبِيْتُ الْمَالِ۔ مسلمانوں کا قومی خزانہ۔ اَلْمَالِيَّةُ مَكْرَهُ

مال مال کی وزارت۔ مَوْصِيَا۔ ایک قسم کی رال۔ مَوْصِيَّةٌ

مصر کی مٹی دواؤں سے محفوظ رکھی ہوئی لاش۔

مَاءٌ جُ مِيْبَاةٌ پَانِي۔ مَائِيٌّ پَانِي وَا۔ آبی۔ پَانِي كِي

طَرَحٍ پَتْلَا اور زَبِيْقٍ۔ اِسْتِمَاْحَةٌ۔ درخواست۔

مَاشِدَةٌ جُ مَوَاشِدٌ۔ خوان۔ دسترخوان۔ کھانا کھانے کی میز

مِيْبَدَانٌ جُ مِيْبَادِيْنٌ لَرَائِي كَامِيْدَانٍ۔ اکھاڑہ۔ گھوڑو

کا مقام۔ مِيْرٌ۔ امیر۔ حاکم شاہزادہ۔ مِيْرِيٌّ۔ ٹیکس

لگان محصول۔ اَمَاذَمِيْنٌ۔ جُدا کرنا۔ مَمْنَاذٌ كَرْنَا۔

تَمْيِيْزٌ۔ علیحدگی۔ امتیاز۔ تفاوت۔ فرق۔ جُدائی۔

اِبْتِهَامٌ اِطْهَانٌ وَا اَلْفِظُ (صَفٌ وَخَوْ) سِيْتُ التَّمْيِيْزِ

شعور کی عمر اچھا بڑا۔ سمجھنے کی عمر۔ اِسْتِنْبَاذٌ۔ خصوصیت۔ تَرْجِيْحٌ

استیاز۔ مُمْتَاذٌ۔ خاص کیا ہوا۔ جُدا کیا ہوا۔ مُمْتَيِزٌ وَخَوْصٌ

فَوْقِيَّتٌ دِيَا هُوَا۔ مُمَيِّزٌ۔ فرق ظاہر کرنے والا۔ مَعِيْنٌ كَرِيْمُوَالَا

اِبْهَامٌ اِطْهَانٌ وَا۔ مَائِعٌ بِيْنِ وَا۔ اِكْبَهْلَا هُوَا۔ سِيَالٌ۔ رَقِيْقٌ۔

پتلا پن کی حالت میں۔

مَالٌ يَمِيْلُ مِيْلًا نَا اِلٰی رَاغِبٌ هُوْنَا۔ اِمَالَةٌ مَائِلٌ

کرنا کسی مادہ کو۔ یا اعراب کو لمبا کر کے پڑھنا۔ اِسْتِمَالَةٌ

ایک طرف جھکنا۔ مَائِلٌ ہونا۔ مِيْلٌ۔ جھکاؤ۔ مِيْلَانٌ۔ مَائِلٌ جھکنے

والا۔ رَاغِبٌ۔ مَيَالٌ بہت زیادہ مائل مِيْلٌ جُ اَمْيَالٌ مِيْلٌ





نَجَفٌ عِرَاقٌ عَرَبٌ كَمَا اِيك مَقَامٌ جِهَانٌ پَر حَضْرَتِ عَلِيٍّ كَرِيمِ اللّٰهِ  
کار و ضہ مبارک ہے۔

نَجَلٌ جَ اَنْجَالٌ آل۔ اولاد نسل۔

رَ اَنْجِيْلٌ جَ اَنَا جِيْلٌ۔ انجیل وہ کتاب جس میں حضرت عیسیٰ  
علیہ السلام کی وحی و الہامات درج ہیں۔ اور اب محرف و مبدل  
ہو چکی ہے۔ رَ اَنْجِيْلِيٌّ اَنْجِيْلٌ كَيْ سَاكْتَهٗ تَعْلُقُ رَكْعَتِيْ وَالَا۔

مِنْجَلٌ جَ مَنَاجِلٌ وِرَانَتِيْ۔

نَجْمٌ يَنْجُمُ نَجْوَمًا۔ ستارہ کا طلوع ہونا۔ نکلنا یا  
ظاہر ہونا۔ نَجْمَرَجٌ نَجْوَمٌ سِتَارَةٌ تَنْجِيْمٌ سِتَارٌ  
کی حرکات اور اشکال سے آئندہ ہونے والے واقعات کے  
متعلق پیشگوئی کرنا۔ مَنَّجِمٌ سِتَارُوں كَيْ عِلْمٌ سَيْشِكُوْنِيْ  
کرنے والا۔ ستاروں کا علم رکھنے والا۔ نجومی۔

نَجِيٌّ يَنْجُو نَجَاةً مِّنْ۔ خلاصی پانا۔ نجات پانا۔

مَنَاجَاةً۔ کانا پھوسی کرنا۔ بیلجودہ ہو کر دُعا کرنا۔ اِسْتِنَجَاةً  
پاخانہ کے بعد صفائی کرنا۔ نَجْوِيٌّ۔ بھید۔ راز دار۔ ہم راز۔  
نَجَاةً۔ سطح مرتفع۔ خلاصی پانا۔ چھٹکارا کرنا۔

نَجِيٌّ رَاذُوَارِيٌّ كِي بَاتِيں كَرْنِيْ وَالَا۔ نَاجِيٌّ۔ مناجات کرنی والا۔  
اَنْجِيٌّ يَنْجِيٌّ اِنْجَاةً مِّنْ۔ نجات دینا۔ رلا کرنا۔  
بچانا۔ مَنَّجِيٌّ۔ نجات دینے والا۔ مَنَّجِيٌّ۔ نجات دلانے والا۔

نَخْرٌ نَخْرٌ سِيْنٌ۔ نَخْرِيٌّ نَخْرِيٌّ نَخْرِيٌّ۔ ہوشیار  
ماہر۔ تخریب کار۔ عقلمند۔ دانا۔ يَوْمُ النَّخْرِ عَرَبِيٌّ هَيْبَةٌ كِي دَنُوں  
تاریخ جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ عید الاضحی کا دن۔

نَحْسٌ يَنْحَسُ نَحْسًا وَ نَحْوَسَةٌ۔ بد قسمت ہونا  
نامبارک ہونا۔ بدشگون ہونا۔

مَنْحُوْسٌ بَدْمَتٌ۔ بد بخت۔ بے نصیب۔ بدشگون

نَحَّاسٌ۔ تانا۔ نَحَّاسٌ كَهْطِيْرٌ۔

نَحِيْفٌ يَنْحِفُ نَحَافَةً۔ دُبْلَا پَتْلَا ہونا۔ کمزور و ضعیف  
ہونا۔ نَحِيْفٌ۔ دُبْلَا۔ پَتْلَا۔ لاغر جسم والا۔ کمزور و ضعیف۔

نَحْلٌ شَهْدٌ كِي كَهْمِيْ۔ نَحْلَةٌ حَقٌّ مَّهْرٌ تَخْفٌ۔ ہبہ عطیہ۔  
اِسْتِنْحَالٌ عِلْمِيٌّ سِرْقَةٌ كَرْنَا۔ نَحْنٌ مَّتَكَلَّمٌ مَعَ الْغَيْبِ كِي بِمَعْنَى هَمْ  
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق مالکیّت کے  
انداز میں اُسے استعمال کرتا ہے۔

تَنْخَنُ كَهَانَتَا۔ حلق سے آواز نکالنا۔

نَحْوٌ طَرِيْقَةٌ۔ ایک علم کا نام جس میں کلمات کے آخر کے متعلق  
بحث اور قواعد بیان کئے جاتے ہیں۔ نَحْوِيٌّ عِلْمٌ نَحْوٌ كَالْعَالِمِ۔

نَاحِيَةٌ نَوَاحٍ وَ نَاحِيَاتٌ۔ طرف۔ جانب۔ کنارہ سمت  
نَخَبٌ يَنْخَبُ نَخْبًا مَّجْنَنًا۔ اِسْتِنْحَابٌ كَهَيْبَةٌ كَرْنَا۔  
پسند کرنا۔ مَنَّخَبٌ۔ چنا ہوا۔ اِسْتِنْحَابٌ كِيَا ہوا۔

نُخْبَةٌ ہر ایک چیز کا عمدہ حصہ۔ چنا ہوا۔ خلاصہ۔

مَنَّخَبٌ۔ اِسْتِنْحَابٌ كَرْنِيْ وَالَا۔ نَاخِدًا اَنَّهُ جِهَارٌ كَا پَتْنَانِ  
مِنْخَرٌ مَّنَاخِرٌ۔ ناک۔ نبتھنا۔ نِخَاسَةٌ مَوْشِيٌّ كِي تَجَارِ  
نَحَّاسٌ۔ مَوْشِيٌّ يَا غِلَامُوں كَا تَا جَرِ۔

نَخْلٌ وَ نَخِيْلٌ كَهَجْرٌ كَا دَرَخْتُ۔ نُخَالَةٌ جَبُوْسِيٌّ چوگر  
غلہ پر کا چھلکا۔ مَنَّخَلٌ جَ مَنَاخِلٌ جَ مَنَّخِلِيٌّ۔

نُخَامَةٌ۔ رینٹ۔ کھنگار۔ بلغم۔ نَخْوَةٌ غُرُوْرٌ۔ تَكْبَرٌ۔  
گھمنڈ۔ خود داری۔

نَدَّجٌ اَنْدَادٌ۔ تَدْمَقَابِلٌ۔ نَظِيْرٌ۔ ہمتا۔ ہمسر مشابہ۔ برابر  
نَدَبٌ وَ اِنْتَدَبَ اِلَى وِلِيٍّ كِي كَامٌ پَر مَقْرَرٌ كَرْنَا۔

بھیجنا۔ مَنَّذُوْبٌ اِلَیْجِيْ۔ تصدیق شدہ قاصد۔

اِنْتَدَابٌ بِلَا وَا۔ پکار۔ نُدْبَةٌ۔ ماتم۔ نوہ۔

مُنْذِرٌ ڈرانے والا۔ اَلْمُنْذِرُ۔ عرب بادشاہوں میں سے  
ایک کا نام۔ نَزَجِس۔ نرگس۔ ایک خوشبودار پودا۔  
نَادِجِيْلٌ۔ ناریل۔ نَادِجِيْلَةٌ۔ ناریل کا حُقّہ جو ایران میں  
استعمال ہوتا ہے جسے مصر میں شَيْثَةُ یا جَوْذَا کہتے ہیں  
نَزْدٌ۔ سخّہ زرد۔ چوسر کی ایک کھیل کا نام شطرنج کی طرح  
نَادِيْنٌ بالچھڑ۔ سنبل الطیب ایک خوشبودار جڑی بوٹی  
جو مفرح ادویات میں استعمال کی جاتی ہے  
نَادِجِيْلٌ۔ نرگس۔ کٹھا۔ لیموں۔

نَزَعٌ يَنْزَعُ نَزْعًا وَنَزَعٌ وَارْتِزَاعٌ مِنْ  
بکال لینا۔ کھینچ لینا۔ اکھڑنا۔ برطرف یا معزول کر دینا۔  
نَزَعٌ مَوْتِ كَيْ قَرِيْبٍ هُوْنَ۔ نَزَاعٌ جَهَكْرًا۔  
مَنَازَعَةٌ لِرَاطِيٍّ جَهَكْرًا كَرْنَا۔ بَحْثٌ وَمَاحِثَةٌ كَرْنَا تَنَازَعٌ  
آپس میں اختلاف کرنا۔ باہم لڑنا۔ اِنْتِزَاعٌ۔ اپنی جگہ سے اُگھڑ  
کر الگ ہو جانا۔ مُنْتَاذِعَةٌ اِيسِي بَاتِ جِسْ پَر اِيسِي مِي  
لِطَانِيٍّ جَهَكْرًا هُوْ۔

نَزَفٌ يَنْزِفُ نَزْفًا۔ نون کا پھنا۔  
نَزْفُ الدَّمِ۔ نون پھنے کی مرض۔  
نَزَلٌ يَنْزِلُ نَزْلًا۔ نیچے اترنا۔ گرنے والی  
فِي كِسِي جَهَكْرًا قِيَامُ كَرْنَا۔ نَزَاةٌ۔ نَزَاةٌ  
النَّزَالُ۔ اُتَارْنَا۔ تَنَزَّلْنَا۔ پھم سے گر پڑنا۔  
اپنے حقوق چھوڑ دینا۔ نَادِيْلَةٌ نَوَازِلٌ۔ حَادِثَةٌ۔  
مَصِيْبَةٌ۔ بَلَاءٌ۔ نَزْوٌ۔ پڑاؤ۔ نَزِيْلٌ۔ مسافر منزل  
ج مَنَازِلٌ۔ قِيَامُ گاہ۔ سرے۔ گھر۔ ہوٹل۔ اِنْتِزَالٌ وَ  
تَنَزِيْلٌ كِسِي رَسُوْلٍ پَر وِي اُتَارْنَا۔ مَنَزِلَةٌ۔ مرتبہ۔ درجہ  
مَنْزَلٌ اُتَارَا هُوْ۔ نَادِلٌ۔ اُتَرْنَا وَالا۔

بَابُ الْمُنْدَبِ۔ اِنْبَاءُ بَابِ الْمُنْدَبِ۔  
نَدَرِيْنُدْرِيْنُدْرَةً۔ انوکھا ہونا۔ عجیب غریب ہونا  
کمیاب ہونا۔ نَادِرٌ كَمِيَابٌ۔ انوکھا۔ نَوَادِرٌ  
نَوَادِرَاتٌ۔ نرالی اشیاء عجیب و غریب چیزیں۔  
اَلشَّادُ وَالتَّادِرُ۔ انوکھا ہونے والا۔  
مَنْدَرَةٌ ج مَنَادِرٌ۔ ہال۔ بڑا کمرہ۔  
نَدَفٌ يَنْدِفُ نَدْفًا۔ روئی یا اون دھنا۔  
نَدَافٌ اُون يَارُوِي دُهْنَكُنِي وَالا۔ بافندہ تُوْسُ  
النَّدَافِ بَحْنٌ۔ مَنَدَفٌ اَلنَّدَافِ۔

مَنْدِيْلٌ ج مَنَادِيْلٌ۔ تویا۔ رومال۔ اَنْدَلُسٌ ہسپانیہ  
نَدِمٌ يَنْدِمُ نَدَامَةً وَتَنْدَمٌ۔ پچھتانا۔ نام ہونا  
افسوس کرنا۔ نَادِمٌ۔ پشیمان ہونے والا۔ تَدِيْمٌ ج نَدَمَاءُ  
فِيْقٌ۔ دوست مصاحب۔

نَادِيٌّ يُنَادِي مَنَادَاةً وَنِدَاءً بـ بِلَانَا۔ پکارنا  
مَنَادِيٌّ۔ بلانے والا۔ آواز دینے والا۔ پکارنے والا۔ مَنَادٌ  
مَبْلَغٌ بَشْرٌ۔ مَنَادِيٌّ جِسے پکارا جائے۔ نَدْوَةٌ۔ مجلس۔ عمت  
يَوْمُ التَّنَادِ۔ روزِ قِيَامَتِ۔ حَرْفُ النَّدَاوَةِ حَرْفٌ  
پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے یا۔ آئی۔

نَدَرِيْنُدْرِيْنُدْرَةً نَدَرًا لِلّٰهِ۔ اللہ کے نام پر منت ماننا۔ نذر  
دینا۔ بھینٹ چڑھانا۔ نیاز کرنا۔

نَدَرِيْنُدْرِيْنُدْرَةً نَدَرًا كِسِي چيزے آگاہ ہونا۔  
اَنْدَرِيْنُدْرِيْنُدْرَةً اَنْدَارًا۔ آگاہ کرنا۔ ڈرانا۔ منتیہ کرنا۔  
نَدْرٌ ج نَدْوَةٌ۔ منت۔ نیاز۔ نذر۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے  
لئے مافی جلتے یا خدا کے حضور بھینٹ چڑھائی جائے۔  
اَنْدَارٌ۔ ڈرانا۔ آگاہ کرنا۔ تنبیہ کرنا۔ نَدِيْرٌ ج نُدْرٌ  
عذاب سے ڈرانے والا۔

تَدْبِيرُ الْمَنْزِلِ - خانہ داری۔ گھر کا انتظام کرنا۔  
 نَزْوَةٌ يَنْزُوَةٌ نَزَاهَةٌ - ناپسند باتوں سے بچنا۔  
 نَزْوَةٌ - خوشی۔ پاکیزگی۔ تَنْزُؤَةٌ - سیر کرنا۔ تفریح کرنا۔  
 مَنَزَلَةٌ - ہر عیب اور نقص سے پاک۔ تَنْزِيَةٌ - اللہ تعالیٰ  
 کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا۔ اور سمجھنا۔

نَسْبَةٌ - ادھار۔ قرضہ۔ جو نقد نہ ہو۔

نَسَبٌ يَنْسِبُ نَسَبًا وَنَسْبَةٌ إِلَىٰ كَيْسٍ كَيْسٌ  
 لِكَاثَانَ - منسوب کرنا۔ مخصوص کرنا۔ تَنَاسُبٌ - مطابق ہونا۔  
 اِنْتِسَابٌ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔

نَسَبٌ وَانْتِسَابٌ - رشتہ داری۔ قرابت۔ سلسلہ خاندان  
 نَسْبَةٌ - قرابت۔ رشتہ داری کسی ام کے آخر میں جانے  
 نسبت لگا کر اسم منسوب بنانا۔ مَنَّاسِبَةٌ وَتَنَاسُبٌ  
 مطابقت۔ مناسبت۔ مَنَّاسِبٌ کسی چیز کے مطابق

ٹھیک۔ درست۔ مَنَّاسِبٌ - خاص نسبت رکھنے والا۔  
 آپس میں تناسب رکھنے والا۔ مَنَّاسِبٌ جو کسی کی طرف  
 نسبت دیا گیا ہو۔ اَنْسَبٌ مناسبت زیادہ بہتر۔  
 نَسَابٌ شجرہ نسب یاد رکھنے والا۔ مَنَّاسِبَةٌ وہ عورت  
 جس کی نسبت ہو چکی ہو۔ مَنَّاسِبَةٌ اس کے مقابل۔

نَا سَوْتُكَ - انسائیت۔ انسانی فطرت۔

نَسَجَ يَنْسِجُ نَسْجًا - بنانا۔ منسوج ہونا۔  
 نَسَاجٌ - بننے والا۔ جولانہ۔

نَسَخَ يَنْسِخُ نَسْخًا - مٹانا۔ ضوع کرنا۔ نقل کرنا۔  
 صورت کا بدل جانا۔ تَنَاسُخٌ جیکے بعد دیگرے آنا۔ باری  
 باری آنا۔ آواگون۔ نَسَخٌ کسی قانون کو بدلنا۔ کسی عبارت  
 کو نقل کرنا۔ عربی رسم الخط۔ نَسْخَةٌ - نقل۔ کاپی۔ قلمی کتاب

وہ کتاب جس سے نقل کی جائے۔ طلب کا نسخہ۔ کتاب کی ایک  
 کاپی۔ نَاسِخٌ - قانون بدلنے والا۔ وہ حرف جو اسم کے اعراب  
 بدل دے۔ مَنَّسُوخٌ - بدلا ہوا مثالی ہوا۔ تَنَسِيخٌ -  
 نکاح وغیرہ کو رد کر دینا بدلانے کی درخواست کرنا۔  
 النَّاسِخُ وَالْمَنَّسُوخُ - غلطی کے طور پر یہ عقیدہ رکھنا  
 کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی بعض آیات میں نازل شدہ احکام  
 کسی دوسری آیت کے بدل دیئے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ  
 کی کلام پاک قرآن کریم کا ایک شوشہ ایک حرف ایک زیر  
 زیر یا پیش بھی نہیں بدل سکتا۔

نَشْرٌ - گدھ۔ عقاب۔ نَا سَوْرٌ - نَوَاسِبٌ - ناسور  
 وہ زخم جو چالیس دن سے زیادہ کا ہو جائے اور پتہ ہے  
 جس سے پیپ وغیرہ خارج ہوتی رہے۔

نَشْرٌ نَشْرٌ - ایک قسم کا نوشبودار سفید گلاب۔ نَسْرٌ  
 نَسْطُورٌ - عیسائیوں کا ایک فرقہ جو انجیل میں ردو  
 بدل مانتے ہیں۔

نَسَقٌ يَنْسِقُ نَسَقًا - ترتیب رکھنا۔

تَنَسِيْقٌ - تنظیم دینا۔ ترتیب دینا۔ انتظام کرنا۔

نَسَقٌ - ترتیب۔ ڈھنگ۔ طریقہ۔ حَوْوْفُ النَّسِقِ

حروف عاطفہ۔ نَسَكٌ وَنَسَكٌ - خدا تعالیٰ کا منفر کردہ

فرض۔ نَسِيْكَةٌ - قربانی۔ نَاسِكٌ - نَسَاكٌ - سنیا سی

عابد۔ زاہد۔ جوگی۔ تارک الدنیا۔ درویش۔ مَنَّسِكٌ -

مَنَّاسِكٌ - ع کے ارکان یا وہ مقامات جہاں وہ ادا کئے

جاتے ہیں۔ نَسَلٌ - نَسَالٌ - نسل۔ اولاد۔ بال بچے

تَنَاسُلٌ - پیدائش سے اولاد میں بڑھنا۔

نَسْمَةٌ - نَسْمٌ - روح۔ سانس۔ جاندار۔ انسان۔

تَنَسَّمَ - سانس لینا۔ سانس کھینچنا۔ تَسْتَأْس - ایک خیالی انسانی شکل کا جانور۔ بن ماس۔ بنگور۔ یونا۔  
 نَسَاجُ النَّسَاءِ - ایک رگ جو ان سے ٹخنہ تک ہوتی ہے  
 عِرْقُ النَّسَاءِ - کولہ رہ جانے کی مرض۔ لنگڑی کا درد۔  
 نِسْوَةٌ وَنِسَاءٌ وَنِسْوَانٌ عورتیں۔  
 نَسِيٌّ يَنْسِي نَسِيًّا وَنَسِيَانًا - بھول جانا۔ چھوڑ دینا  
 لاپرواہی کرنا۔ نَسِيَانٌ - بھول۔ فراموشی۔ نَاسٍ وَنَاسِيٍّ  
 بھولنے والا۔

نَشَأَ يَنْشَأُ - نَشَاةٌ - بڑھنا۔ بلند ہونا۔ نشوونما پانا۔  
 اِنْشَاءٌ تَرْبِيَةٌ كَرْنَا - پیدا کرنا۔ پرورش کرنا۔ مَنَشَأٌ  
 نَبْعٌ - پیدا ہونے کی جگہ۔ مرضی۔ ارادہ وغیرہ۔  
 نَاشِيٌّ - پیدا ہونے والا۔ مَنَشِيٌّ - بیوٹر۔ کسی تحریر کا لکھنے  
 والا۔ اِنْشَاءٌ عِبَارَتٌ كَافِيَةٌ طَرِيزَةٌ عِبَارَتٌ - کسی تحریر کا لکھنا  
 نَشْوَةٌ - نَشْوَةٌ - اُكْطَانٌ - زیادتی۔ کثرت۔ ترقی۔ نشوونما  
 تَنْشِيْدٌ - شَعْرٌ طَهْتَا - تَنْشِيْدٌ اِلَّا نَشَادٌ - غزل الغزلات  
 بھجنوں کی کتاب۔ نَشَادٌ - وَنَوْشَادٌ - نوشار۔ ایک  
 سفید رنگ کی چرپرہی دوائی جو امراض معدہ وطحال و جگر میں  
 استعمال ہوتی ہے۔

نَشَرَ يَنْشُرُ نَشْرًا وَنَشْرًا - بکھیرنا۔ پھیلانا۔  
 نَاشِرٌ - پھیلانے والا۔ مَنَشُوْدٌ - شاہی فرمان پر کلر پر پکٹس  
 اِنْشَادٌ تَتْرَبْتَرٌ هُوَ نَاشِرٌ - بکھیرنا۔ پھیلانا۔  
 مَنَشِرٌ - پھیلنے والا۔ تَتْرَبْتَرٌ ہونے والا۔ نَشْرَةٌ - ماہوار  
 سالہ۔ پمپلٹ۔ نَشْرٌ - اشاعت۔ شہرت۔ يَوْمُ النُّشُوْرِ  
 قیامت کا دن۔ نَشَادَةٌ - بڑا۔ مَنَشَادَةٌ - آرمہ۔  
 نَشُوْدٌ - میاں بیوی کی آن بن۔ آپس کی رئیس نَاشِرَةٌ  
 نافرمان بیوی

نَشَاطٌ - توشی و بھیت۔ بشارت۔ سرور۔  
 مَذْنِبٌ - نشاط اور توشی اور سرور پیدا کرنے والا۔  
 نَاشِطٌ تَشِيْبٌ - تیز۔ پھرنیلا۔ خوش خوش۔  
 كَشِفَ يَكْشِفُ كَشْفًا - سوکھ جانا۔ جذب کر لینا۔  
 نَشَافٌ - خشک کرنے والا۔ بلا ٹنگ پیپر۔ مَنَشِفٌ  
 رطوبت کو جذب کرنے والا۔ مَنَشِفَةٌ - تولیاج مَنَشِفَةٌ  
 نَشُوْقٌ - سوار۔ سوکنے کی دوا۔ وہ تمام دوائیں جو ناک کے  
 ذریعہ استنماں کی جائیں۔ نَشَامِيٌّ - نشا والی دوا کا اثر۔  
 مَنَشِيٌّ - مستی۔ پیدا کرنے والا۔

نَشْوَانٌ - نشہ میں پور۔ مخمور۔  
 نَمَسٌ يَنْمَسُ نَمَسًا - صاف کرنا۔ ظاہر کرنا۔ نَمَسٌ  
 نَسُوْحٌ - منہن۔ اصل عبارت کسی کتاب کی۔ صاف  
 واضح بیان۔ ہر چیز کی انتہا و نہایت۔ مدکا و رجبہ۔  
 كَرْمَةٌ - وہیں کا کرمہ۔ مَنَصَّةٌ - چھپرہ کھٹ۔ وہ ادب کی  
 اپوکہ میں پردہ لہن کو جٹھانیں۔

مَنَصَّةٌ - صاف۔ لہر پر بیان کیا ہوا۔  
 ہوا۔ واضح کیا ہوا۔ بتلایا ہوا۔ اشارہ کیا ہوا۔  
 نَصَبٌ يَنْصِبُ نَصْبًا وَنَصَبٌ - گالانہ  
 کسی برف پر زبر لگانا۔ نَصَبٌ - نَصَبٌ  
 ہوا حرف۔ نَصَابٌ - نَصَابٌ - نَصَابٌ - نَصَابٌ  
 فرض ہو جاتی ہے۔ کلاس۔ نَصَابٌ - نَصَابٌ  
 کی پیمانی کا کورس۔ نَصَابٌ - نَصَابٌ - نَصَابٌ  
 حصہ۔ قسمت۔ ٹکڑا۔ تقدیر۔ بھاگ۔

مَنْصِبٌ مَنَاصِبٌ - درجہ۔ رتبہ۔ فرض منصبی۔ ڈیوٹی  
 عمدہ۔ کھڑا ہونے کی جگہ۔ مَنَصُوْبَةٌ - میل۔ تہبیر۔











مَنْهَلٌ مِّنْهَا هَلْ - پانی پینے کی جگہ۔  
 نَهَى يَنْهَى - نہیانا۔ روکنا۔ منع کرنا۔ باز رکھنا  
 يَنْهَى بِفُلَانٍ إِلَى - کسی کو کہیں لے جانا۔ لانا یا پہنچانا۔  
 نَهَى مَنَعَتْ - روک۔ تمام۔ کُنْهَى عِنْدَ - ممنوع۔  
 نَهَى مَنَعَتْ - غایت۔ انجام۔ آخر۔ رَأَتْهَا - آخر انجام  
 کھنارہ۔ سرحد۔ غَدِيرٌ مَّتَاهِنٌ - بے انتہا۔ بے حد۔ ناپیدا  
 كَفَارَةٌ تَابَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَاتٌ عَنِ فُلَانٍ کسی کا قائم  
 مقام ہونا۔ ٹائیدہ ہونا۔ کسی کے بجائے کام کرنا۔

آتَابَ يُذِيبُ إِتَابَةً إِلَى - کسی کی طرف بار بار لوٹنا  
 نَوْبَةٌ حُ نُوْبٌ - باری۔ وقت۔ زمانہ کا چکر۔ بَيِّنَةٌ  
 قائم مقامی۔ نَائِبٌ حُ نَوَائِبٌ - قائم مقام۔ خلیفہ۔ نمائندہ  
 سَفِيرٌ نَائِبَةٌ حُ نَوَائِبٌ - مصیبت۔ بلا۔ آفت  
 إِتَابَةٌ - کسی کی طرف جھکنا۔ مُذِيبٌ - اللہ کی طرف رجوع  
 کرنے والا۔ نَائِبٌ الْفَاعِلِ - فعل مجہول کا مسند الیہ مفعول  
 مَالِمْ يَسْتَفَاعِلُهُ - تَجْلِسُ النَّوَابِ - پارلیمنٹ  
 دارالعوام۔ مجلس المندوبین۔

نَاخٌ - يَنْوُحٌ - نِيَا حَنَةً - ماتم کرنا۔ بین۔ نوہ کرنا۔  
 نَوْحَةٌ - بچ و پکار۔ واویلہ۔ مَرُوہ پر بین کرنا۔ ماتم۔ نُوْحٌ  
 حضرت نوح علیہ السلام جن کا لقب آدم ثانی ہے۔ کیونکہ طوفان  
 نوح کے بعد آپ ہی کی نسل دُنیا میں پھیلی۔

نَادَ يَنْوُدُ نَوْرًا وَ نَوْدًا وَ نَوْدًا وَ تَنْوُدُ  
 نَادَ تَنَادَ - چکنا۔ روشن ہونا۔ بھڑکنا۔ تَنْوُدٌ - روشن  
 کرنا۔ مَنُوْدٌ - روشن کرنے والا۔ مَنِيْدٌ - روشنی بخشنے والا۔  
 نَوْرٌ حُ آتَوَادٌ - روشنی۔ نور۔ ضیا۔ چمک۔ مَنَادَةٌ  
 روشنی کا مقام۔ لائٹ ہاؤس۔ آتَوَادٌ - زیادہ روشن

نَادُجٌ نَبْرَانٌ - آگ۔ نَوْدُجٌ آتَوَادٌ - سفید پھول  
 نَيْرٌ - نَيْرَةٌ - چمکدار۔ روشن۔ نَوْرِيٌّ - نور والا۔  
 مَسْتَنْبِرٌ - روشن ہونے والا۔ روشنی حاصل کرنے والا۔  
 نَائِرَةٌ - تھوڑی آگ۔

نَوْرٌ وَ نَوْرٌ وَ نَوْرٌ - ابرائیوں کے شمسی سال کا  
 پیدارون۔ خوشی کا دن۔ نَوْدُجٌ - نڈ کوٹے کا آٹا۔ (چھلچھالی)  
 نَوْشَةٌ - تپ۔ نَسَاوَةٌ - لڑائی۔ جھگڑا۔  
 نَاسٌ - لوگ۔ آدمی۔ انسان۔ نَاسُوتٌ - عالم اجسام  
 مَنَاطٌ - دار و مدار۔ وجہ یا سبب۔

نَوْحٌ حُ آتَوَاعٌ - قسم۔ نوع۔ جنس۔ صفت۔ ڈھنگ  
 طور۔ طریق۔ تَنَوُّعٌ - مختلف قسموں والا ہونا۔ رنگ۔  
 رنگ ہونا۔ متفرق طرزوں والا ہونا۔ مَتَنَوُّعٌ - رنگ  
 رنگ۔ رنگ برنگ۔ قسم قسم کا۔ کئی انواع کا۔

نَمَاتٌ - عرب کے ایک بت کا نام۔ مَنِيْبٌ - بلند۔  
 اونچا۔ عالی مرتبہ۔ نَبِيْلٌ وَ فَرٌ - نیلوفر۔ کنول۔  
 نَمَاقَةٌ حُ نَبَاقٌ - اونٹنی۔

نَيْسٌ - وہ چیز جو حاصل کی جائے۔ حصول۔ تحصیل۔ حاصل  
 کرنا۔ تَنَاقُلٌ - کسی چیز کو لینے یا دینے کا فعل۔  
 مَنَوَالٌ - ڈھنگ۔ طریقہ۔

نَامٌ يَنَامُ نَوْمًا وَ نِيَامًا - سونا۔ اونگھنا۔ نَائِمٌ  
 سونے والا۔ مَنَوْمٌ خواب اور (دوا) نُونٌ - دبل مچھلی۔  
 دوات۔ ذُو النُّونِ - حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے  
 جو تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور زندہ باہر نکلے۔  
 تَنْوِينٌ - وہ حرفِ نون کی آواز جو الفاظ کے آخر میں دو  
 زبردوزیر یا دو پیش لگانے سے پیدا ہوتی ہے۔

مَسُونٌ • ایسا حرف جسیہ تنوین پڑھی جائے۔

نَبَاتٌ ح نَبَاتٌ • ارادہ۔ خواہش۔ نشاء

نَالٌ یَنَالُ نَبَاتًا • پالینا۔ حاصل کرنا۔

نَیْلٌ • دریائے نیل۔ نیل کا پودا۔ نَیْنَدُوْی۔ بابل

کے قریب ایک شہر کا نام۔

نَایٌ عَ بَانَسْرَی۔ نَیْسَانٌ۔ ماہ اپریل۔

## بَابُ الْهَاءِ

۵۔ تین طرح استعمال ہوتی ہے (۱) ضمیر جیسے قَالَ لَدُنَّ

صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَادِرُكَ۔ اس کو اس کے دوست نے

کہا جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ (۲) حرفِ عَجَبِیَّتِ

جیسے اِیَّاهُ۔ اس کو (۳) سکتہ کی ہا جیسے هَلْهِنَا یَہَا

مَا شِیئَہ۔ وہ کیا ہے۔ وَ اَزَیْدَاہ لَی زَیْد۔

ہا۔ یعنی لے لو جیسے هَا اِنکِتَابِ۔ کتاب لے لو۔ هَا ضَمِیْر

مَوْنَتِ جِیے ضَرَبَہَا۔ اُس نے اس عورت کو مارا۔

کِتَابَہَا۔ اس عورت کی کتاب۔

۱۴۔ اشارہ کے پہلے تنبیہ کے لئے جیسے هَذَا هَذَا اِنکِ

رَیہ ہا اَنْتُمْ۔ فرماؤ تم۔ یَا اَیُّہَا التَّوَجُّوْا لَی اَدُوْی

ہَا اللہ۔ خدا کی قسم ہَا و مَر و ہَا و ت (واحد) نم پکڑو

توپکڑے۔

هَبُوْبٌ • ہوا کا چلنا) هَبِیئَہ۔ ڈر۔ خوف۔ ڈرنا۔

مُهَیْبٌ • ہیبت ناک۔

هَبِطَ یَهْبِطُ هَبُوْطًا • نیچے اترنا (پہاڑے)

مَهْبِطٌ • اترنے کی جگہ۔ مہیل۔ عرب کے ایک بت کا نام۔

هَابِیْلٌ • ہابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام

مَهْیَلٌ • رحم کی نالی۔ اندام نہانی۔ هَبَاءٌ • گرد۔ باریک عبا

دوسے جو ہوا میں اُڑنے پھرتے ہیں۔

هَبَسَقٌ • احمق۔ بے وقوف۔ هَا قِیْفٌ عَجِبٌ • آواز پتھر

ہتک یَهْتِکُ ہتکا بے عزتی کرنا۔ ہر وہ چالان

هَجَدَ یَهْجُدُ هَجْوَةً اَوْ تَهْجُدَ جَائِزًا •

تہجد۔ آدھی رات کے بعد کی نماز۔ جو تین رکعت کی بارہ

رکعت تک ہوتی ہے بد تیرہ بھی۔ رمضان شریف کے ہجرت

یہی نماز جب جماعت کے ساتھ قرآن کریم سننے کی غرض سے ادا

کی جاتی ہے۔ تو نماز تراویح کہلاتی ہے کیونکہ راحت لے لے کر

ادا کی جاتی ہے۔ وتر اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی

آخری رکعت طاق ہوتی ہے۔

هَجَرَ یَهْجُرُ هَجْرًا وَ هِجْرًا نَا • ساتھ چھوڑ

دینا۔ هِجْرٌ • جدائی۔ هِجْرَةٌ • آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ترک وطن کر کے جاننا۔ سال

طہجری ثمری • حضور علیہ السلام کی اسی ہجرت سے شروع ہوا۔ جو

آج ۲۵ رمضان مبارک ۱۲۸۰ھ ہے۔ اور ہجری شمسی ۲۴

۱۲۸۰ھ ہے۔ مَہَا یَہْجُرُ • ہجرت کرنیوالا۔ ج مَہَا یَہْجُرُ

وَمَہَا یَہْجُرُونَ • مہاجروں۔ چھوڑا ہوا ترک کیا ہوا۔

ہَا یَہْجُرُونَ • حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہجرت کا نام

الْمَہَا یَہْجُرُونَ • وہ ہجرت کرنے والے تھے۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آگئے تھے۔

هَجَمَ یَهْجِمُ هَجْمًا • کسی پر یکدم ٹوٹ

پڑنا۔ دھاوا کرنا۔ هَجْرَةٌ • ناگہانی حملہ۔ اُردو میں

بکثرت افراد کا ایک جگہ داخل ہونا مراد لیا جاتا ہے۔

هَجَا • یَهْجُوْا هَجْوًا • جو ہکنا یا کرنا۔ ہنسنے کرنا۔



ہاَضُوہ۔ غذا کو پچانے والی دوا۔ ہکذا۔ اسی طرح۔ ایسا  
 ہل۔ کیا۔ حرف سوال ہے۔ ہلا۔ کیوں نہیں۔ ہلالج  
 اہلئے۔ چاند۔ تھیل۔ لالہ۔ لالہ اللہ کہنا۔  
 ہلالی۔ چاند جیسا۔ اشتہلال۔ کسی تقریر یا بیان  
 یا کتاب کا دیباچہ یا ابتدائی حصہ جس سے یہ معلوم ہو جائے  
 کہ اس میں کیا بیان کیا جائے گا۔

حیّ ہلّ و حیّ ہلا علی الصلاۃ۔ آدناز کے  
 لئے جلدی سے آؤ۔ تھلل۔ خوشی کے نعرے لگانا۔  
 اہلیلج۔ ہلبہ۔ ہڑ۔ اہلیندجی۔ ہڑکی شکل کا یعنی  
 بیٹاوی۔

ہلک یتھلک ہلاک۔ تباہ ہونا۔ ہری طرح مرنا۔  
 ہلاکت۔ موت۔ بربادی۔ تباہی۔ ہالیک مرنا۔  
 مہلک۔ ہلاک کرنے والا۔ مہلکت۔ ہلاک کر نیوالی  
 مرض ج مہلکات۔ مہلکتج مہالک ہلاکت  
 کی جگہ۔ ہلکم ہلکی۔ مٹ ہلکاج ہلکوا۔  
 یہاں آؤ۔ آؤ۔ لاؤ۔ دو۔ ہلکج۔ اسی طرح آگے۔  
 اسی طرح سے وغیرہ وغیرہ۔

ہم۔ وہ تمام لوگ ضمیر جمع مذکر غائب۔  
 ہم یتھم ہما و آہم۔ فکر میں ڈالنا۔  
 اہتمام۔ کسی بات کے متعلق متفکر ہونا۔ دوڑ دھوپ کے تا  
 مہتمم بالشان۔ بہت ضروری معاملہ یا کام۔ آہم  
 بہت ضروری۔ بہت قابل توجہ۔ ہتمم ہتمم فکر تڑو  
 مہتمم۔ ضروری بات۔ ضروری معاملہ۔

ہتمم ج ہتمم۔ ہمت۔ طاقت۔ قوت۔  
 ہاتم ج ہوام۔ کھڑا کھڑا۔ آہمیت۔ ضروری معاملہ  
 کا اہم ہونا۔

مہتمات۔ ضروری امور۔ مہتموم۔ متفکر  
 اہتمام۔ کسی معاملہ کا بندوبست کرنا۔ اہتمم  
 انتظام یا فکر کرنے والا۔ ہتمم۔ ہمزہ (ء) مہتمم  
 ج مہامیمز ہمیز۔ آکس۔ مہتموم۔ وہ لفظ ہے  
 ہمزہ بطور علامت لگا یا جاوے۔ وہ فعل جس کے حروف آہی  
 میں ہمزہ ہو۔ ہمزے والا صیغہ۔ ہتمم ج ہتممات  
 وسوسہ۔ ہتمم۔ بدگو۔ اہتمام۔ بے توجہ کرنا۔ لاپرواہی  
 سے کام لینا۔ مہتمم غیر متصل۔ بے معنی یا بھل لفظ۔  
 وہ حرف جسر نقطے یا اعراب نہ ہوں۔

ہامان۔ ذرخون کے وزیر کا نام۔ ہمیان۔ روپیہ وغیرہ  
 کی شبیلی۔ ہوا۔ ہما ہون و ہما ہونی۔ بادشاہی  
 ہن۔ وہ سب عورتیں۔ ہمزہ جمع مؤنث غائب۔

ہتی۔ خوش ذائقہ۔ لذیذ۔ مزیدار۔ ہتیاء۔ مزیدار  
 رچتا پچتا۔ خوشگوار۔ تہنیۃ۔ مبارک باد۔  
 ہند۔ عورت کا نام۔ آلہند۔ ہندوستان۔  
 جوز آلہند۔ ناریں۔ ہندی ج ہندی ہندی  
 ہندو۔ مہند۔ ہندوستان کے فولاد کی تلوار

ہند ستہ پیمائش۔ تمیز۔ انجینیئر۔ ہند ستہ  
 جیومیٹری۔ اقلیدس۔ انجینیئر۔ ہند ستہ  
 اقلیدس دان۔ انجینیئر۔ علم ہندوستان کے  
 یا جیومیٹری کے متعلق

ہن و ہمننا۔ یہاں زبان جس  
 ہنک و ہنک۔ ہاں۔ ہاں۔ ہن و ہن  
 مذکر غائب جاندار اور بے جان کے لئے آہی ہن و ہن

ہن و ہن۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام  
 کا اہم ہونا۔

هُودٌ وَيَهُودٌ يَتَّبِعُونَ - یہودی

هُودٌ بَحْرٌ - اونٹ کا پر وہ دار ہودہ - کجاوہ - هُوَذَا - دیکھو  
لے لو - یہ وہ ہے - تَهُودٌ بے باکی - نڈر پن بے دھڑکن  
بہادری - مُتَهَوِّدٌ - جو آدمی بے دھڑکے کسی اہم کام میں کود  
پڑے - هَوْلٌ - خوف - ڈر - اندیشہ - دہشت -

أَبُو الْهَوَلِ - مصر کے ایک عظیم الشان بُت کا نام جو دُنیا کے  
عجائبات میں شمار ہوتا ہے -

هَائِلٌ - خوفناک - ڈراؤنا - مہیب - دہشتناک -

إِهَانَةٌ - ذلت - حقارت - بے عزتی - تَهَاوَنٌ - سُستی  
صہین - ذلیل کرنے والا - هَيِّئْ - آسان - آهَوْنٌ -

بہت سہل و آسان - هَوَى ج آهَوَا - نفسانی خواہش عشق  
مجت - هَوَاءٌ ج آهَوِيَةٌ - ہوا - فضاء -

هَوَاتِيٌّ - ہوا سے تعلق رکھنے والا - هَاوِيَةٌ - دوزخ -  
ہی ج هُنَّ - ضمیر مؤنث غائب - جاندار و بے جان کے لئے

استعمال ہوتی ہے - هَيَّاءٌ - تَهيَّئَةٌ - تیار کرنا - آمادہ کرنا  
تَهيَّيَا - تیار شدہ - درست کیا ہوا -

تَهيَّئَةٌ - تیار - تہیہ - آمادگی - هَيَّئَتْ ج هَيَّئَاتٌ  
شکل - صورت - عِلْمُ الْهَيَّئَةِ - اجرام سماوی کے حالات کا علم -

هَابٌ يَهَابٌ هَيَّيَةٌ وَمَهَابَةٌ - ڈرنا - خوف کرنا -  
عزت و تعظیم کرنا - هَيَّيَةٌ - رعب - خوف - ڈر - تعظیم -

مَهِيْبٌ - خوفناک - رعب و اب والا - مَهَابَةٌ - خوف - ڈر - عزت  
عظمت - هَيَّجَانٌ - جوش - جذبہ - ولولہ - امنگ -

هَيَّضَةٌ - کالا - اسہال و قے کی مرض -  
هَيَّكَلٌ ج هَيَّاكِلٌ - مندر - ڈھانچہ - کافروں کی عبادت گاہ

هَيَّاكِلٌ - گنڈل - ہیبڈلی - بلاشکل و صورت کا مادہ -

هَائِمٌ - سرگردان - عاشق - الْمُهَيِّمُ - نگران - محافظ  
(حذا) هَيَّهَاتٌ - اسم فعل مجھے وہ دور ہوا - یہ کس قدر  
دور ہے - ناممکن ہے - مشکل ہے - کیسے ہو سکتا ہے -

## بَابُ الْوَاوِ

وَآوٌ کے کئی معنی ہیں - حرف عطف بمعنی اور - اور بھی - نیز  
جیسے جَاءَ ذَيْدٌ وَعَمْرٌو - زید اور عمر آئے -

(۲) وَآوٌ حَالِيَةً جَاءَ ذَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِحَةٌ  
زید سورج چڑھے آیا یعنی جبکہ - وَاخَالِيكَ -

(۳) حرف قسم جیسے وَاللَّهِ اللّٰهُ کی قسم - (۴) مَصَابِحٌ  
جیسے مَا نَلِكُ وَذَيْدٌ انہیں زید سے کیا کام یا کیا مطلب ہے؟

(۵) حرف سوال کے بعد معنی تو کیا؟ جیسے أَوَعَجِبْتُمْ - تو  
کیا تم کو تعجب ہے؟

(۶) دَيْتٌ کے معنوں میں - وَكَيْلٌ كَمَوْجِ الْبَحْرِ - اکثر  
راتیں سمندر کی لہر کی طرح -

(۷) زائد بعد لآ جیسے مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَهْ طَمَعٌ  
أَوْ حَسَدٌ - نہیں کوئی مگر اس کے لئے طمع یا حسد ہے -

وَآءٌ - حرف تاشف بمعنی آہ - آف - لائے - جیسے وَآءٌ  
أَسْفَاعِيٌّ يُوَسِّفُ - وَانْحَبَاةٌ - کسی عجیب چیز ہے؟

وَبَاءٌ - وَايَا مَتَعَدِيٍّ بِيَارِيٍّ - وَبَائِيٌّ - وَايَا مَتَعَدِيٍّ رُكْنِيٍّ  
تَوْبِيخٌ - ملامت کرنا - جھڑکنا - وَانْتَابٌ - مَوْبِدٌ - پروت

موس کا - وَبَرَجٌ أَوْ بَارٌ - أَوَانٌ - شہم -  
أَهْلُ الْوَيْرِ - خانہ بدوش - أَوْبَاشٌ - آوارہ لوگ -

وَبَالٌ - بُرَا انجم - شدت و سختی مسیبت -  
وَتَدَجٌ أَوْ تَادٌ - لکڑی کی میخ یا کھونٹی - علم - عروض میں تین  
حرفوں کا مجموعہ -

وَلِيَّ اللَّهِ - قطب - غوث - ابدال - وِثْرٌ - اکیلا - طاق - وِثْرٌ غار  
تَوَاتَرٌ - لگانا - مُتَوَاتِرٌ - لگانا آنے والا - مسلسل -  
وِثْرٌ وَ وِثْرٌ - وہ خط جو دائرے کے محیط کے ایک نقطے  
کو دوسرے نقطے سے ملائے کمان کی مانند -

وَتَبْرَةً - طریقہ - ڈھنگ - طرز -

كَبَلُ الْوَتِيِّنِ - دل کی ایک رگ - شاہ رگ -

وَتَّقَ يَثِقُ وَتُوقَاتِبُ - کسی پر بھروسہ یا اعتماد کرنا  
ثِقَةٌ - ثِقَاتٌ - معتبر - قابل اعتماد - وَثِيقَةٌ - ہمد  
بیمان - پروانہ راہداری - اسٹامپ - وَثِيقٌ - پختہ مضبوط

مِيثَاقٌ - مَوَاطِنٌ - ہمد و پیمان - قول و قرار -

مَوْثِقٌ - پختہ کیا ہوا - مضبوط - تَوَثِيقٌ - پختہ کرنا -

وِثَاقٌ - بندش - بیڑی - وَثْنٌ - آؤقان - بت صنم

مورتی - وَثْنِيٌّ - بت پرست -

وَجَبٌ - يَجِبُ وَجُوبًا - ضروری ہونا - لازم ہونا

وَاجِبٌ - وَاجِبَاتٌ - فرض - لازمی - ضروری -

مُسْتَوْجِبٌ - ضروری خیال کیا ہوا - لائق جاننا ہوا -

وَاجِبُ الْوُجُودِ - جو خود بخود موجود ہو - جو ہمیشہ سے ہو -

اور ہمیشہ رہے یعنی اللہ تعالیٰ -

رَاجِبٌ - اثبات - تسلیم - ثبوت - مُوسِبٌ - وجہ -

سبب - علت - باعث - يَمُوسِبٌ - مطابق - موافق

بحسب - مُوجِبَةٌ - مُوجِبَاتٌ - کوئی بڑا فعل یا ن

جس سے جنت یا دوزخ واجب ہو جائے -

وَجَدٌ - يَجِدُ وَجُودًا - وَجْدَانٌ - پانا - کھویا

ہوا پانا - کسی خاص حالت میں پانا - رَاجِبَةٌ - پیدا کرنا -

وجود میں لانا - بنانا - پہلے پہل کوئی چیز بنانا - ایجاد کرنا -

وَجْدٌ - خوشی - رقص - یا غم کا جذبہ - وَجْدَانٌ - اندرنی  
احساس - ادراک - اِلْقَا - فراست - وَجْدٌ - انبیا میں  
وہ چیزیں جو دل کی آنکھ سے دیکھی جائیں - وہ باتیں جن کا  
احساس صرف دل کرے -

وَجُودٌ - ہستی - موجودگی - وجود - مَوْجُودٌ - وجود

رکھنے والا - پایا ہوا - بلا ہوا - اَلْمَوْجُودَاتُ - وجود رکھنے

والی چیزیں - مخلوقات - رَاجِبَاتٌ - نئی دریافت شدہ

چیزیں - ریڈیو - بجلی وغیرہ -

وَجُودٌ - دوائی جو منہ میں ڈالی جائے - جُودٌ - شکل

وَجَزِيحَةٌ - رَاجِبَةٌ - گفتگو - فخر کرنا -

رَاجِبَةٌ - مختصر کلام - اختصار - مختصر ہونا - بِالرَّاجِبِ

خلاصہ کے طور پر - مَوْجِبَةٌ - مختصر کلام اور جہزی میں سمجھا

جانے والا -

وَجَعٌ - يَجَعُ وَجَعًا - دروغسوس کرنا - وَجَعٌ -

أَوْجَاعٌ - درد - دکھ - بیماری - مُوجِعٌ - دردناک - درد سے بھرنا

وَجْهٌ - يُوْجَهُ وَجَاهَةٌ - رعب و اب والا ہونا معزز ہونا -

وجہ ہونا - وَجْهٌ - وَجُوهٌ - منہ - چہرہ - بشرہ -

تَوَجُّدٌ - کسی طرف منہ کرنا - مَوَاجِبَةٌ - ایک دوسرے

کی طرف منہ کرنا - دُوبُودٌ - تَوَجُّدٌ - تَوَجُّدٌ - تَوَجُّدٌ

جِهَةٌ - جِهَاتٌ - متبادلات - بائیں - طرف -

وَبَاهَةٌ - رعب و اب و قار - وَجِيهَةٌ - مدد - باوقار -

مَتَوَسِّبَةٌ - کسی طرف رخ کرنا والا - مَوْجِبَةٌ - تَوَجُّدٌ - تَوَجُّدٌ

أَوْجَاعٌ - پوہا -

وَجْدٌ - يَجِدُ وَجْدًا - اکیلا ہونا - تنہا ہونا - پناہ ہونا

الک - فٹلک ہونا - وَجْدٌ - اکیلا ہونا - پناہ ہونا -



وَذِقْ آذَانُ - پتا کتاب کا ورق۔ کاغذ کا ورقہ۔  
وَذِقْ كَاغِدَانُ - وِرْكُ - چوڑے ٹوہا۔ سرین۔ وَذِقْ نَبَا  
وَرِمَ بَرِمَ وَرَمًا وَتَوَرَّمْ - سوجنا۔ پھولنا۔ وَرَمَج  
أَوْرَامٌ - آماس۔ گلٹی۔ پھوڑا۔ ورم۔ سوجن۔ تَوَرَّمْ سُوْنُ جَانَا  
مَتَوَرَّمْ سُو جَا ہُوا۔

رِيَّةٌ - پھیپڑا۔ شَشْ - ذَاتُ الرِّئِيَّةِ - نوبیا  
تَوَرِيَّةٌ - اخفا پوشیدگی۔ ایسا لفظ بولنا جس کے معنی  
مفہوم ہوں۔ تَوَرَاتٌ - توریث شریف۔

مَتَوَادِي - چھپ جانے والا۔ وَرَاءُ الْوَرَاءِ - جواز مخفی  
اور چھپا ہوا ہو۔ سَبْدُ الْوَرِي - مخلوق کا سردار۔

وَرْمٌ - مرغابی۔ جھگی بطخ۔ جَلْ مَرْمِي - مینز اب۔ پرنا۔

وَرْدٌ كَيْزٌ وَرْدًا - بوجھ لے جانے والا۔ وِرْدٌ  
أَوْرَادٌ - ہتھیار۔ آلہ۔ گناہ۔ قصور۔ بوجھ۔ وَرِيْرُج  
وَرْدَاءٌ - بوجھ اٹھانے والا۔ وَرَادَةٌ - وزیر کا ہمدم۔

وَرْنٌ بَرْنٌ وَرْنَاً - تولنا۔ وزن کرنا۔ مَبْرَانٌ - ترازو  
کانٹا۔ شعر کا وزن۔ مَوْرُونٌ - تولنا ہوا۔ وزن کیا ہوا۔

مَوْرُونٌ - مَوْرَانَةٌ - برابری مساوات۔ مقابلہ۔

وَرْنٌ آوْرَانٌ - پورا تول۔ ماپ۔ مَتَوَادِي - برابر مجاز  
یا کبیر۔ وَرْمَجٌ آوْرَاخٌ - میل کچیل۔ گندگی۔ میدان

وَسَارَةٌ - تکیہ۔ گدی۔ مند۔ وَرْمَجٌ آوْرَاخٌ - درمیان  
معتدل۔ مَتَوَسِّطٌ - درمیان۔ مَبْرَانٌ - مَبْرَانٌ - مَبْرَانٌ

وَسَائِعٌ - ذریعہ۔ وسیلہ۔ سبب۔ وَرْمَجٌ آوْرَاخٌ -

درمیان میں پڑنا۔ وسیلہ بننا۔ تَوَسِّطٌ - نالٹا بننا۔ مَبْرَانٌ  
میں پڑنا۔ مَبْرَانٌ مَتَوَسِّطٌ - بحر روم۔

وَسِعٌ يَسِعُ سَعَةً - سما لینا۔ گنجائش رکھنا۔

سَعَةٌ وَشَعَةٌ - فراخی۔ وسعت۔ پھیلاؤ۔ گنجائش  
اِتِّسَاعٌ - کشادگی۔ درازی۔

اَلْوَا سِعٌ - وہ ذات جس کا رحم سب کو گھیرے ہوئے ہو  
جسکی عنایت سب کے شامل حال ہے یعنی خدا تعالیٰ و نبارک  
تَوَسِيْعٌ - وسعت دینا۔ اَدَا السَّعَةَ - وسعت والا  
محلہ۔ مَوَسِعٌ - دولت مند۔

وَسَلٌ يَسِلٌ وَ سَيْلَةٌ وَ تَوَسَّلُ اِلَى اللّٰهِ كَيْ  
نیک عمل کے ذریعہ خدا کا قرب چاہنا۔ وَ سَيْلَةٌ وَ سَائِلٌ  
قُرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تَوَسَّلُ - وسیلہ۔ درخواست۔  
النماس۔

وَسِمٌ يَسِمٌ وَ سَمًا - نشاندار کرنا۔ وَ سَيْدٌ  
حسین۔ جمیل۔ خوبصورت۔ سَمِيْلٌ - سَمِيْلٌ - سَمِيْلٌ  
مَوَسُوْمٌ - نشان لگایا ہوا۔ تَوَسَّحٌ - چہرہ دیکھ کر بھائی  
معلوم کر لینا۔ مَوَسِيْرٌ مَوَسِيْرٌ - حج کا زمانہ۔  
جشن۔ تہوار۔ عام مجمع۔

وَسَاوِسٌ يُوَسُوِسُ وَ سَوَسَةٌ وَ سَوَا سَا  
لی والی کسی کو ورغلانا کسی کو بری رائے دینا۔ وَ سَوَسَةٌ

وَسْرَا سٌ وَ سَاوِسٌ - شیعان کے۔ وَ سَوَسَةٌ  
خیالات۔ فاسد خیال۔ اَلْوَسْوَسَاتُ -

وَسْوَسَةٌ - سودا۔ مَوَسِيٌّ - مَوَسِيٌّ - مَوَسِيٌّ - مَوَسِيٌّ  
مَوَسِيٌّ - حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر توریث شریف

نازل ہوئی تھی۔ وَ سَوَسَةٌ - حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق  
کئے والا۔ یہودی۔ تَوَسَّاتٌ - نسلی دینا۔ وَ سَاوِسٌ - مار

تَوَسِيْعٌ - مار پھینانا۔ اصطلاح میں ناس قسم کے اشعار کہنا  
وَصَفٌ يَصِفُ وَ صَفًا وَ سَفَةٌ - بیان کرنا۔ حال

بنلانا۔ مدح بیان کرنا۔





مَنْوُظِفٌ - عہدہ دار۔ آفیسر۔ وظائِفُ الْأَعْضَاءِ  
اعضار کے اعمال۔ علم الاعضا۔ فزیالوجی۔

وَعِبَ يَعِيبُ - وَعَيْبًا وَاشْتَوَعِبَ - کوئی چیز کل کی  
کل سے لینا یا لاشتیعاب بکمل طور پر۔ کمال طور پر پورا  
کا پورا۔

وَعَدَ يَعِدُ وَعْدًا وَعِدَّةً وَمَوْعِدًا - کسی سے قول  
واقرار کرنا۔ بچن کرنا۔ آوَعَدَ إِيعَادًا - ڈرانا۔ دھمکانا۔  
تہدید کرنا۔ عِدَّةٌ وَعِدَّةٌ - قول۔ بچن۔ وَعَيْدٌ - دھکی۔  
تخویف۔ عذاب کا وعدہ۔ مِيعَادٌ مَوْاعِيدٌ - وعدہ کو پورا  
کرنے کا وقت یا مقام۔ مَوْعُودٌ وہ شخص یا چیز جس کا وعدہ  
دیاجائے۔ مَوْعُودَةٌ - وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

وَعَظَّ يَعِظُ وَعِظًا وَعِظَةً - نصیحت کرنا۔ نیکی کی ترغیب  
دینا۔ بھلائی کرنے کو کہنا۔ وَعِظٌ وَعِظَةٌ - مَوْعِظَةٌ  
مَوْاعِظٌ - پسند۔ نصیحت۔ نیکی کی ترغیب۔ وَاعِظُجُ وَاعِظَةٌ  
وَاعِظُونَ وَاعِظِينَ - لوگوں کو بھلائی کی تحریک کرنے والا  
وَعِظًا - مذہبی پچرا۔

وَعَاءٌ جِ آوَعِيَةٌ - برتن ظرف۔ باسن۔ تَوَعَّلٌ - علم میں  
گہرا جانا۔ علم میں تبحر حاصل کرنا۔

وَقَدَّ يَفِدُّ وَقَدًّا وَوَقُودًا إِلَى سَفِيرًا نَائِبُهُ بِنِ كَر  
کسی بادشاہ کے دربار میں جانا۔ وَقُدُّجٌ وَوَقُودٌ - نمائندوں کا  
گروہ۔ سفارت۔ ایچی۔ سفیر۔ وَافِرٌ - زائد۔ بکثرت  
وَقُودٌ - بڑھا۔ زیادہ ہونا۔ بکثرت ہونا۔ بڑی مقدار۔ کمال۔  
أَوْفَرٌ - بہت زیادہ۔ مَوْفُودٌ - پورا پورا۔

وَقَفَّ يَفِيقُ وَقَفًّا - موافق پانا تَوْفِيقٌ - کامیابی۔  
اقبال مندی۔ توفیق الہی۔ اِتِّفَاقٌ - کسی بات پر راضی ہونا۔

مَوَافَقَةٌ - مطابق ہونا۔ منشا کے موافق ہونا۔ مطابقت  
مناسبت۔ تَوَافُقٌ - مطابقت۔ موافقت۔ مُتَّفِقٌ  
کسی بات پر راضی ہونے والا۔ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ - جیسے اتفاق ہو  
گیا ہو۔ وَفَّقٌ - مطابق۔ مناسب۔ ٹھیک طور پر۔ اِتِّفَاقٌ  
اتفاقہ۔ ناگہانی۔ اچانک۔ عارضی۔ مَوَافِقٌ - مناسب حسب حال  
کھٹک۔ آرام دہ۔ مَوْفِقٌ - جس کو توفیق دی گئی ہو۔

وَفَى يَفِي وَفَاءً وَآوَى يُوْفِي إِيفَاءً وَبِ كَسِي كَا  
اپنے وعدہ کو پورا کرنا۔ اپنے قول و اقرار پر قائم رہنا۔ وعدہ وفا  
کرنا۔ قرضہ ادا کرنا۔ عہد و پیمانہ پورا کرنا۔

وَفَى يُوْفِي تَوْفِيَةً وَوَأَى وَآوَى حَقَّةً - کسی کا  
حق پورا پورا ادا کر دینا۔ تَوْفَاةُ اللَّهِ - خدا تعالیٰ نے اس کو  
ماردیا۔ اللہ پاک نے اس کی رُوح قبض کر لی۔

وَفَاءٌ وَرِيفَاءٌ - وعدہ وفائی۔ ایفائے عہد۔ وَفَاتٌ جِ  
وَفِيَاتٌ موت۔ وفات تُوْفِيٌّ - مرنا۔ تُوْفِيٌّ - تُوْفِيٌّ مارنا رُوح قبض کرنا  
تُوْفِيًّا وَوَفَاتًا - مرنا۔ رُوح قبض ہونا۔ بے حس و حرکت ہو جانا  
مُتَوَفِّيٌّ - وفات دینے والا۔ مُتَوَفِّيٌّ - وفات یافتہ۔

مُتَوَفِّيَةٌ - اِشْتِيْفَاءٌ - پوری مقدار میں اپنا حق لے لینا  
وَإِنِّي - بکثرت۔ وَقَّتْ - وقت مقرر کرنا۔ وَقْتٌ جِ أَوْقَاتٌ  
وقت۔ مدت۔ ميعاد۔ وَقْتِيٌّ - وقتی۔

مَوْقِفٌ - کسی خاص وقت کے لئے مقرر کیا ہوا۔ مَعِينٌ کیا ہوا  
مِيقَاتٌ - مَوَاقِفُتٌ - مقرر کیا ہوا وقت کسی کام کا وقت  
یا جگہ۔ وَقَا حَتَّةٌ - گستاخی بے شرمی بے حیائی۔ شوخ جہمی  
وَقَادٌ - تیز روشن دل۔ عقلمند۔ تیز طبع۔ طبع رسا رکھنے والا

وَقَادٌ - بردبار ہونا۔ معزز ہونا۔ تَوْقِيرٌ - عزت کرنا۔ عظمت  
کرنا۔ وقعت کرنا۔ مَوْقِرٌ - صادر عزت و عظمت معزز و عظیم

وَقَعَ يَقَعُ وَقُوعًا - گر پڑنا۔ وَقَعُ وَقُوعٌ - واقع ہونا۔ اتفاق۔ وَقَعَةٌ - پوٹ۔ احساس۔ عَزَّ وَقَعٌ مَثَاقِفَةٌ وَاقِعَاتٌ - حادثہ۔ واقع ہونا۔ واقع ہونے والا۔ برباہ ہونے والا۔ بلا۔ آفت۔ مصیبت۔ وَقِيحٌ - وقعت و حُرْمَتٌ وَاللَّاقِيحَةُ وَقَائِعٌ - خاص واقعہ۔ تَوَقُّعٌ - اُمید۔ اَسْ - تَوَفِيحٌ - کسی تحریر پر دستخط۔ فرمانِ حکم۔

مَوْقِعٌ مَوَاقِعٌ - وہ جگہ جہاں پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ وَقُوعٌ - فِي الْوَاقِعِ - دراصل۔ درحقیقت۔ واقعی طور پر۔ وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا وَقُوفًا - کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا۔ رُكَّ جَانًا - تھم جانا۔ تَوَقُّفٌ - پس و پیش کرنا۔ ہچکچانا۔ وَقْفٌ جَاقِفٌ - وہ چیز یا رویہ جو مذہبی یا دینی کاموں کے لئے مخصوص کر دی جائے۔ وَاقِفٌ جَاقِفِيْنَ دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے والا۔ کھڑا ہونے والا۔

(اردو آشنا دوست)

دُقُوفٌ سکون۔ مَوْقِفٌ جَاقِفٌ - کھڑے کی جگہ کھڑا ہونے کا مقام۔ قیامگاہ۔ مَوْقُوفٌ - کسی پر منحصر۔ وہ جس کا دار و مدار دوسرے پر ہو۔ بَوَقْرٌ الْوَقْفَةُ - حج کا دن۔ وَاقِفٌ عَلَيَّ - مطلع۔ باشیر۔

وَقِي يَقِي وَقِيَةً - حفاظت کرنا۔ نگرانی کرنا۔ نگاہ رکھنا۔ بچانا۔ اِنْفِي يَنْفِي نَفِيَةً وَاقِفَةٌ - خدا کا خوف کرنا۔ پرہیزگار ہونا۔ تَقِيٌّ وَتَقِيَةٌ - خوفِ خدا گناہوں سے پرہیز۔ تَقِيٌّ جَاقِفِيٌّ - نیک پرہیزگار۔ خدا سے ڈرنے والا۔ مَشْفِيٌّ - خدا سے ڈرنے والا۔ تقویٰ شہاد۔

مَشْفِيٌّ جَاقِفِيٌّ - کسی پرہیزگار کے لئے۔ اَلْمَوَالِدُ الشَّلَاةُ - جمادات۔ نباتات۔ حیوانات

فوج کا جلوس کی حالت میں نکلنا۔ سواری کا آہستہ آہستہ چلنا۔ اَلَّذِي وَوَكَّدَ وَوَكَّدَ تَأَكِيدًا - پختہ کرنا۔ پکا بانڈھنا۔ تَوَكُّيدٌ وَتَأَكِيدٌ - استحکام۔ مضبوطی۔ پختگی۔ تَأَكِيدُ - کسی لفظ یا خیال کا تکرار۔ بِالتَّأَكِيدِ - یقینی طور پر۔ مَوْكَّدٌ مَثَاقِفَةٌ - سخت پختہ کیا ہوا۔ دُكْمٌ مضبوط۔ وہ جس کے ہونے میں کوئی شک شبہ نہ ہو۔ اَكِيدٌ - اُسْتَوَارٌ - یقینی۔ پختہ۔

وَكَلَّ يَكِلُ وَكَلًّا اِلَىٰ - کسی پر بھروسہ کرنا۔ معاملہ کسی کے سپرد کرنا۔ تَوَكَّلْ - کسی پر بھروسہ کرنا۔ اپنے آپ کو کسی والہ کرنا۔ وَكَالَةٌ جَاقِفَةٌ - نمائندگی۔ وکالت۔ بھنی قائم مقامی۔ اِتِّكَالٌ - بھروسہ۔ اعتبار۔ وَكَيْلٌ جَاقِفٌ - منتظم۔ منظم۔ مہتمم۔ وکیل۔ کارساز۔ مَتَوَكَّلٌ - اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ وَوَكَّلٌ - وکیل بنانے والا۔ تَوَكَّلْتُ - بھروسہ۔ اعتبار۔ تَوَكَّلْ - تَوَكَّلْ - سپردگی۔ نیابت۔ مَوَالِدٌ - دروازہ۔ داخل ہونے کی جگہ۔

وَلَدٌ يَلِدُ وَوَلَادَةٌ - بچہ پیدا کرنا۔ بچہ بننا۔ بچہ دینا۔ وَوَلَدٌ جَاقِفٌ - بچہ۔ لڑکا۔ تَوَلَّدَ - بچہ پیدا ہونا۔ تَوَالِدٌ - پیدائش سے تعداد میں بڑھنا۔ نسل پھیلنا۔ وَوَلَادَةٌ - پیدائش۔ بچہ پیدا ہونے کی حالت۔

عِلْمُ الْوَالِدَةِ - دایہ گری۔ وائی بنانی کہ فن۔ وَالِدٌ - باپ۔ پدھر۔ وَالِدَةٌ جَاقِفَةٌ - ماں۔ والدہ۔ اَلْوَالِدَانُ - اَبٌ وَوَالِدَةٌ جَاقِفَةٌ - اولاد لڑکا۔ تَوَالِدٌ - پیداکرنا۔ مَوْلِدٌ جَاقِفٌ - پیدائش کی جگہ یا وقت۔ مَوْلِدٌ جَاقِفٌ - کا دن۔ مَوْلِدٌ - جو عربی باپ اور غیر قوم کی ماں کی نسل سے ہو۔

مُتَرَبِّبٌ لفظ۔ مَوْلِدَةٌ - دایہ۔ دایہ۔ مَوْلِدٌ جَاقِفٌ - بنا ہوا۔ اَلْمَوَالِدُ الشَّلَاةُ - جمادات۔ نباتات۔ حیوانات

مَوْلَمٌ مُشْتَقٌ - عاشق - شیدائی - وَرِیْمَةٌ - شادی کی خوشی  
 کا کھانا - جو بیوی کے گھر آنے اور شپ زفاف کے بعد کھلایا جاتا ہے  
 وَتَوَكُّةٌ - گریہ - زاری - نالہ - ماتم مردہ کے لئے -  
 وَوَلِيٌّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ - نزدیک جانا - کسی کے قریب ہونا -  
 وَوَلِيٌّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ - حُكْمَانِيٌّ - حکمرانی کرنا - سلطنت کرنا -  
 بادشاہی کرنا - وَوَلِيٌّ تَوَكُّفِيٌّ - والی بنانا - حکمران بنانا - والی  
 مَوَالِيٌّ - امداد کرنا - مدد دینا - کسی کو دوست بنانا - کسی سے  
 دوستی کرنا - وَوَلِيٌّ جِوَالِيٌّ - دوست - مالک - محسن - وارث  
 وَوَلِيٌّ لِلَّهِ - اللہ کا پیارا دوست - وَوَلِيٌّ جِوَالِيٌّ - وَوَلِيٌّ لِلَّهِ  
 صوبہ - حکومت - سلطنت - دوستی - وَوَلِيٌّ الْعَهْدِ - وارث  
 حکومت - وَوَلِيٌّ جِوَالِيٌّ حَاكِمٌ - حکمران - تَوَكُّفِيٌّ طَافِتٌ  
 اقتدار - اختیار - مَتَوَكُّفِيٌّ - اختیار رکھنے والا - مختار - مَوَالِيٌّ  
 جِوَالِيٌّ - آقا - مالک - غلام - دوست - پڑوسی - مَوَالِيٌّ جِوَالِيٌّ -  
 مسلمان - عالم - مَتَوَكُّفِيٌّ - متوازن - لگاتار - مسلسل - آولی  
 زیادہ مستحق - مناسب - ٹھیک - تَوَكُّفِيٌّ مِّنْهُ بَحِيرٌ لِّبِنَا  
 اسْتِبْلَاءٌ - غالب آنا - فتح کرنا - رَاثِمَاءٌ - اشارہ کرنا - کتایہ  
 اَلْمَوْهِي اِلَيْهِ - جسکی طرف اشارہ کیا جائے اشارہ کیا ہوا بیان  
 کیا ہوا - وَوَامِقٌ - عاشق - پیار کرنے والا -  
 تَوَانِيٌّ - سستی - کاہلی - مَتَوَانِيٌّ - کاہل - سستی -  
 تَانِيٌّ - آہستہ آہستہ کرنا -  
 مِيْنَا وَمِيْنَا - بندرگاہ - لنگرگاہ -  
 وَهَبَ يَهَبُ وَهَبًا - وَهَبَةٌ - بخشنا - عطا کرنا -  
 عنایت کرنا - بطور ہدیہ کے دینا - هِبَةٌ - بخشش - عطیہ -  
 مَوْهَبَةٌ - احسان - عطیہ - جِوَاهِبٌ - وَوَاهِبٌ بَخْتَةٌ  
 وَوَاهِبٌ - بکثرت عنایت کرنے والا (ض)

وَوَاهِبٌ - امام عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد -  
 مَوْهَبَةٌ - دی ہوئی - بخشش کی ہوئی -  
 وَوَاهِبٌ - بہت تیز چلنے والا - خوب بھڑکنے والا -  
 وَوَاهِبٌ - وَوَاهِبًا - خیال کرنا - سوچنا - وہم میں لانا  
 وَوَاهِبٌ - وَوَاهِبًا - وہم - خیال - خیال - ان ایزہ - آل - ذوق  
 وَوَاهِبٌ - وہمی - خیالی - مشتبہ - اکل بکچھ - ایشہا - اشتہا  
 وہم میں ڈالنا - غلط فہمی - مغالطہ - ذومعنی ہونا - تَوَكُّفٌ وَوَاهِبٌ  
 کرنا - وہم کرنا - خیال کرنا - مَتَوَكُّفِيٌّ - خیال کرنا -  
 اَلْوَاهِبَةُ - توت واہم - اَلْوَاهِبَةُ - اَلْوَاهِبَةُ - خیال  
 دورانہ والی طاقت - تَوَاهِبَةٌ - شک - شہم - الزام  
 مَتَوَكُّفِيٌّ - ملزم - مجرم - جس پر کوئی تہمت رکھی جائے - وَوَاهِبٌ  
 کمزوری - نا طاقتی - ناتوانی - سستی - بودا ہیں - وَوَاهِبَةٌ  
 وَوَاهِبَةٌ - کمزور بات - بودی بات - حقیقت چیز  
 وَوَاهِبٌ - حرف شبہ یا آفرین - توجہ یا افسوس ڈالنے کرنے  
 کے لئے ایک کلمہ ہے -

## بَابُ الْبَاءِ

بی - مؤنث کی ضمیر کا کام دیتی ہے -  
 بیا - قریب و بعید کے پکا -  
 بئیس - بئیس - بئیس -  
 بایوس ہونا - معلوم کرنا - بئیس - بئیس -  
 نامید - آئیس - یوس و یوس - نامید -  
 بیس - بیس - بئیس - بئیس - بئیس -  
 سوکھ جانا - بیس - بئیس - بئیس -  
 سوکھا - بیس و بئیس - بئیس - سوکھا ہے -





(۱۲) تکتب لکھی جائے گی (۱۵) اکتتب اس نے لکھ رکھا ہے نام یا کتاب (۱۶) کاتیبون لکھ دو یا ممکنات کر یعنی مقررہ مال لے کر آزاد کرو۔ مکتب وہ غلام جس سے مالک کچھ مال لینے کے بعد آزاد کرے (۱۷) لا تکتبوا مت لکھو تم (۱۸) کاتیب لکھنے والا (۱۹) کاتیبون۔ کاتیبین لکھنے والے۔ (۲۰) کتاب لکھی ہوئی چیز فیصلہ شدت آسان کتاب۔ فرض۔ حکم۔ قدر۔ تقدیر۔ جمع۔ (۲۱) کتب کتابیں (۲۲) مکتوب لکھا ہوا قرآن کریم میں کتب کے ماخذ یا مادہ سے یہ بائیس صیغے آئے ہیں۔ جو کتبہ مجہ معانی کے ایک جگہ لکھ دیئے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کے دستس ہزار الفاظ کے ایک ایک دو دو تین تین یا متعدد معانی پندرہ سو مادوں اور ماخذوں کے ماتحت تحریر کر دیئے ہیں۔ لغات کے شروع میں صرف و نحو کے آسان قواعد اور مادہ اور ماخذ معلوم کرنے کے طریقہ ذکر ہیں الغرض یہ کتاب دنیا میں ایک عجیب و غریب چیز ہے جس کی خوبیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جلد اپنا آرڈر بک کرائیں ہدیہ پانچ روپیہ

جدید عربی بول چال بزبان اردو

## خزائن العربیہ

اس عربی بول چال میں یہ خاص خوبی ہے کہ اس کے مطالعہ سے ہر اردو پڑھانوا مسلمان استاد کی مدد کے بغیر عربی میں گفتگو کرنا سیکھ لیتا ہے نیز تلخیص العربیہ اور خزائن العربیہ ہر دو کی مدد سے تمام آسان عربی کتابیں پڑھ لیتا اور سمجھ سکتا ہے اور دوسری جماعت کے عربی نصاب کو کسی مولوی فاضل پاس معلم کے بغیر خود بخود حل کر سکتا ہے نیز قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے میں بھی یہ دونوں کتابیں بہترین استاد کا قائم مقام ہیں اگر ان ہر دو کے ساتھ آپ اسباق القرآن اور کلید ترجمہ قرآن مجید نامی دونوں کتابیں بھی منگوائیں تو آپ عربی پڑھانے کا چھوٹا سا مدرسہ بھی جاری کر سکتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ

ہدیہ۔ اسباق القرآن ص ۲۷) کلید ترجمہ قرآن مجید یعنی سارے قرآن پاک کی لغات (۳) خزائن العربیہ عربی بول چال ص ۲۴) تلخیص العربیہ یا خلاصۃ اللغۃ اردو ص ۲۴۔ چاروں کتابیں مع محصول ڈاک باوردیہ میں منگوائیں

المستأجر حکیم محمد عبداللطیف شاہد منشی فاضل یوپی فاضل آنر ان پنجابی۔ مین بازار گوالمنڈی ۱۳۱

علیم محمد عبداللطیف شاہد نے استقلال پریس ہسپتال روڈ میں چھپوا کر گوالمنڈی ۱۳۱ سے شائع کیا